



CODICES ORIENTALES
BIBLIOTHECAE REGIAE HAFNIENSIS

JUSSU ET AUSPICHS REGIIS
ENUMERATI ET DESCRIPTI.

~~~~~

PARS ALTERA.  
CODICES HEBRAICOS ET ARABICOS CONTINENS.

---

**HAFNIAE.**  
EX OFFICINA SCHULTZIANA.

1851.

# **CODICES ORIENTALES**

## **BIBLIOTHECAE REGIAE HAFNIENSIS**

JUSSU ET AUSPICIS REGIS

ENUMERATI ET DESCRIPTI.

PARS ALTERA.

**CODICES HEBRAICOS ET ARABICOS CONTINENS.**

---

**HAFNIAE.**

EX OFFICINA SCHULTZIANA.

1851.

# **CODICES HEBRAICI ET ARABICI**

## **BIBLIOTHECAE REGIAE HAFNIENSIS**

JUSSU ET AUSPICIS REGIS

ENUMERATI ET DESCRIPTI.

**HAFNIAE.**

EX OFFICINA SCHULTZIANA.

1851.

## PRAEFATIO.

---

Quae incrementa litterae orientales in Europa quotannis ceperunt, ea catalogos codicum manuscriptorum, quibus thesauri bibliothecarum nemini aut perpaucis cogniti in lucem proferantur, quam maxime exigunt, quare descriptio codicum manuscriptorum orientalium, quorum et copia et praestantia *bibliotheca regia Hafniensis* plurimis bibliothecis occidentalibus antecellit, jam temporibus b. regis *Frederici VI.* constituta erat. Ea quidem ratione bibliotheca nostra plerisque alienis longe praestat, quod quae ex codicibus orientalibus alibi saepissime casu, sive ut spolia ex bellis reportata sive alio modo congesta, inveniuntur, hic maximam partem certo consilio et summo labore acquisita sunt. Quibus igitur praecipuis rationibus copia codicum Hebraicorum et Arabicorum in bibliothecam nostram olim confluerit, paucis commemorare nobis liceat. Eximium ante omnia locum tenet expeditio illa orientalis a viro immortali *Niebuhr* et itineris sociis auspiciis b. m. R. *Frederici V.* a. MDCCLXI—VI. eo consilio suscepta, ut nova adjumenta, quibus studia litterarum sacrarum et orientalium in patria alerentur, undique congererentur. Qui uberrimi fructus inde percepti sint, omnibus notum est: CL. fere codices Hebraici, Arabici, Persici maxime in Aegypto cura viri celeberrimi *Frid. Chr. de Haven* coempti ad bibliothecam regiam accesserunt. Ex codicibus Hebraicis in hoc itinere acquisitis *Kennicottius* ad opus suum



criticum in vetus Testamentum conscribendam VIII. codicibus, ut in singulis catalogi numeris adnotatum est, liberalitate regia sibi commodatis usus est.

A. MDCCLXXIX. cel. *Suhm* collectionem apographorum Arabicorum cel. *Reiskii* emptam bibliothecae regiae annua pecunia sibi et viduae superstiti constituta tradidit, quae quamquam pretium codicum in oriente transscriptorum minime habent, cum aliis conjuncta materiem criticae perutilem exhibent.

A. MDCCLXXXV. bibliotheca regia codices Arabicos et Persicos CCLVIII maximam partem argumenti historici et medici, qui *Christ. Gottlob Kratzensteinio*, in Universitate Hafniensi Professori Physices et Medicinae, titulo hereditatis ex India orientali venerunt, accepit, et eodem fere tempore vir cel. *Georgius Høst* ex civitate Maroccana in patriam redux nonnullis codicibus Arabicis bibliothecam ditavit.

A. MDCCCXXIII. cel. *Dan. Gotth. Moldenhawer* Bibliothecae regiae Praefectus meritissimus codices Hebraicos et Arabicos XXIII. legavit, et a. MDCCCXXX. liberalitate Proconsulis Hafniensis *I. H. Mundtii*, Regi a consiliis status, et *B. Wolfii*, domini praedii Engelholm in Sielandia, bibliotheca regia codices nonnullos Arabicos et Persicos in oriente collectos accepit. A. MDCCCXLV. omnes codices Hebraici et Arabici in bibliotheca Universitatis servati, annuente Rege augustissimo, in regiam bibliothecam translati sunt.

Nulla occasione codicum orientalium copiae augendae praetermissa, duobus annis abhinc auctoritate *E. C. Werlauffi*, praefecti bibliothecae, codices IX. Arabici et Turcici, a b. *C. T. Falbio* in civitate Tunetana et regno Graeciae olim summo mercaturae procuratore (General-Consul) relictis, acquisiti sunt, inter quos Cod. Arab. sub No. CCLXXXVI optimae notae prae ceteris notandus est.

His de comparatione codicum praemissis jam ad viros, qui de codicibus describendis bene meriti sunt, transeamus.

Codicum Hebraicorum et Arabicorum descriptio brevissima a S. Rev. *Adlero*, rerum sacrarum in Ducatu Slesvicensi antistite, in usum bibliothecae elaborata et Catalogo Manuscriptorum Collectionis veteris inserta per longum tempus unicum fere hujus generis litterarum praesidium fuit. (cfr. *J. Erichsen*, Udsigt over den gamle Ma-

nuscriptsamling i det store Kongelige Bibliothek, Hafniae 1786. p. 4—9.) Cujus vestigia vir eximia doctrina b. M. H. *Hohlenberg* in Universitate Hafniensi Dr. & Prof. Theologiae persecutus catalogum codicum Hebraicorum, codicibus Arabicis in hoc opere antepositum, diligentissima cura confecit ejusque editionem paravit. Quae ne ad finem perduceretur, mors tristis et immatura effecit.

Inter codices Arabicos codices caractere Cufico exaratos idem S. R. *Adlerus* libello, qui inscribitur: „*Descriptio codicum quorundam Cuficorum partes Corani exhibentium in bibliotheca regia Hauniensi et ex iisdem de scriptura Cufica observationes novae*, Altonae 1780 4<sup>to</sup>“, diligenter perscrutatus est; quae studia Rev. Mag. *Jac. Chr. Lindberg* continuavit et in epistola Francogallice scripta: „*Lettre à M. le Chev. P. O. Bröndsted sur quelques médailles cufiques dans le cabinet du Roi de Danemarck . . . et sur quelques Manuscrits cufiques*, Copenh. 1830 4<sup>to</sup>“, eximia diligentia et doctrinae copia de antiquissima Arabum scriptura disputavit.

Codicum Arabicorum caractere recentiore exaratorum catalogum in usum bibliothecae privatum conscriptum vir doctissimus b. m. *Janus Lassen Rasmussen*, in Universitate Hafniensi Prof. LL. Orientalium, exhibuit et excerpta in opere: *Fundgruben des Orients* T. IV. p. 325—29 publici juris fecit, quem successor in munere secundus b. m. *Car. Theod. Johannsen* castigavit ejusque editionem auspiciis regis b. m. *Frederici VI.* a. MDCCCXXXVII paravit. Quod ne prospere eveniret, infirmissima valetudo et mors a. MDCCCXL litteris funesta effecerunt. Jacuit aliquamdiu opus inceptum usque ad tempora regis b. m. *Christiani VIII.* Augustissimi litterarum fautoris, qui consilio quatuor virorum constituto: b. m. *C. F. de Rumohri*, *E. C. Werlauffi*, *J. Olshauseni* in Universitate Kiloniensi LL. Oriental. Professoris, *Joh. Nic. Madvigii*, tunc in Universitate Hafniensi L. Lat. Professoris, catalogos codicum omnium manuscriptorum in bibliotheca regia servatorum edi jussit. Quorum catalogorum prima pars, codices Indicos amplectens, in lucem jam a. MDCCCXLVI. prodiit, quam haec altera pars, praeter descriptionem codicum Hebraicorum ab *Hohlenbergo* relictam codices Arabicos continens, studiis assiduis cl. *Olshauseni* denuo castigata et ea ratione tractata, quam status hodiernus litterarum Arabicarum in occidente cultarum postulat, mox secuta esset, nisi

tempora et belli casus humanitatis studiis infaustissimi intervenissent. Septemdecim plagulis typis excusis et a cl. *Olshauseno* emendatis inde ab a. MDCCCXLVIII. usque ad hunc annum opus intermissum est, quum *A. F. Mehren*, in Universitate Hafniensi Lector Litterarum Semiticarum, auctoritate illustrissimi *J. N. Madvigii*, rerum sacrarum et scholasticarum omnium praesidis, permotus ex voluntate praefecti bibliothecae et auctoris opus ad finem perducendum et edendum suscepit.

Quam partem ultima pars catalogi codicum orientalium, quae codices Persicos, Turcicos ceterosque linguarum orientalium nondum descriptos continebit, auspice deo O. M. non longo intervallo temporis interjecto excipiet.

*Hafniae. Pridie Idus Septemb. a. MDCCCLI.*

## Conspectus Argumenti.

### I. Codices Hebraici. Pag. 1—31.

- I.-XXVIII. Codices vetus testamentum vel partes v. testamenti continentes.
- XXIX. Epistola ad Hebraeos in linguam Hebr. translata.
- XXX. Machsor.
- XXXI. Id.
- XXXII. Preces, benedictiones, etc.
- XXXIII. Midrasch in Threnos.
- XXXIV. Observationes criticae et grammaticae.
- XXXV. Commentarius in quinque Megilloth.
- XXXVI. Tria opuscula Aben Esrae: epistola poëtica de sabbatho, libellus de nomine tetragrammato, area sapientiae et hortus cogitationis.
- XXXVII. R. Mosis Majemônidae Doctor perplexorum.
- XXXVIII. R. Mosis Mikkotzi Libri praeceptorum magni pars.
- XXXIX. R. Josephi fil. Gekatiljæ portae lucis.
- XL. R. Jacobi fil. Ascher libri Joreh de'ah pars.
- XLI. R. Samuelis fil. Se'adjah comment. super comment. Aben Esrae in Pentateuchum.
- XLII. Spicilegium explicationum ad R. Salomonis commentarium in Pentateuchum.
- XLIII. Liber cabbalisticus "Arbor vitæ, Isaaci Loriae.
- XLIV. Carmen egregium secundum nomina filiorum hominis auct. Mose Zachûth.
- XLV. Jacobi fil. Ruben narratio de Judæo Salman ben Wolf.
- XLVI. Instrumentorum et formularum exemplaria.

### II. Codices Arabici.

- I.-XLIII. et CCCVIII. 1) *Corani, corani partes, fragmenta.* Pag. 35—44.
- 2) *De interpretatione Corani.* Pag. 44—46.
- XLIV. Commentarii in coranum fragmenta.
- XLV. 'Iszâm ed-Dini Annotationes ad Beidhâwii comment.
- XLVI. E's-'Sirwânii appendix ad comment. Beidhâwii.
- XLVII. E's-'Satibii comment. in loca difficiliora Corani.
- 3) *Codices preces aut continentes aut spectantes.* Pag. 46—48.
- XLVIII. Tractatus de arcanis invocationis dei.
- XLIX. et L. { el-G'uzûlii commentatio de formulis bene precandi;  
Introductio in carmen el-Burde;  
Precationes variae.
- LI. Preces Ja'hjæ e's-'Sirwâni.
- LII. Preces Abd el-Qâdiri el-G'ilâm.
- LIII. Rotulus continens preces magicas.
- 4) *De traditione prophetica.* Pag. 48—50.
- LIV. el-Mârdinii Gemma pura.
- LV. el-Baghawii corpus traditionum el-Maszâbi'h.
- LVI. Ibn el-Melcki commentarius in corpus traditionum esz-Szaghâni.
- LVII.-VIII. *Fragmenta.*
- 5) *De doctrina fidei.* Pag. 51.
- LIX. El-Ghazâlii Quadragenarius de principiis religionis.
- LX. Liber de mirabilibus mundi invisibilis.

6) *De doctrina officiorum, jurum, morum.* P. 52—56.

Abù Mu'hammed el-Qairawânii compendium officiorum;

Comment. Mu'hammedis b. A'hmed in poëma didacticum „el-Mur'sid“.

LXI-II. Comment. in poëma jambicum el-Hebtii.  
Comment. in tractatum 'Aqide es-Sensii.

Comment. in carmen astrologicum es-Süsii el-Merghati.

LXIII. Fragmentum libri de officiis.

LXIV. Ibn el-Meleki comment. in Ibn es-Sâ'âtii librum de institutionibus juris Mu'hammedani.

LXV. el-Qudrîi compendium juris.

LXVI. G'ewâhir el-fiqh auct. Tâhir b. Islâm.

LXVII. Neg'm ed-dini en-Nesefi poëma jambicum de quaestionibus juridicis controversis.

LXVIII-IX. el-Kutbii de virtutibus et vitis commentarius.

7) *De arte homiletica et libri paraenetic.*

Pag. 56—58.

LXX. Abù-l-Fereg'i b. el-G'auzi liber de arte homiletica.

LXXI. { Illuminans corda.  
{ Conciones Ibn-Nubbâtae.

8) *De theologia mystica.* Pag. 58—59.

LXXII. Commentarius in carmen Mu'hammedis el-'Alemi.

LXXIII. 'Atâ allahi liber: "et-tanwir fi isqât et-tebîr".

9) *De doctrina Druzorum.* Pag. 59.

LXXIV. Catechismus doctrinae Druzorum.

10) *Codices bibliorum versiones continentes.*  
Pag. 60—61.

LXXV. Pentateuchi versio Arabica.

LXXVI. Fragmenta duo vet. Testamenti.

LXXVII. Liber Psalmorum.

LXXVIII. Fragmentum Psalmorum.

11) *Codices theologici christiani.* Pag. 61—63.

LXXIX. Pharetra christiana catholica.

LXXX. Catechismus Lutheri minor.

CCCVIII. Ignatii Loyolae liber exercitationum.

12) *Codices Mathematici, Astronomici, Chronologici, Astrologici.* Pag. 63—73.

LXXXI. Euclidis Elementorum libri V.—XV.

LXXXII. Liber de arithmetica, geometria, stereometria.

LXXXIII. Abù-Phuseini esz-Szâfi er-Râzi liber de stellis fixis.

LXXXIV. Qâdhizâdei notae in el-G'aghminii compendium astronomicum.

LXXXV. Tabulae multiplicationis ad calculum sexagesimalem pertinentes.

LXXXVI-VII. Bedr ed-Dini Summa compendiorum de operationibus cum quadrante circulatorum ad horizontem parallelorum et tractatus minores similis argumenti.

LXXXVIII. Ridhwâni Efendi tabulae astronomico-chronologicae.

LXXXIX. Mu'hammedis Laodiceni tabulae astronomico-chronologicae.

XC. Mu'hammedis el-Maghribi Ephemerides anni solaris.

XCI. Abù 'Abd-allahi b. Sa'id es-Sûsi commentarius uberior in carmen suum astrologicum.

13) *De Geographia et historia naturali.* Pag. 73—77.

XCII. Mu'hammedis b. 'Abd-er-Ra'him el-Qaisi compendium de rebus mundi mirabilibus.

XCVI. Ibn el-Werdii compendium geographiae et historiae naturalis.

XCVI. Mu'hammedis b. Abi Tâlib Flores selecti de rebus mirandis in terra marique.

XCVII. Margaritae bene ordinatae auct. anonym.

XCVIII. Abulfedae Geographia.

XCIX-C. Jâqûti Mu'g'im el-buldân.

CI-II. Fragmenta de Nigritia et Africa septentrionali.

CIII. Descriptio itineris per Africam septentrionalem.

CIV. Fragmentum descriptionis Hispaniae.

14) *De historia animalium.* Pag. 78.

CV-VI. Ed-Demirîi vita animalium.

CVII. Aszma'i liber camelorum et liber ovium.

15) *De Medicina.* Pag. 78—81.

CVIII. Mu'hammedis er-Râzi de sanatione prompta.

CIX. Ibn el-G'ezzâri Zâd el Mosâferi.

CX. Davidis Antiocheni liber memorialis cordatorum et collectio mirandorum.

- CXI. Quaestiones Schihábicae.
- CXII-XIII. Ibn G'azlae liber pharmacologicus.
- CXIV. Ibn el-Beitári tabulae pharmacologicae.
- CXV. Margarita selecta de medicamentis probatis auct. Naszr b. Naszr.
- 16) *De historia.* Pag. 81—104.
- CXVI.-VII. Ibn-Qotaibae Notitiae et origines.
- CXVIII. Excerpta e Mas'údii pratis aureis; Excerpta e libro Ibn es-Subkii: classes Schafitarum.
- CXIX. Hamzah Ispahanensis rationarium temporum.
- CXX. Excerpta e libro: Speculum temporum auct. Abú l-Fereg' Ibn el-G'auzi.
- CXX. Fragmentum lexici geographici ez-Zamachscharii.
- CXXI. Abul-farag'ii compendium historiae dynastiarum.
- CXXII. Abulfedae annales Islamici.
- CXXIII. Excerpta e Prolegomenis hist. Ibn-Chaldúni.
- CXXIV-V. Ibn Schí'hnae opus histor.
- CXXVI-VII. Schiháb ed-Dini A'hmed el-Maqarri compendium historiarum.
- CXXVIII. Abú l-'Abbás A'hmed ed-Dimaschqii historiae dynast. et monumenta rerum priorum.
- CXXIX. Excerpta e Nuweirii Encyclopaedia Arab.
- CXXX.-II. 'Huseini ed-Diárbekri vita Mu'hammedis. ed-Dehebi historia Islamismi. Pars I.
- CXXXIII. Ibn-Challikáni vitae virorum illustrium.
- CXXXIV. el-Chutabii compendium historiae chalifarum.
- CXXXV. es-Sujúti historia chalifarum.
- CXXXVI. el-Wáqidii expugnatio Mesopotamiae, Armeniae, regni Persici.
- CXXXVIII. el-Muqrii expugnatio oppidi Behnesae.
- CXXXIX. Taqij ed-Dini el-Fási historiae urbis Mekkae.
- CXL. Qutb ed-Dini historiae expugnationis terrae Jemen.
- CXLI. Ibn er-Rebi'i historiae urbis Zebid.
- CXLII. Ibn-Chatábi historiae regni Halebensis.
- CXLIII. es-Sujúti virtutes templi remotissimi i. e. Hierosolymitani.
- CXLIV.-V. Ibn-Abi-Hag'alaee Saccharotheca.
- CXLVI. Particula operis Maqriizii: descriptio historica et topographica Aegypti.
- CXLVII. 'Omari b. Júsuf el Kindi historiae Aegypti et tractatus de administratione regni Aegyptiaci auct. 'Abd esz-Szamad. es-Sujúti historiae Aegypti et Cahirae.
- CXLVIII. Ibrahimi Ibn Waszif Shah historiae Aegypti.
- CL. Margaritae filis junctae de dynastiis Aegypti.
- CLI.-II. Mar'ii historiae Aegypti.
- CLIII. Mu'hammedis b. 'Abd el-Mu'ti de dynastiis Aegypti.
- CLIV.-VI. Abú-Schámei historiae principum Núr ed-Dini et Szalá'h ed-dini.
- CLVII. Contractus matrimonialis.
- CLVIII. esz-Sziddiqii historiae Aegypti, ab Utmanidis expugnatae.
- CLIX. Historiae Aegypti ab a. h. 1100—1152. auct. Musztafa b. Ibrahim.
- CLX. el-Qartás minus i. e. historiae regni Marroccani.
- CLXI. Compendium historiae Idrisidarum.
- CLXII. Fragmentum libri de historia Mauritaniae auct. Ibn-Bessám.
- CLXIII. edh-Dhabbi historiae virorum illustrium Andalusiae.
- CLXIV. Ibn-Arabschahi oratio finalis historiae Timúri.
- 17) *De Genealogia et Eponomastice.* Pag. 105—106.
- CLXV. Ibn-Dureidi lexicon genealogicum.
- CLXVI. Stemma 'Adnáni et Qa'htáni.
- CLXVII. es Sujúti lib. de nominibus relativis Lubb-el-lubáb.
- 18) *De historia litterarum et bibliographia.* Pag. 106—109.
- CLXVIII. Abu-l-Fereg' el-Iszbaháni libri cantilenarum pars extr.
- CLXIX. 'Imád ed-dini appendix.
- CLXX. Mu'hammedis el-Mu'hibbi appendix.
- CLXXI. Ibn Abi Uszeibi'ae historiae medicorum illustrium.
- CLXXII. Catalogus librorum ex Hag'i-Chalfa excerptus.
- 19) *De Política.* Pag. 109.
- CLXXIII. Ibn Abi-Rendaqa de administratione rei publicae.
- 20) *De Logica.* Pag. 110.
- CLXXIV. Commentarius in Atir ed-dini Isághúg'i.

- 21) *Codices Grammatici*. Pag. 110—117.
- CLXXV. el-G'urg'anii centum regentes.
- CLXXVI. Commentarius el-Idhāh in Zamachscharii el-Mufaszszil.
- CLXXVII. 'Hasan Pāscae comment. in Mutarrizii Miszbā'h.
- CLXXVIII. Ibn el-'Hāg'ibi Cāfiah, Mutarrizii Miszbā'h, G'urg'anii centum regentes.
- CLXXIX.—LXXXII. Ibn el-'Hāg'ibi Cāfiah et comment. fragmenta.
- CLXXXIII. et Teknīii annotationes: „el-Fawāid el-'alijet“; comment. Mu'hji ed-dini in 'Husām ed-dini comment. in Alir ed-Dini Isagogen; Qutb ed-dini comment. in esch-Schemsijje.
- CLXXXIV. Comment. in Ibn el-'Hāg'ibi esch-Schāfia.
- CLXXXV. Ibn-Mālīki Alfija.
- CLXXXVI. Comment. in Ibn Mālīki Alfijam.
- CLXXXVII. Bedr ed-dini el-'Aini comment. in dicta probantia.
- CLXXXVIII. Ibrāhimi b. A'hmed el-'Halebī poēma.
- CLXXXIX. esz-Szinhāg'ii Agrumia.
- CXC. Comment. in Agrumiam.
- CXCI. et CCCIX. Merā'h el-arwā'hi, 'Izzi, el-Maqsūd.
- CXCH. Comment. in Merā'h el-arwā'h.
- CXCIII. Dinqūzi comment. in Merā'h.
- CXCIV. Gabrielis Far'hāt grammatica Arab.
- CXCV. Exercitationes grammaticae.
- 22) *Codices Lexicales*. Pag. 117—119.
- CXCVI. G'auharii lexicon Arabicum.
- CXCVII. Particula lexicī G'auhariani.
- CXCVIII. Firūzābādīi el-Qāmūs.
- CXCIX. A'hmedis b. Mu'hammed el-Maqarrii lexicon: „el-Miszbā'h el-munir“.
- 23) *Codices Rhetorici*. Pag. 119—124.
- CC. El-Teftāzānīi el-Muṭawwel.
- CCI. El-Teftāzānīi el-Muchtaszar.
- CCII. Ibn el-'Abbāsīi commentarius in versus a Qazwinio allegatos.
- CCIII. Sujūtīi 'Uqūd el-G'umān.
- CCIV.—V. Ibn 'Hug'gae comment. in Bedī'iah. P. I.—II.
- CCVI. El-Munāwīi columna eloquentiae.
- CCVII. El-Ta'ālībī de miraculis eloquentiae et de breviter dictis; sententiae 'Alīi b. Abi Tālib.

- CCVIII. Exordia epistolarum et contractuum specimina.
- CCIX. Ibn Zhāfiri „Ex tempore dicta insignia“.
- 24) *Anthologiae et collectiones*. Pag. 124—134.
- CCX. Raudh el-achjār i. e. Prata optimorum.
- CCXI. Excerpta e libro anthologico: rei'hān el-albāb.
- CCXII. Nār ed-dini anthologia: Kitāb el-Murqisz wel-Mutrib; pars 'Hamāsae.
- CCXIII. Excerpta e Nuweirii Encyclopaedia.
- CCXIV. Ibn Abi 'Hag'alae anthologia erotica.
- CCXV. Ibn 'Hug'gae Fructus foliorum.
- CCXVI. Ka'bi b. Zuheir poēma in laudem prophetae; collectio carminum; carmen jamicum de historia chalifarum.
- CCXVII. Carmen el-Bāunīi, Ibn el-Werdīi certatio gladii et calami, Ibn Dureidi carmen Maqsūdra.
- CCXVIII. Anthologia Jūnusi.
- CCXIX. Ibn 'Āszimi anthologia.
- CCXX. Quaestiones theologicae Ibn et-Tūsīi; Schihāb ed-dini „hortus puerorum“ et „stellae currentes“.
- CCXXI. Diwanus Ibn Chafāg'ae.
- CCXXII. Diwanus Ibn-'Afif ed-dini et-Tilimsāni.
- CCXXIII. Diwanus Ibn-Sūdūni el-Beschbaghāwi.
- 25) *Codices narrationes et similia continentes*. Pag. 134—140.
- CCXXIV. Consessus el-Hamadānīi.
- CCXXV.—XXVIII. Consessus el-'Harīrii.
- CCXXIX.—XXX. Ibn Nubbātae commentarius in Ibn-Zeidūni epistolam.
- CCXXXI. *Mu'hammedis el-'Asheri* „Margarita splendens de certatione pontis cum insula“; descriptiones lepidae duae contentionis duarum urbium sanctorum; *Sujūtīi* „argumenta dilucida de praeferenda Mekka aut Medina“; *Zamachscharīi* en-Nawābigh; *ed-Dewānīi* et *Qanālīi* tractatus de calamo; *Ibn-'Hug'gae* tractatus de scalpro; *Ibn el-Werdīi* et *Ibn Nubbātae* tract. de certatione gladii et calami; Abū 'Hanīfae praecepta.
- CCXXXII. *Mu'hammedis* b. A'hmed el-Muqrii collectio narrationum lepidarum.
- CCXXXIII. Collectio narrationum lepidarum.
- CCXXXIV. Narrationes fabulosae.

- CCXXXV. Abu Bekri el-Walibii historia Meg'nūni et Leilae.
- CCXXXVI. Historia fabulosa 'Haiqāri; vigiliae in honorem S. virginis et hymni.
- 26) *Codices Poëtica*, Pag. 140—160.
- CCXXXVII. Abū-Temmāmi 'Hamāsa.
- CCXXXIX. El-Bu'hterii 'Hamāsa posterior.
- CCXL. Diwānus Hudeilitarum cum commentario es-Sukkarii.
- CCXLI. Septem Mo'allaqāt.
- CCXLII. Tantarānii carmen; el-Burde; carmen Taqijj ed-dini es-Subki; Ka'abi b. Zuhair carmen; Surata psalterii; Qasidah el-Munfarig'ah; poëma el-Bustii; poëma theologicum Amāli; poëmata 'Alii b. Abi Tālib; Szafijj ed-dini el-'Hilli el-Bedi'jah.
- CCXLIII. Anthologia poëtica.
- CCXLIV. Diwanus Ibn el-'Alfi.
- CCXLV.—VII. Collectanea poëtica.
- CCXLVIII. Carmina Imru-l-Qaisi; Epicedia vetusta ex recensione Ibn el-A'rābii.
- CCXLIX. Sujātii commentarius in poëma Ka'abi b. Zuhair.
- CCL. Diwanus G'eriri b. 'Atijja; Schanfarae poëma: Lāmiat el-'Arab; diwanus Tahmāni b. 'Amr.
- CCLI.—LII. Diwanus Ibn el-Mu'tazzi.
- CCLIII. Ibn Dureidi carmen Maqsūrah.
- CCLIV. Diwanus Mutanabbii.
- CCLV. Id. cum commentario Wā'bidii.
- CCLVI.—IX. Diwanus Mutanabbii.
- CCLX. Anthologia e carminibus Ibn el-'Hag'-g'āg'i.
- CCLXI.—XII. Abū-l-'Alāi Siqt uz-Zendi cum comment. Tebrizii.
- CCLXIII. Esz-Szafedii commentarius in Tughrāi poëma „Lāmiat-el-'Ag'em“.
- CCLXIV. Diwanus Ibn el-Chajjāti.
- CCLXV. — el-Arrag'ānii.
- CCLXVI. — Abū-l-'Hasani 'Umāre el-Jemeni.
- CCLXVII. Diwanus Ibn en-Nebihi.
- CCCLXVIII.—XIX. — 'Omari Ibn-el-Fāridhi.
- CCLXX. — Zuheiri Behā ed-din.
- CCLXXI. Mu'hammedis b. Abi Bekr poëmata in laudem prophetae; el-Witriāt.
- CCLXXII. Commentarius Scheichzādei in carmen el-Burdeh.
- CCLXXIII.—IV. Carmen el-Burdeh.
- CCLXXV. Diwanus Szafijj ed-dini el-'Hilli.
- CCLXXVI. El-Chaffāfi poëmata in laudem prophetae.
- CCLXXVII. Diwanus Mu'hammedis bin Wefā.
- CCLXXVIII. — 'Abd el-Qādiri ed-Dimāszi.
- CCLXXIX. — Schihāb ed-dini el-Qusantjini.
- CCLXXX. — Qānszuhi el-Ghauri.
- CCLXXXI. — Mamāi er-Rūmi.
- CCLXXXII. Mu'hammedis Schems-ed-din poëmata in laudem prophetae.
- CCLXXXIII. Diwanus el-Chafāg'ii.
- CCLXXXIV. — Ibn el-Chalūfi.
- CCLXXXV. — Ibn Meng'ek Bāschae.
- CCLXXXVI. 'Hāzimi Maqsūra cum commentario Mu'hammedis b. A'hmed Granadensis.
- 27) *De Amore et re Venerea*. Pag. 160—162.
- CCLXXXVII. Zein ed-dini Davidis „Fora amantium condicionibus belle expositis ornata“.
- CCLXXXVIII. Et-Teg'ānii tu'hfet el-'Arūs i. e. donum sponsi.
- CCLXXXIX. En-Nefzāwii „hortus fragrans de deliciis animi“.
- CCXC.—I. Afflictio querentis et lacrima flentis auct. esz-Szafedi.
- CCXCII. Et-Taifāschii Nuzhatel-albāb i. e. oblectamentum cordium.
- 28) *De Arte Physiognomica et Oneirocritice*. Pag. 162—163.
- CCXCIII.—IV. Esz-Szafedii liber de naevis.
- CCXCV. Fragmentum libri de oneirocritice.
- 29) *Codices varii argumenti*. Pag. 163—166.
- CCXCVI. 'Izz ed-dini Exhortatio fidelium ad habitandam Syriam.
- CCXCVII. Esz-Szafedii liber de lacrimis.
- CCXCVIII. Ibn Quteibae et Ibn el-Mu'tazzi libri de potulentis.
- CCXCIX. Mu'hammedis en-Nawwāg'ii 'Halabat el-Kumeit i. e. hippodromus equi fuscii.
- CCC. Collectio litterarum.
- CCCI.—II. Precationes, formulae talismanicae.
- CCCH. Expeditio Tacritensis 'Alii; fragmenta historiae 'Antari.
- CCCI.—VI. Fragmenta varia.



# **CODICES HEBRAICI.**

# I.

(N. 1. in 4to, olim N. 8.)

**C**odex membranaceus in 4to maj., folia, ut nunc est, 381 habens, in quo continetur *Vetus Testamentum*, quadrato caractere scriptum, cum punctis vocalibus et accentibus et utraque Masora. In priore parte, Lege Prophetisque prioribus, atramentum, quo picta sunt puncta, admodum pallidum est. Ab initio et fine mutilus est codex; incipit enim Gen. 22, 9. verbis **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם**, et desinit Neh. 13, 17. verbis **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם**; præterea lacunæ sunt inter 1 Regg. 6, 19. extr. et 8, 34. vv. **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם**; inter Dan. 4, 20. vv. **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם** et 5, 28. vv. **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם**; inter Esr. 5, 3. vv. **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם** et 8, 32. vv. **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם**; denique inter Neh. 10, 1. v. **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם** et 12, 3. init. — Prophetica scripta ordine vulgo recepto exhibentur. Ordo Hagiographorum hic est: Chron., Psalmi, Job., Prov., Ruth, Cant., Eccles., Threni, Esther, Daniel, Esra cum Nehemia. — Textus ternis columnis descriptus est, exceptis libris poeticis, Psalmorum, Jobi et Proverbiorum, qui binas tantum columnas habent: stichometricæ enim, ut fieri solet, licet minus accurate, scripti sunt hi libri, et Jobus quidem ab initio capituli 3. usque ad c. 42, 6. Nonnullis præterea locis textus una columna scriptus est, partim propter exitum librorum — ut fol. 16. v. et 17. r., in quo posteriore terminatur liber Genesis; fol. 89. v. usque ad 93. r. in

fine Deuteronomii a c. 31. 20; fol. 179. v. — 181. r. in fine libri Regum; fol. 275. v. — 277. r. in fine Prophetarum; fol. 319. v. — 320. r. in fine Chronicorum; — partim propter locos poeticos secundum morem receptum stichometricæ scribendos: fol. 24. v. et 25. propter Exod. c. 15, fol. 148. v. — 150. v. propter 2 Sam. c. 22. Canticum etiam Deborah, Judd. c. 5, solito more stichice scriptum est. — Singularum Legis *Parascharum* initia eo quo sæpius fieri solet modo, primis literis vocis **וְהָיָה אֵשׁ וְשָׁרָף אֶת אֶבְרָם** (literis **ו**, **ה** et priore parte literæ **ש**) in margine adscriptis indicata sunt. Notatum est simul, quænam iis *Haphtaræ* respondeant. Item Psalmorum numeri in margine exteriori additi sunt, a prima manu, ut videtur, eodem quo textus atramento scripti. Spatium, quo singuli V. T. libri separantur, diversum est, modo paucorum, modo plurium linearum.

*Masora* parva solito more inter columnas et in margine exteriori, magna in superiore et inferiore scripta est, illic, ut plerumque fieri solet, binis, hic ternis lincis comprehensa. Frequenter, maxime in margine inferiore, in diversis ornamentorum figuras scripta est, sæpe subtilissime: similiter ea, quæ locos una columna scriptos circumdat. Post absolutas singulas e quattuor majoribus librorum classibus ante se-



iisdem obviis aut non obviis cet.: enarratio vocum, quæ conjunctæ sæpius occurrunt in Pentateucho cum aliqua diversitate, fol. 2. v. sqq.; deinde discrepantiæ nominum propriorum in genealogia libri Genesis et primi libri Chronicorum, fol. 4. r.; computatio numeri annorum, quos complectitur historia in libris Josuæ, Judicum, Samuelis, Regum, Jesaïæ, Jeremiæ, Ezechielis et duodecim Prophetarum (sive libri Hoseæ, ut vocatur: ספר הושע הוא ספר שנים (כשר נביאים), cum indicatione eorum, qui libros propheticos et hagiographos scripserint\*), fol. 4. r. extr. sq.; recensensus vocum vel constructionum, quæ in uno libro aliter quam in reliquis V. T. libris occurrunt, fol. 4. v. sqq.; recensensus octodecim locorum, qui a scribis mutati sunt (תקן כופרים), f. 5. v.; carmen, quo præstantia legis celebratur, סדר סדר התורה inscriptum, ibid.; dissertatio de Keri et Kethib, סדר סדר הכתיב inscripta, fol. 5. v. sq.; recensensus eorum, quæ scripta sunt, sed non legenda, סדר סדר כתיב ולא קרי, f. 6. r.; de literis cum aliis permutatis, הלוק האחתה, f. 6. v.; voces, quæ semel paenacutæ, גולגל, occurrunt, alias semper acutæ, גולרע, ibid.; voces, quæ semel scriptæ sunt plene cum Vav quiescente, quum alias semper defective scribantur, f. 7. r.; voces, in quibus deest litera s, in Lege, Prophetis et Hagiographis, ibid.; octo voces, quæ semel cum masculino, semel cum feminino suffixo occurrunt, ibid.; recensensus locorum 134, in quibus nomen ארזי sine Vav scriptum est, f. 7. r. sq.; de voce ארז in variis libris modo cum Vav, modo sine eo scripta, fol. 8. r.; de voce ארזי aut cum Jod aut sine eo scripta, fol. 8. v.; de voce הוויז aut cum Vav aut sine eo scripta, ibid.; recensensus locorum 39, in quibus verborum ordo a vulgari diversus est, quum vox alteri secundum vulgarem usum præponenda eidem postponitur, f. 9. r.; recensensus

locorum, in quibus vocales Pathach et Segol non mutatae sunt in Kamez, quamquam adest accentus Silluk aut Athnach, ibid.; recensio alphabetica vocum quarundam, quæ vel scriptione vel sono æquivocæ sunt, f. 9. v.; index vocum 44, quæ scriptæ sunt per ך, legenda vero per ך in fine vocis, f. 10. r.; vox ךָ bis, ךָ ךָ semel in V. T. obvia. Omnia hæc a fol. 1. v. usque ad f. 10. r. incl. elegantissime ita scripta sunt, ut per columnas pictis interstitiis distinctas, aut quattuor, ut fol. 1. v. 2. r. v. et 3. r., aut tres, ut f. 3. v. 4, 5 et 6, 7. r., 8. v., 9. et 10. r., aut duas, ut f. 7. v. 8. r., distributa sint, atque limbo ambiente varie picto inclusa, circum quem scripti sunt varii loci biblici, in quibus celebratur lex et commendatur legis pietatisque studium.

Sequuntur f. 10. v. et 11. r. observationes similis generis ac præcedentes, de locis, in quibus scriptum est Jod nec tamen legitur, de voce ארזי sine Vav obvia, ita autem scriptæ, ut paginae, singulae quidem diverso modo, in plures rhombos literis circumscriptos divisæ sint. Prior harum paginarum eodem præterea modo, quo præcedentes, locos biblicos circumscriptos habet.

In duabus paginis sequentibus, fol. 11. v. et 12. r., exhibentur picturae plures rerum sacrarum, arcæ foederis, candelabri aurei, mensæ panum propositionis, vasculi Manuæ et baculi Aaronis, — altaris aenei, altaris suffimenti, tubarum, aliarumque rerum ad sacros usus pertinentium.\*)

Denique fol. 12. v. additur recensensus Haphthararum, qui quidem neque cum ordine inter Hispanicenses Judeos recepto neque cum Germanicianorum usu perfecte convenit, magis tamen cum illo.

\*) Similia, nisi forte eadem, in aliis quoque codd. reperiantur; cf. e. gr. cod. bibliothecæ ci. *De-Rossii* no. 782.

\*) Cf. ad cod. III.



219, alterum 232 habet, totum *Vetus Testamentum* continens, elegantissime scriptum, cum vocalibus et accentibus et utraque Masora. Vocalibus, ut sæpius, caret locus Num. 7, 19. (a voc. קָדַרְתָּ) usque ad v. 83. (vocc. בְּנֵי שֵׁנָה הַמִּשְׁחָה), exceptis primis versibus et posteriore parte postremorum versuum in singulis eius sectionibus (cf. ad cod. II.); accentus autem adscripti sunt. — Tomus prior continet Pentateuchum et Prophetas priores, alter Prophetas posteriores ordine recepto et Hagiographa, quorum ordo hic est: Chron., Psalmi, Jobus, Proverbia, Ruth, Cant., Eccles., Threni, Esther, Daniel, Esra, Nehemia. Textus, si paucos locos poeticos excipias, binis columnis descriptus est; tres libri שְׁלֹשָׁה stichometricæ. Interstitio modo duarum, sæpius trium, nonnunquam plurium linearum separantur singuli Scripturæ libri; Prophetæ minores trium; inter Esræ et Nehemiæ libros relictum est unius lineæ spatium. — Paraschæ Legis nullo interstitio separatae sunt. Initia earum solito more in margine notata sunt (cf. ad cod. I.) a prima manu; item Psalmorum numeri. Atramento autem multo nigriore et serius, ut apparet, plerisque libris præscripti sunt tituli vulgo usurpati et in margine notati capitum numeri secundum receptam divisionem.

Ipse sacer textus incipit demum Tom. 1. fol. 13. v.; in præcedentibus, a fol. 1. v. — prima enim pagina codicis nihil inscriptum habet — usque ad f. 12. v. incl. variæ exhibentur annotationes et observationes, quales Bibliorum libris in codicibus addi solent; primum index locuples vocum, quæ in Lege plene aut defective quoad literas ך et ם scriptæ sunt, secundum singulas paraschas ordine dispositus, f. 1. v. — 8. v.; deinde præcepta de pericopis Scripturæ, quum ex Lege tum e Prophetis, quæ in festis diebus per totum annum in conventibus sacris recitandæ sint, f. 8. v. — 11. v.; computatio temporis spatii, quod amplectuntur

libri Legis, Josuæ, Judicum, Samuelis, Regum, Jesaïæ, Jeremiæ, Ezechielis, Hoseæ, (i. e. duodecim Prophetarum, cf. ad cod. II.) Chronicorum et Esræ, f. 11. v. sq.; traditio de viris, qui Veteris Testamenti libros scripserint\*) (cf. cod. II, in quo eadem habentur); denique pauca e lectionum diversitatibus inter Criticos Ben Ascher et Ben Naphthali, f. 12. v. Hæc omnia ternis columnis descripta sunt et limbo quadrato majoribus literis exarato cincta, quo partim, in prioribus et postremis foliis, observationes traduntur de vocibus et formis a vulgari usu discedentibus, maxime ad vocales et accentus pertinentes, initio rhythmicè compositæ, partim commendatur lex legisque et Scripturarum linguæque studium. In duabus primis paginis additus est exterior limbus, minusculis literis scriptus, quo, verbis magnam partem iisdem atque in illo, inculcatur gravitas et necessitas studii Scripturis impendendi. Similiter post absolutum Pentateuchum, fol. 121. r. et v., et post absolutos Prophetas priores, fol. 219. r. et v., quod postremum est tomi prioris, observationes masorethicæ traditæ sunt, binis columnis scriptæ et limbis cinctæ; in fol. 124. v. exhibentur variæ lectiones Criticorum B. Ascher et B. Naphthali, adscriptis punctis. — Foll. 13. r. et 125. r. nihil inscriptum habent. — Tomi posterioris octo folia ultima, 225. v. usque ad 232. v. observationes diversi generis, ternis columnis

\*) Scilicet: *Mosen* scripsisse quinque libros Legis et Jobum, *Josuam* suum librum et octo versus in Lege (a verbis לַעֲשֶׂה כָּל יְרֵמִיָּהוּ וְשֵׁנָה וְשֵׁנָה וְשֵׁנָה usque ad כָּל יְרֵמִיָּהוּ Deut. 31, 5—12), *Samuelem* suum librum, *Judices* et *Ruth*, *Davidem* et *duodecim Seniores* Psalmos, *Jesaïam* suum librum, *Proverbia*, *Cant.* *Cantic.* et *Ecclesiasten*, *Jeremiam* suum librum et libr. *Regum* et *Threnos*, *viros Synagogæ magnæ* *Ezechielem*, *duodecim Prophetas* et *Danielem*, *Esræ* suum librum et *Chronica*.

scriptas, offerunt, ut de usu accentuum; de vocibus בן, אה, כל, cum diversis vocalibus occurrentibus; de accentuatione librorum אה; de vocibus, quæ semel oxytonæ, alias semper paroxytonæ sunt; indicem alphabeticum variarum lectionum, quæ in locis parallelis occurrunt; indicem alphabeticum vocum, quæ in eadem forma semel cum præf. ב et semel cum ב occurrunt; de pronom. הה aut cum ה aut cum ה scripto; de diversitate scribarum in iisdem vocibus aut cum ה aut cum ה efferendis; de singularibus lectionibus R. Pinechasi; de duabus vocibus legendis, quum una tantum scripta sit (ut בגד גר — בא גר Gen. 30, 11.) et vice versa; nomina accentuum, exempla locorum, in quibus occurrunt, et regulas de eorum usu; de literis singulari modo scriptis; indicem alphabeticum vocum, quæ scriptæ sunt cum י in media voce, quum legendum sit י, et vice versa; recensionem vocum, in quibus pron. suff. secundæ personæ scriptum est כה; voces semel cum ה et semel cum י in fine occurrentes; alias semel cum א et semel cum ה in fine; voces punctis extraordinariis notatas; voces non scriptas, sed legendas, et vice versa; et quæ cetera huius generis sunt. Limbo, quo cinguntur hæc omnia, continuatæ sunt observationes de vocalisatione vocum quarundam a communi recedente.

*Masora*, quæ textui librorum in marginibus addita est, in margine superiore, ut fieri solet, binis, in inferiore ternis lineis, præterea in margine exteriori et interiori et plerumque etiam inter columnas una linea verticali, pulcherrime et accurate scripta est simplicique modo sine figuris et ornamentis, duabus tantum primis Pentateuchi paginis exceptis, Tom. 1. f. 13. v. et 14. r. In folio autem 101. r. tom. posterioris, inter finem Prophetarum f. 100. v. et initium Chronic. f. 101. v., ad observationes scribendas adhibita est circuli figura, in sectiones divisa. Atque eodem modo fol. 221. v. post absolutam ipsorum librorum sacrorum

scriptionem, appinguntur observationes de usu accentuum.

Fol. 222. r. scriptor codicis nomen suum, patriam et ætatem indicavit, laudes simul addens ejus viri, in cujus gratiam librum scripsit, et pias pro eo et posteris ejus preces; sed ex iis, quæ scripta fuerunt, septem lineæ in media fere pagina erasæ sunt. Quæ supersunt, hic habes:

אני יצחק פראנקו הסופר כתבתי זה  
הספר הזאת אמרו שפר ארבעה ושישים  
במדת האל ויצר כל היצורים תורה נביא  
וכתובים יעלה הן אולם אהבים וכתבתיו  
לאיש המודות המדובר בו ובמדות ביהם  
ובמדות י לו עשר ידות דבר משרשים  
המדת השמים והישרים י ערבו אה י ידתי  
(septem lineæ erasæ) . . .

הנצחה האל יוספר להנחת בו הוא וכל  
הדבר ויקיים בו לא ימוש ספר התורה  
הזוה מספר הנומי הנגדה במה שאן ס'  
פילויש מוסלכות קאשילויא שנת  
בך יבך ישראל לפרט היצורה מהאנק  
השני

Apparet igitur, codicem scriptum esse a quodam *Isaaco Franco*, in urbe *Sancti Felicis regni Castiliae*, anno p. m. c. 5222, i. e. æræ Chr. 1462; quod quin ita se habeat, non est cur dubitemus. Scriptum esse codicem in usum *Josephi* cujusdam, colligi inde potest, quod in limbo ambiente hujus paginae et præcedentis aureis literis nitidissime scripti sunt loci biblici, quibus *Josepho* benedictur, et in priore quidem pagina Deut. 33, 17. et Gen. 49, 24., in sequente Gen. 49, 22, 25, 26. usque ad voc. בגדת incl.; reliquis locus non sufficit. Duæ hæc paginae præterea elegantissime ornate sunt.

Pagina, quæ deinde sequitur, fol. 222. v., nihil habet. In quinque autem sequentibus, f. 223. r. — 225. r. incl. traditur *Historia Antiochi* hebraice, eadem, quæ in *Bartolocci* Bibl. Rabb. Tom. 1. p. 353. sqq. exhibitæ est, sed

in pluribus lectionibus ab huius textu nonnihil recedens, quasi alia versio eiusdem archetypi chaldaici.\*) Punctis vocalibus instructa est, sed ad leges grammaticae hebraicae parum accurate positus. Exitus huius historiae hic est: האל אשר עשה עמהם נסים ופלאות ותקן שומעיהם בידם והמשילם עליהם: הוא ירחם עלינו ויצילנו מעבדות לחירות וירם קרננו על כל שנאינו ויקיים לנו יהוה אלהינו קרא דכתי' מה נאנו על ההרים הגלי מבשר וגו' ותאמ' יקח יהוה עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם הו'ק. Postrema, e Deut. 1, 11. petita, sine vocalibus scripta sunt.

Ad calcem ultimae paginae haec verba scripta sunt: *reuisus per me Laurentium Franquella'* 1575; et inferius, quantum e scriptura parum perspicua et admodum pallida apparet, *visto p. mi fr. Bernardo Moda*, 1626.

Inter codices *Kennicottianos* hic recensetur sub num. 175. Inter *Nieubrianos* eum refert catalogus Bibliothecae Regiae antiquus.

## V.

(N. 2. in 4to, olim N. 9.)

Codex membranaceus in 4to maj., foliorum 363, *Vetus Testamentum* continens, quadrato caractere scriptum, cum punctis vocalibus et accentibus et utraque Masora. Textus ternis columnis scriptus est, exceptis libris Psalmorum, Proverbiorum et Jobi 3, 1 — 42, 6., qui una columna stichometricè scripti sunt, itemque poeticis illis locis in historicis libris, qui suo modo scribi solent. Locus Num. 7, 19. (קדרתו) usque ad v. 83., exceptis quae excipi solent (cf. ad cod. II. et III. IV.).

\*) Cf. Catal. Mss. Bibl. Senat. Lips. pag. 275. — *Historia Antiochi seu Volumen Ant.* codicibus bibliicis saepius additum reperitur, tum hebraice, tum chaldaice; cf. e. c. cod. *Kenic.* 374. 578. 599. 613. all. *De Rossi* cod. 418. 850. all.

vocalibus punctis et accentibus caret. Prophetarum ordo a vulgari non recedit. Ordo Hagiographorum hic est: Psalmi, Prov., Jobus, Daniel, Ruth, Cant., Thr., Esther, Eccles., Esra cum Nehemia, Chron. Singulorum librorum aut voces initiales, ut in libb. Levit., Judd., Sam., Regum, Jes., Jer., Ezech., et omnibus Hagiographis, aut tituli vulgo usurpati librisque praemissi, ut in lib. Josuae et Prophetis minoribus, item vocabulum כפר Deuteronomio praemissum, aureis literis majoribus picta sunt ornamentisque cincta. Voces etiam initiales cap. 2di, 3ti et 4ti Threnorum, et literae, quibus initia Parascharum Legis in margine indicantur (cf. ad cod. I.), auro obductae sunt et ornatae. Psalmi, ut numeri eorum in margine adscripti ostendunt, numerantur modo קכ"ט, ut duo in unum conjuncti fuisse putandi sint; sed quinam, dici non potest propter lacunam, quam indicabimus. Masora in margine inferiore per totum fere codicem, paucissimis modo paginis exceptis, in diversas figuras, animalium, florum, foliorum aliasve multiplices, descripta est, similesque saepius offert margo exterior; rarissime autem superior, in quo Masora plerumque simplici modo scripta est duabus lineis aut subinde una tantum.

Codex et initio et fine mutilus est, pluresque lacunas habet; incipit Exod. 25, 33. verbis וַיִּשְׁמְעוּ בְּקוֹלֵי הָאֱלֹהִים וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁמְעוּ; praeterea lacuna est inter verba אֲשֶׁר לֹא Lev. 27, 11. et כֹּל יִצְאֵךָ אֲבָבָה Num. 1, 36.; inter v. וַיִּקְרָא Num. 10, 11. et initium cap. 12<sup>mi</sup>; inter vv. וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁמְעוּ Num. 26, 24. et וַיִּשְׁמְעוּ c. 27, 20.; inter Ps. 105, 12. fin. et Ps. 139. (qui in hoc cod est 138<sup>vus</sup>) v. 12. init.; inter vv. וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁמְעוּ Ecl. 12, 14. et וַיִּשְׁמְעוּ Esr. 9, 12.; inter וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁמְעוּ 2 Chr. 13, 9. et וַיִּשְׁמְעוּ c. 15, 12.; denique codex desinit verbis וַיִּשְׁמְעוּ וַיִּשְׁמְעוּ 2 Chr. 25, 7.

Ætas codicis pluribus in locis indicari videtur. Post absolutum enim librum Samuelis (secundum), fol. 121. v., in forma rhombi scrip-



tum legitur: בשנת ארבע אלף וחמש מאות וששה וס"ו. i. e. anno 4506, qui æræ Christianæ est annus 746; item post absolutum librum Regum (secundum), fol. 154. r. in secunda paginæ columna desinentem, in tertia columna scriptum legitur: בשנת ארבעה אלף וחמש מאות וששה וס"ו; et paullo inferius "ד'שדו". Idem annus 4506 præterea ad finem libri Jesaïæ ita significatur: סימן דהק"ו; post librum duodecim Prophetarum per דהק"ו; סימן דהק"ו; post librum Danielis item per דהק"ו; post librum Threnorum per ד'ש"ו; denique ad calcem libri Ruth, figuræ sexangulari, quæ ad summam versuum eius indicandam picta est, inscriptæ sunt literæ כ"ד אל' וק"ו, quibus eundem illum numerum exprimi (בשנת ד' אלפים וק"ו) dubitari vix potest. Sed, ut hæc literæ manum seriorem aperte produunt, ita ceteri loci laudati omnes manifestam præse ferunt corruptionem, quum literas modo has modo illas pro aliis erasis scriptas esse appareat; atque accuratius inspicienti dubium vix esse potest, in prioribus duobus locis primitus scriptam fuisse summam versuum in dictis libris contentorum, et post librum quidem Samuelis אלף וחמש מאות וששה, post librum Regum אלף וחמש מאות וששים וארבעה\*); post libros vero Jesaïæ et duodecim prophetarum scriptam exstitisse notam יחקק, quæ his libris, ut Threnis quoque et Ecclesiastæ, sæpe additur; post Danielem scriptum fuisse חוקי, quod etiam legitur ad finem libri Estheræ; denique post Threnos lectum antea fuisse השירי, e v. 21. repetitum; ex quibus omnibus paucarum literarum mutatione numerus iste effici potuit, eoque sine dubio consilio fictus est, ut antiquissimus et antiquitate præstantissimus codex esse videretur. Quamnam autem ætatem vere habeat, aut a quo scriptus sit, affirmari non potest.

In catalogo *Kennicottiano* hic codex notatur numero 172. Est codex *Niebuhranus*, secundum catalogum Bibliothecæ Regiæ antiquum.

## VI.

(N. 3. in 4to, olim N. 10.)

*Codex Veteris Testamenti* membranaceus in 4to min., folia habens 312, literis quadratis minoribus parum eleganter per ternas columnas scriptus; posterior tantum Psalmorum pars, a 117<sup>mo</sup> inde (fol. 245. r.—248. v.), et poetica pars Jobi (f. 249. v.—256. v.) binis columnis et stichometricè scriptæ sunt; ceteri autem Psalmi et Proverbia non item; poetici loci in historicis libris eo quo scribi solent modo. Nigerrimo atramento adscripta sunt puncta vocalia et accentus. Ad calcem librorum notatus est versuum, quos continent, numerus; paucis in locis, maxime in prophetis libris, in margine additæ sunt lectiones Masorethicæ (Karjan); ceterum vero Masoram codex non habet. Initia Parascharum Legis solito modo in margine indicantur; item in margine Psalmorum numeri. Ad locos propheticos lectionibus publicis destinatos notatur, ad quasnam Paraschas quosve dies festos pertineant.

Mutilus est codex initio et fine; incipit enim Gen. 2, 7. init. et desinit 2 Chr. 32, 22. verbis סתתריב מלך. Videri etiam possit periisse folium unum, in quo scriptus fuerit finis Deuteronomii; postrema enim huius libri verba, post עני גרשקאל c. 34, 10., in ipso codice non habentur, sed rabbinicis literis in inferiore parte paginæ fol. 80. v. adscripta sunt; atque inter hoc et fol. 81. est quasi pars reliqua folii abscissi; at plagula tamen, cuius pars hæc habenda esset, justum foliorum numerum habet. Folii 81. pagina prima sine scriptura relicta fuit, Pentateuchum a Prophetis separans. Item inter Prophetas priores et posteriores alba relicta est una pagina, fol.

\*) In formam rhombi summa versuum post libr. Samuelis et Regum scripta reperitur etiam in cod. VIII.

153. r., et inter Prophetas et Hagiographa prima paginæ columna fol. 227. r. — Ceterum alia quædam, quæ in textu scribendo negligentius omissa fuerunt, in margine aut inter columnas adscripta sunt, literis quadratis, fortasse a codicis punctatore. — Psalmorum libris quattuor posterioribus, qui parvo interstitio a præcedentibus separantur, tituli additi sunt quadratis literis majoribus. Seriore autem manu rabbinica singulorum librorum tituli per totum codicem scripti sunt itemque capitum numeri additi secundum vulgarem divisionem. — Ordo Hagiographorum hic est: Ruth, Psalmi, Jobus, Prov., Eccles., Cant., Thr., Daniel, Esther, Esra (cum Nehem.), Chron. Prophetarum ordo vulgaris est.

Quando et a quo scriptus sit codex, nusquam indicatum est.

In catalogo *Kënnicottiano* notatur numero 176. Codex *Niebhrianus*, secundum catalogum Bibliothecæ Regiæ antiquum.

## VII—IX.

(N. 4—6. in 4to, olim N. 11.)

*Codex Veteris Testamenti* membranaceus in 4to, quadrato caractere pulchre et diligenter scriptus, cum punctis vocalibus et accentibus et utraque Masora. Textus librorum ternis columnis descriptus est, exceptis libris  $\text{מִשְׁכָּנִים}$  qui binis columnis et, si prosaicas libri Jobi partes excipias, stichometricè scripti sunt; item poeticis locis, qui suo modo scribi solent: Exod. c. 15, Deut. c. 32, Judd. c. 5. et 2 Sam. c. 22. Vocalibus caret locus Num. 7, 19—83. exceptis tantum iis versibus, qui sæpius hoc respectu excipiuntur (cf. codd. II. III. et V.); accentus autem adpositi sunt.

Codex in tres tomos divisus est, qui in una theca asservantur. Primus tomus, folia habens 93, in ff. 4—91. continet Pentateuchum. Præma vox  $\text{וַיִּבְרָא}$  aureis literis picta est ornamentoque cincta. Parascharum initia solito modo indicata

sunt; numeros capitum octodecim primorum Genesis serior manus in margine adscripsit. Tomus secundus, foliorum 191, Prophetas priores posterioresque ordine recepto, et post hos Chronicorum librum continet. Duæ huius tomi plagulæ male transpositæ sunt; quum ea, quæ foliis, ut nunc sunt, 177—184. constat, antecedenti, fol. 169—176., præponenda fuisset. Tomus tertius folia habet 66, in quorum 64 prioribus cetera Hagiographa hoc ordine continentur: Psalmi, Proverbia, Jobus, Daniel, Esra (cum Nehemia), Ruth, Cant., Thr., Eccles., Esther. In initio autem tomi unum folium deest; fol. 1. enim incipit verbis Ps. 10, 14:  $\text{הַיְהוָה אֱלֹהֵינוּ הָיְהוָה אֶחָד}$ ; quum vero prima, quæ nunc est, plagula integra sit, octo folia complectens, postrema autem tomi secundi plagula nonnisi septem habeat, cum hac conjunctum fuisse videtur folium illud, quod periit, unde colligi potest, eum, qui codicem scripserit, non diversos tomos distinguere voluisse, sed hanc, quæ facta est, divisionem alii cuidam debere. Ut numeri Psalmorum a prima manu in margine adscripti sunt, ita in libro Jobi quoque singulæ personarum loquentium orationes viginti novem numeris, distinctæ et notatæ sunt.

E Pentateuchi libris Exodus et Deuteronomium in suprema parte columnæ incipiunt; Leviticus et Numeri quattuor linearum spatio a præcedentibus separantur. Prophetæ priores et e posterioribus maiores trium, minores duarum, Hagiographa plerumque trium linearum spatio separantur. Summa versuum, quos singuli libri continent, nonnunquam ad calcem eorum indicata reperitur, non semper.

Masora magna solito modo scripta est, binis in superiore, ternis in inferiore margine lineis. Plerumque in hoc, et sæpe quoque in illo in varias figuras descripta et producta est.

Præter ea, quæ sacrorum librorum textum exhibent, tomus primus ab initio tria folia

habet (f. 1—3.) et ad calcem duo (f. 92. 93.), item tomus tertius ad calcem duo (f. 65. 66.), e quibus fol. 1. tomi primi in priore, f. 92. eiusdem tomi in posteriore, cetera omnia in utraque pagina literis minusculis inscriptos habent psalmos psalmodiarumque locos, quibus laudes Dei et beneficia eius erga populum Israeliticum prædicantur, sed maximam partem eosdem sæpius repetitos, artificioso modo per varias circularum, rhomborum, columnarum aliasve figuras scriptos et inter se connexos, additis etiam auri variorumque colorum ornamentis; quæ figuræ in singulis hisce paginis circumdatæ sunt limbo quadrato eiusdem ubique ambitus, tribus lineis constante, quarum media majoribus, exterior et interior minoribus literis scripta est, quibusque diversæ observationes et regulæ continentur de descriptione, vocalisatione, natura, usu cet. vocabulorum et literarum. Fol. 92. v. tom. 1. media limbi linea scriptum offert locum Deuter. 33, 13—17. a verbis וְלִירֵכָה אָמַר וְשִׁירָה וְשִׁירָה וְשִׁירָה. — Apparet, hæc folia, quum partes non efficiant plagularum, quæ ad textum huius codicis scribendum formatæ et adhibitæ sunt, separatim primum exstitisse et codici deinde agglutinata esse; simul autem, quum forma et ambitus eorum, quæ iis inscripta sunt, cum ratione, qua liber ipse scriptus est, accurate conveniat, eum in finem illa conscripta fuisse, ut huic libro adnecterentur. Præterea fol. 91. v. tom. 1<sup>mi</sup> col. 3. post absolutum librum Deuteronomii, item fol. 90. v. col. 1. ad latus cap. 32<sup>di</sup> Deut., quod duabus tantum columnis descriptum est, et fol. 64. v. tomi tertii, in fine col. 3<sup>ta</sup> post absolutum librum Estheræ, plures ex iisdem psalmodiarum locis, quos folia supradicta exhibent, similiter artificioso modo scripta reperiuntur.

Ætatem codicis, cuius certa indicia non adsunt, ad initium sæculi p. Chr. n. sexti falsarius aliquis referre studuit; annum enim iudaicum 4262 (i. e. Chr. 502) fol. 3. r. tomi primi plus una vice indicatum reperiimus; quum

enim duarum columnarum, in quarum figuram hic compositi sunt psalmodiarum loci, parti superiora a manu seriore et deletis ut videtur iis, quæ antea ibi scripti erant, inscriptum est, alteri:  $\text{דָּרָה} \text{בְּקֹהֶל} \text{רַב}$ , alteri  $\text{בְּשִׁרְתִּי} \text{צֹדֵק} \text{בְּקֹהֶל} \text{רַב}$ ; tum in limbi cingentis media linea majusculis literis scripta, plures in literis erasis aut mutatis conspiciuntur manifestæ corruptiones, ad annum illum effingendum factæ; ita superne hoc legitur  $\text{דָּרָה} \text{בְּקֹהֶל} \text{רַב}$  i. e. anno 4262, ubi dubitari non potest, primitus scripta fuisse verba Ps. 40, v. 10.:  $\text{בְּשִׁרְתִּי} \text{צֹדֵק} \text{בְּקֹהֶל} \text{רַב}$ ; item in parte paginæ inferiore, ubi scriptus fuit locus Prov. 14, 4.:  $\text{בְּאֵץ} \text{אֱלֹפִים} \text{אֲבוּס} \text{בָּר}$ , duorum vocabulorum ultimorum corruptio facta est, ut esset  $\text{אֱלֹפִים} \text{אֲבוּסָה}$ , et mox, ubi probabile est, scripta fuisse verba  $\text{כִּי} \text{הִמְדָּה} \text{פֶּן}$  e loco Job. 36, 18., cuius verba  $\text{כִּי} \text{הִמְדָּה} \text{פֶּן}$  (sic) deinde sequuntur, pro illis nunc habetur  $\text{דָּרָה} \text{בְּקֹהֶל} \text{רַב}$ ; et alia præterea corruptiones in eundem finem susceptæ cernuntur.

Paginæ versæ primi folii tomi primi, quæ alba relicta fuerat, inscriptæ deinde sunt literæ donationis, quibus vir quidam *Joseph fil. R. Jakob*, suo testiumque nominibus subscriptis testatur, se hunc codicem viginti quattuor librorum filio suo *Judæ* dono dedisse anno 5252 post creationem mundi (i. e. anno Chr. 1492) in urbe *Tunis*.

Fol. 3. v. priori columnæ pictæ *Davidis* quidam inscriptis, se hunc codicem emisse anno 5520 (1760), sed magna pars huius scripture tantum non deleta est; item postremæ tomi primi paginæ, fol. 93., inscripta fuerunt nomina duorum possessorum codicis, sed ea prorsus deleta sunt.

In catalogo *Kennicottiano* hic codex memoratur sub No. 171. Inter *Niebulrianos* refert eum catalogus Bibliothecæ Regiæ antiquus.

## X.

(N. 4. in fol., olim N. 1.)

Codex membranaceus in folio, folia habens 350, quadratis literis iisdemque majusculis exaratus, cum punctis vocalibus et accentibus, atramento nunc multis in locis admodum pallido adscriptis. Initio mutilus est, et quedam præterea folia nonnihil lacerata. Continetur in eo:

1) *Pentateuchus, hebraice et chaldaice*, ita scriptus, ut singulis versibus hebraicis chaldaici ex Onkelosi paraphrasi subjiciantur. Chaldaico textui accentus parcius adscripti sunt quam hebraico; at minime prorsus desunt. Incipit codex fol. 1. r. verbis Gen. 7, 11. דָּשָׁר יְהוָה לְהַחֲשִׁיב. Locus Num. 7, 24—83. paraphrasi chaldaica caret, et vv. 32—83. vocalium etiam signis; accentus autem, qui vulgo usurpantur, plerique adscripti sunt. Singulæ legis Paraschæ distinctæ sunt partim majoribus literis, quibus scriptæ sunt voces earum initiales, partim spatio unius duarumve linearum plerumque inter eas relicto. Singuli Pentateuchi libri quattuor aut quinque linearum spatio separantur. Tituli autem nulli omnino adsunt. 2) Finito Deuteronomio fol. 281. r. col. 2. med. adduntur *quinque Megilloth, hebraice*, hoc ordine: Canticum canticorum, Ruth, Threni, (ad cuius finem libri repetita sunt e versu 21. cap. 5ti verba: וְהָיָה בְּיָמֵינוּ) Ecclesiastes, (post quem notata est summa omnium versuum eius: וְכָל.) Esther. 3) Sequuntur deinde fol. 301. r. *Haphtaroth* seu lectiones propheticae, in sabbathis aliisque diebus festis legendæ, *hebraice*; singulis prænotatum est, ad quosnam dies pertineant, quibusve Paraschis respondeant. Post Haphtaras quinque ad festum Paschatis pertinentes fol. 339. r. inserta est earundem *paraphrasis chaldaica Jonathanis*, præmissis hinc scriptoris verbis: עֲרָה אֲכַתְּבֵם הַרְגָּם שֶׁל הַפְּטִירָה; כַּסְדָּר; simili modo fol. 341. v. inserta est paraphrasis duarum Haphtararum ad festum Pentecostes pertinentium. In ea, quæ circa Hap-

taras receptas obtinet inter Hispanienses et Germanicianos Judæos discrepantia, codex modo cum his modo cum illis facit.

Chaldaicæ paraphrases passim quum in scriptione vocabulorum tum in ipsis vocibus a textu earundem in libris editis expresso nonnihil differunt.

Codex scriptus est binis columnis, exceptis tantum tribus postrennis paginis, fol. 349. v. et f. 350. r. et v., in quibus continua linearum scriptio adhibita est, probabiliter quod alioquin membrana ad omnia perficienda non suffecisset, quod quidem his verbis ad finem ultimæ paginæ, nunc ex parte propemodum deletis, indicare voluisse videtur codicis scriptor: הַפְּטִירָה אֲחֻרָיו שֶׁל סִבְחַת כַּתְּבֵרִי אֲחֵהָ בְּסֻקָּה  
הַסֵּפֶר נִסְתָּר הַרְחֵק

A scriptore hic illic quedam negligentius ommissa fuerunt, quæ in marginibus deinde ab ipso, ut videtur, adscripta sunt. Discrimen literarum majuscularum et minuscularum in certis quibusdam vocibus, atque alia, quæ in scriptione codicum V. T. vulgo observari solent, omnino neglexit.

Quo tempore scriptus sit codex aut a quo, nusquam indicatum reperitur.

Emtus fuit a Frid. Rostgaard Venetiis a. 1699. — In recensu codicum, qui ad opus Kennicottianum examinati fuerunt, hic non memoratur.

## XI.

(N. 5. in fol., olim N. 4.)

Codex membranaceus in forma folii maximi, foliorum 290, quadratis literis scriptus, cum punctis vocalibus et accentibus.

Continetur in eo: 1) *Pentateuchus, hebraice et chaldaice*, ita scriptus, ut, quemadmodum in cod. X., singulis versibus hebraicis paraphrasis eorum chaldaica Onkelosi subjecta sit, in locis modo poeticis Exod. c. 15. et Deut. c. 32. ad latus textus hebraici in pecu-

liari columna adposita; Chaldaicis accentus non minus adjecti sunt quam Hebraicis. Singulis praeterea legis Paraschis subjectae sunt lectiones propheticae *Haptharoth*, quae ad illas pertinent, *hebraice*; post Parascham ירדו מן הים Gen. 41, 1—44, 17. praeter pericopam e primo libro Regum c. 3, 15. ויקץ שלמה additur etiam lectio e Zacharia 2, 14. רני ושמחי, ad festum הנוהב pertinens. — Chaldaica paraphrasis lectiones passim habet a textu eius edito discrepantes. 2) Finito Deuteronomio fol. 225. r. oontinuo sequuntur *quinque Megilloth, hebraice*, hoc ordine: Cant. Canticorum, Ruth, Threni, (repetito ad finem v. 21. cap. 5,) Ecclesiastes, Esther; additurque deinde fol. 238. v. sqq. eorundem librorum *paraphrasis chaldaica* prolixior, hoc ordine: Ruth, Cant., Eccles., Thr., Esther; puncta vocalia hic, ut in reliquo codice, addita sunt; accentus raro. — 3) Denique fol. 280. r. sqq. exhibentur ceterae *Haphtaræ*, in diebus festis singularibus usurpatae solitae.

Textus scriptus est ternis columnis aequalibus, exceptis praeter ultimam paginam paucissimis nonnullis, ubi propter initium aut finem libri aut propter poeticos locos exigua scribendi mutatio facta est. — Hebraici textus additam habent utramque Masoram; in superiore et inferiore margine Masora simplici modo scripta est, binis ternisque lineis, ut fieri solet; rarissime ulterius producitur aut in figuras protrahitur. Initia autem singulorum Pentateuchi librorum variis figuris, animalium aliisque, diversimode compositis ornata sunt, quarum formis scriptae continentur observationes masorethicae. Prima etiam vox Cantici cincta est orbe caeruleo, in quo pictae sunt animalium figurae; voces praeterea initiales omnium librorum, Genesi excepta, atque Parascharum et Hapthararum majoribus literis et colore caeruleo pictae sunt, additis nonnunquam ornamentis.

Titulo caret codex. Ad calcem autem eius indicaum est scriptoris nomen. Absoluta

enim fol. 290. r. extr. postrema pericopa prophetica Jes. 66, 1—fin., cum repetitione vers. 23., in fine paginae haec verba majoribus literis adscripta sunt: לפר מנצח מן אשט i. e. *fortis esto Moses scriba ex Ebermannstadt*. Atque alio etiam loco eiusdem viri nomen notatum reperitur; inter illa enim ornamenta, quibus insignitum est Deuteronomii initium, in orbem circa vocem אלה picta sunt verba חזק משה. In eadem illa pagina, in qua codicis argumentum absolvitur, — fol. enim 290. v. nihil inscriptum habet, — in media pagina, ad utrumque latus textus, qui hic brevioribus lineis, sensim decrescentibus et deinde iterum crescentibus, scriptus est, ab alia manu, ut videtur, haec aetatis definitio addita est: שנה אשל . . ליצירה i. e. *anno a mundo condito 5050*; quo tempus scripti codicis indicari vix dubitari potest; quod si vere dictum est, scriptus est anno Christi 1290.

Inter codices a Kennicotto recensitos hic memoratur sub num. 177.

## XII.

(N. 1. rotulorum.)

Rotulus, longus pedes 117 et 9 pollices, latus circiter 2 pedes et 3 pollices mensurae danicae, coriis 51 consutis constans. Continet textum *Pentateuchi*, uti in usum Synagogarum scribi solet, eleganter exaratum. Singuli libri Legis exiguo tantum interstitio distincti sunt. Singula coria ternas columnas complectuntur, postremo excepto, quod nonnisi duas habet.

Rotulus more solito munitus est duobus lignis tornatis, et duplici velamento involutus, altero serico, altero viliori bombycino. Additae sunt fasciae duae, quales offerri solent, quum pueri in synagogam inducuntur, altera elegantior, diversis figuris acu varie pictis ornata, annum pueri natalem 492 (i. e. post Chr. 1732), altera vilior, coloribus picta, annum

504, i. e. 1744, præ se ferens. Quamnam ætatem ipse codex habeat, non apparet; certe non magnam.

### XIII.

(N. 6. in fol., olim N. 3.)

Codex membranaceus in folio, foliorum 153, literis quadratis grandioribus elegantissime scriptus; singulæ paginæ duodecim modo lineas habent in una columna. Est codex *Pentateuchi*, cuius autem tot folia desunt, ut vere non nisi fragmenta continere dici possit. Partes Pentateuchi, quæ in eo exhibentur, hæ sunt:

- Gen. 21, 1. וַיֵּאמֶר כֹּאשֶׁר דִּבֶּר usque ad Gen. 24, 5. וַיֵּאמֶר  
fol. 1—10. incl.  
— 30, 42. הַעֲטִיפִים . . . Gen. 33, 5. וַיֵּשֶׁא  
fol. 23—38.  
— 37, 19. הַלֹּזֶה בֵּא . . . — 41, 28. אֵל פְּרִעָה אֲשֶׁר  
fol. 39—43.  
Exod. 7, 26. אֵלֹהֵי כְהֵנִי . . . Exod. 9, 5. יֵשֶׁה יְהוָה  
fol. 39—43.  
— 9, 19. הַבִּיחָה . . . — 10, 24. f. fol.  
44—49.  
— 11, 3. מֵאֵד בְּאֶרֶץ . . . — 12, 51. בְּנֶגֶם הַיּוֹם  
fol. 50—57.  
— 14, 7. init. . . . — 14, 27. מִשֶּׁה אֶת יָדוֹ  
fol. 58—60.  
— 16, 6. כִּי יִהְיֶה . . . — 18, 20. וְהִדַּעְתָּ לָהֶם  
fol. 61—69.  
— 21, 7. אִישׁ אֶת בָּתּוֹ . . . — 22, 6. כִּסֵּה אֶת כְּלָיִם  
fol. 70—73.  
— 23, 15. הַמִּצְוֹת הַשְּׁמֹר . . . — 28, 21. הַדְּבָרִים  
fol. 74—93.  
Lev. 2, 5. init. . . . Lev. 3, 5. בְּנֵי אֶחָיו הֵמָּן  
fol. 94—95.  
— 4, 10. עַל מִזְבֵּחַ . . . — 6, 5. עֲלֵה הַעֲלֵה  
fol. 96—103.  
— 8, 13. כֹּאשֶׁר צִוָּה . . . — 10, 12. אִתְּמַר בְּנֵי  
fol. 104—111.  
— 13, 3. לִבְךָ וּמְרָאֵה . . . — 19, 24. כֹּל שֶׁרִיף קֹדֶשׁ  
fol. 112—143.

Lev. 23, 42. בַּסֵּבֶת (in fine vers.). . . Lev. 25, 38 fin. fol.  
144—151.

Num. 12, 3. עָנָו מֵאֵד . . . Num. 12, 11. נִיֵּאֱלָמוּ  
fol. 152.  
— 13, 31. הַעֵשׂ כִּי תִזְקַק . . . — 14, 5. מִיָּהוּהָ לְפָנָי  
fol. 153.

Puncta vocalia cum accentibus non adscripta sunt nisi duobus in locis: 1) in uno folio 78vo, quod exhibet peric. Exod. 24, 12. וְהִמָּצְיָה אֲשֶׁר וְהִ' usque ad 25, 2. בְּלֵ-אִישׁ; 2) in quattuor paginis fol. 129. v., 130. et 131. r., quæ complectuntur partem Levitici, a verbis אֶתְּחִיזָּה cap. 15, 25. usque ad c. 16, 6. אֶתְּחִיזָּה. — Neque adest Masora, sed lineæ ei destinatæ more solito ductæ sunt.

Hic codex emtus fuit a Frid. Rostgaard Venetiis 1699.

### XIV.

(N. 7. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 30. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to, foliorum 350, continens *Genesisin*, fol. 1. r.—164. v., et *Exodum* fol. 165. r.—301. v., cum *paraphrasi chaldaica Onkelosi; lectiones propheticas*, fol. 302. r. — 342. r.; denique *librum Estheræ* fol. 342. v. usque ad finem codicis. Desunt autem in his nonnulla: unum folium inter ff. 283. et 284., quorum prius terminatur verbis הַתְּרִיבֶנָּה אֲשֶׁר Exod. 36, 3., posterius incipit verbis הַתְּרִיבֶנָּה אִשָּׁה eiusd. cap. v. 10, pariterque eiusdem plagulæ folium, quod illi respondet, inter ff. 289. et 290., inter vv. תְּבַלֵּת יָקָם אֶתְּחִיזָּה Ex. 37, 27. et תְּבַלֵּת 38, 7; praeterea quattuor folia inter f. 349. et 350., inter verba c. 9, 18; et תְּבַלֵּת אֶתְּחִיזָּה Esth. 6, 9. et in fine denique codicis unum folium cum postrema parte libri Estheræ perit; ultima enim verba folii, quod nunc postremum est, 350. sunt: הַיְּשִׁירִים הָאֵלֶּה c. 9, 31. Folium primum et quattuor folia postrema nonnihil lacerata sunt, quo factum, ut eorum, quæ iis inscripta erant, aliquid perierit.

Ipsæ textus sacer per totum codicem, cum paraphrasi chaldaica in duobus libris legis singularibus versibus subjecta, binis columnis exiguæ latitudinis scriptus est, exceptis paginis, in quibus exhibetur canticum Mosis Exod. c. 15. (f. 210. v.—f. 212. v.), quæ unam tantum columnam habent, in qua ipsum carmen solito more per stichos scriptum est; deinde fol. 307. r., in quo ultimi versus Exodi lineis paulatim decrescentibus in formam infundibuli, iterumque crescentibus scripti sunt; denique f. 321. v.—332. v., in quibus solito modo stichometricè scriptum est carmen Deborahæ. — Vocabula initialia singularum et Parascharum et Haphtararum majoribus literis exarata sunt, et, ut videtur, serius adscripta; f. 333. r. pericopæ propheticae 1 Sam. 20, 18. sqq. primum vocabulum רָאָה־אֵלֶיךָ deest, quod scilicet addere scriptor oblitus esse videtur. — Scriptura quadrata est, non inelegans; adsunt puncta vocalia et accentus. Vitia a scriptore haud pauca commissa sunt, pluribus paucioribusve verbis modo male repetitis, modo prætermissis. Libros legis utraque comitatur Masora; margo superior non nisi unam lineam habet; duas inferior. Quæ ad finem librorum observari solent, post Exodum fol. 301. v. figuræ circuli inscripta sunt; post Genesim indicata modo est summa versuum huius libri. — Haphtarum singulis superscriptum est, ad quasnam Paraschas quosve dies festos pertineant, et e quibus libris desumptæ sint. Ad pericopas exhibitas quod attinet, modo cum Germanicianorum, modo cum Hispaniensium usu conveniunt.

In margine foliorum exteriori, seu potius in singulari columna extra duas, quas textus verba occupant, diversæ autem in diversis paginis latitudinis, per totum codicem additus est *commentarius Raschii*, rabbinicis literis absque vocalibus scriptus, et ita quidem, ut nonnunquam pro ratione locorum copiosior latius extendatur, per marginem superiorem et inferiorem, (ut ad Genes. c. 49., Exod. c. 15. c. 21—23. al.) quin partem aliquam columnæ

proximæ biblico textui destinatæ occupans (ut f. 229. v. sqq. ad Ex. c. 21.); alibi brevior sit, ut integræ paginæ passim, et plures subinde continuæ, commentarium non habeant. — Auctoris nomen explicationi præmissum est; incipit enim commentarius ad Genesim fol. 1. r. his verbis: אָמַר ר' יצחק בן

Nomen suum scriptor codicis indicasse videtur fol. 331. r., ubi post absolutas Haphtararum, quæ ad Paraschas libri Exodi pertinent, hæc verba adjecit:

הוֹךְ  
וְנִחְזָק  
בְּיַד הַרְמִיָּא דְיָהוּב  
הוֹלֵא לְעַמְּקָם עֲבִידֵיהֶם

i. e. "Fortis esto  
et nosmet confirmemus!  
Benedictus misericors qui  
tribuit robur *Jacobo serco*  
*suo*."

Fol. 301. v. post absolutum commentarium in librum Exodi, in infima pagina, recentiore manu scriptæ sunt literæ: הַשְׁמַח לְכַן, quibus codicis ætatem aliquis videtur voluisse indicare. Sed is fraudulenter egit et certissimum est, hunc librum non esse scriptum anno jud. 788. (post Chr. n. 1028.), ut recte vidit *Guil. Abr. Teller*, ad calcem editionis Latinae diss. secundæ Kennicottianæ, pag. 141. Cf. præterea *P. J. Bruns* ad Kennicotti Diss. gen. in V. T. a se editam, pag. 562. et *de Rossi* in Varr. lectt. V. T. Vol. I. pag. CXXXIII. No. 92.)\* Minus perspicacem se exhibuit *A. A. H. Lichtenstein*, qui uberiorem hujus codicis descriptionem dedit in libello, qui inscribitur: *Programma*, duorum codicum Hebr. adhuc parum cognitorum descriptionem exhibens. Helmst., 1776. 4to.

\*) Varias de hac subscriptione conjecturas formavere Tellerus, Brunsius et de Rossi, quarum tamen nulla probari potest. Numerus 788 non est corruptus e 988., ut putabat Tellerus; non sunt effectæ literæ הַשְׁמַח e voce הַשְׁמִיחַ, in Masora finali libri Exodi obvia, ut suspicabatur Brunsius; non est denique verisimilis de Rossii opinio, veram codicis ætatem postremis tantum literis שָׁח indicari.

Codex hic, quem olim possederunt Dan. Ern. et Paulus Ern. *Jablonskii*, deinde *R. A. Fabricius*, professor Helmstadiensis, cum cod. nostro XVI. postea pervenit in bibliothecam universitatis Hauniensis, e qua nunc in bibl. Regiam transit.

## XV.

(N. 2. rotulorum.)

Rotuli fragmentum, unum modo corium exhibens, longitudinis fere 2 pedum, latitudinis fere 1 pedis et 10 poll., quod *initium Geneseos* continet, a principio libri, voce בראשית tamen non expressa, usque ad 3, 21. אֱלֹהִים לָאָדָם, tribus columnis scriptum.

## XVI.

(N. 8. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 31. in 4to.)

Codex membranaceus, in 4to, folia nunc-præter duo chartacea ab initio addita — 378 habens \*), *Prophetas priores et posteriores ac Hagiographa* continens, quadrato caractere scriptus, cum vocalibus et accentibus, et utraque Masora. Prophetarum ordo vulgaris. hagiographorum hic est: Chron., Psalmi, Jobus, Prov., Ruth. Cant., Eccles., Thr., Esth., Dan., Esr., Nehem. Folia nonnulla membranæ et scripturæ recentioris seriore tempore addita esse apparet; primum fol. 1. et 2, in quorum prioris pag. 1. titulus inscriptus est, de quo infra dicetur; versa eiusdem folii pagina et fol. 2. nihil inscriptum habent; deinde folia quædam ad antiquioris libri lacunas explendas inserta, ut fol. 343, in quo scripta est ultima pars Ecclesiastæ, a verbis וְלֹא לְבַרְרִים c. 9, 11. usque ad finem libri; ff. 350. et 351, in quibus continetur pars libri Estheræ, a verbis אֵת רֵגַז הַמֶּלֶךְ c. 8, 3. usque ad c. 9, 14. fin.; sunt vero hæc duo folia male transposita, atque desiderantur

praeterea cap. 9. vv. 15—17.; sequuntur enim folio 352. verba וְהָיָה הַיּוֹדֵם אֲשֶׁר יִנְאָר c. 9, 18., ita tamen, ut ante hæc verba una linea et dimidia in initio paginæ erasæ sint. Sunt denique recentioris originis quattuor ultima folia, 375—378, quorum prioribus tribus inscripta est postrema pars Nehemiæ, a verbis בְּיָמֵינוּ מִבְּנֵי יְהוּדָה c. 11, 4. usque ad finem libri; folium quartum nihil habet scripti. Quæ serius ita adjecta sunt, solas literas consonantes, easque diversissimi moduli, habent, neque punctis additis neque Masora. Præterea vero deest inter fol. 118. et 119. unum folium, in quo initium libri Jesajani periit; incipit enim fol. 119. a verbis c. 1, 24. לָקֵחַ אֶת הַדְּרֹךְ; item unum folium inter 374. et 375, cui inscripta fuit pars Nehemiæ inter verba בְּהַם נִשְׁחַבּוּ c. 9, 28. et verba supra laudata c. 11, 4.

Textus librorum binis columnis scriptus est, exceptis libris אֲנָחַר, qui unam modo habent, distinctione tamen per versus aut stichos minus accurate observata; item Judd. c. 5, quod solito modo stichometricè scriptum est; denique f. 118. v., quo absolvuntur Prophetæ priores. Finito Malachia f. 237. r. col. 2. pagina eiusdem folii versa sine scriptura relicta fuit, incipiente Chronicorum libro fol. 238. r. Singuli libri plerumque trium linearum spatio separati sunt, rarius, ut nonnulli e Prophetis minoribus et quinque Megilloth, duarum, Esra et Nehemia unius lineae. Psalmorum numeri in margine a prima manu adscripti sunt, numerus autem כַּ bis positus, ad ps. 73tium et 74tum, et deinde prætermisus num. כַּ, ita ut inde a 79no rectus numerandi ordo servatus sit. In ceteris libris recentiore manu adscripti sunt numeri capitum secundum divisionem receptam. Masora magna duabus comprehenditur lineis in margine superiore, tribus in inferiore.

Temporis, quo scriptus sit hic codex, certum indicium non exstat. In folio quidem 119. r. quod nunc primum est libri Jesajani, in extremo margine superiore annum aliquis his verbis

\*) Numeris quidem signata sunt codicis folia, sed parum accurate.





Codicem scriptum et punctatum esse a *R. Hoschaja, fil. R. Josephi* mense Adar secundo anni 5106. a mundo condito, i. e. post Chr. n. 1346, in ultima eius pagina, fol. 166. v., bis traditur, ubi in columna prima haec leguntur:

אני ה' הושיעה ב' יהוסף כתבתי  
 ונקדתי מקרא זאת מנביאים  
 ראשונים וסיומתי אותה בחדש  
 אדר שני שנת המשרה אלפים  
 וטאה ושש לבריאת עולם המקום  
 יובנו ללמוד ולכתוב ולהנות בו  
 הוא זרעו זרעו זרעו עד סוף כל  
 הדורות ויקיים ביה קרא דכתוב  
 לא ימוש ספר החרות הזה מפניך  
 הגרות בו יומם ולילה למען  
 תשמור לעשות ככל הכתוב בו  
 כי אז הצליח את דרכיך ואז  
 תשכיל

Eadem fere verba in col. 2. repetuntur; tertia tamen linea hic erasa est. Praeterea lin. 6. pro יוכנו col. 1. scriptum est יוכהו, et ommissa sunt verba ולכתוב וללמוד, unde colligi poterit, scriptorem hac columna respexisse ad eum, in cujus gratiam scriptus sit codex.

Codex Niebuhrianus, secundum catalogum Bibliothecae Regiae antiquum.

## XVIII.

(N. 10. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foliis constans 81, continens textum hebraicum *Proverborum, Ecclesiastæ, Obadiæ et Jonæ* cum versione germanica. Textus Proverborum ab initio libri ad finem usque capituli octavi literis quadratis sed sine punctis vocalibus in media parte paginae scriptus est, versio germanica ad utrumque latus literis rabbinicis cursivis; a capite inde nono paginae scriptus est iisdem, quibus versio, rabbinicis literis, hæcque ad sinistram illius adposita; eademque deinde ratione scripti sunt

ceteri quoque libri supra nominati cum versione eorum. In inferiore parte paginae per totum codicem adscriptæ sunt vocabulorum nonnullorum hebraicorum significationes, plerumque germanica, nonnunquam, in tribus posterioribus libris maxime, latina lingua, item derivationes etymologicae.

Scriptorem codicis primum modo in animo habuisse Proverbia dicta ratione describere, colligi fortasse potest ex hoc titulo, quem prima pagina rabbinicis literis inscriptum habet:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| משלו                    | i. e. "Proverbia         |
| עם העתקה ללשון אשכנז    | "una cum versione in     |
| לשון המזרח עם אשר אינם  | "linguam germanicam,     |
| בקראם בטיב לשון הקודש : | "pro iis ex populo, qui  |
| בביאר היטב השווה לכל    | "non periti sunt linguæ  |
| נפש :                   | "sanctæ; cum explica-    |
| בהמבורג                 | "tione, quæ omnibus      |
| לפיט אמת קמה            | "hominibus bene con-     |
|                         | "venit."                 |
|                         | "Hamburgi, anno 495"     |
|                         | (i. e. a. Christi 1735.) |

Superne in pagina tituli scriptum est nomen יהודה, et infra illud hæc verba latina leguntur: "Esse salutatum te vult mea litera primum;" in infima autem pagina hæc scripta sunt: "omnibus in rebus sanctis mihi spiritus adsit, et regat ingenium viribus omne meum." Infra titulum hebraicum scriptionis tempus his verbis notatum est: "incepti 14 Martii 1735 Deo adjutore;" et in ultima libri pagina legitur: "finitum decimo tertio Octobris 1735 Anni;" inque eadem pagina superne: "Jure tibi grates candide lector ago." — In interiore latere tegumenti chartacei, quo vinctus est codex, eadem, qua hic, manu scripta sunt ænigmata quaedam hebraica.

Scriptoris nomen nusquam notatum est.

## XIX.

(N. 3. rotulorum.)

Rotulus, librum *Estheræ* continens, longus 8 pedes et  $3\frac{1}{2}$  pollices, latus circiter 1

pedem et 3 pollices, sex coriis consutis constans, quæ pro diversitate latitudinis plures paucioresve columnas textus, unam, tres aut quattuor, inscriptas habent. Lignis non munitus est.

## XX.

(N. 4. rotulorum.)

Alius rotulus, item librum *Estheræ* continens, longus 11 pedes et 6 pollices, latus circiter 8 pollices, coriis constans novem, quæ pro latitudinis diversitate plures paucioresve columnas habent, duas, tres, quattuor aut quinque; ultimum unam tantummodo habet. Uno ligno ad finem libri munitus est.

## XXI—XXVI.

(N. 5—10. rotulorum, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 7—12.)

Rotuli sex, continentes singuli librum *Estheræ*, præcedentibus omnino similes, sed variae et longitudinis et latitudinis.

## XXVII.

(N. 7. in fol.)

*Fragmenta membranacea.*

1. Sex folia, quibus continentur posterior pars Threnorum et prior libri *Estheræ*, a Thr. 4, 16. אָדָּם בְּהַיָּם ad Esth. 7, 8. אֲנִי בְּבָרָה.
2. Sex folia, quibus continetur pars librorum *Esræ* et *Nehemiæ*, ab Esr. 8, 18. הַשְּׂוֹרָה וְעַד אֲדָמָה ad Neh. 3, 35. הַיָּדָה הַזֹּאת.
3. Sex folia, quibus continetur pars libri *Jobi* a cap. 17, 3. init. ad 28; 11., stichometricè scripta.

Hæc tria fragmenta unius codicis sunt, forma folii, magnis literis quadratis binis columnis scripti, cum vocalibus et accentibus, at sine Masora.

## XXVIII.

(N. 8. in fol.)

*Fragmenta membranacea.*

1. Unum folium, in fol. min., continens locum Genes. 41, 8. init. usque ad 42, 15. אִם יִתְּצֵא. Textus scriptus est binis columnis; addita sunt puncta vocalia, accentus et Masora.
2. Unum folium, formæ maximæ, maximisque literis scriptum, cum vocalibus, accentibus et Masora, quo continetur locus 2 Regg. 24, 2. וַיִּשְׁמַע אֶת-קוֹלֵי הַבָּנִים אֲדָמָה ad 25, 5. וַיִּשְׁמַע. Textus ternis columnis scriptus est.
3. Unum folium, continens locum Jes. 29, 13. init. ad 30, 16. בְּנֵים עַל, binis columnis scriptum, cum vocalibus, accentibus et Masora, quæ superne ternas, in margine inferiore quaternas lineas complectitur.
4. a. Unum folium, continens partem Psalmorum, a 109, 3. init. ad 112, 8. אֲנִי אֶשְׁרֹרְאָה. b. Unum folium, continens partem *Jobi*, a cap. 28, 13. וְיָדָה אֲנִי ad 30, 25. אֲנִי. Hæc duo fragmenta esse videntur unius codicis, binis columnis scripti, cum vocalibus et accentibus atque Masora, quæ superne non nisi unam, in inferiore margine duas lineas complectitur. Stichometricè non sunt scripta.

## XXIX.

(N. 11. in 4to.)

Codex chartaceus, triginta foliis constans, quorum tribus primis totidemque postremis nihil inscriptum est; in reliquis autem, quæ in utraque pagina numeris vulgaribus 1—48. signata sunt, continetur *Epistola ad Hebræos in linguam hebraicam translata*, cum brevi dictionum quarundam explicatione, auctore Judæo converso, cuius nomen inter Judæos antehac erat *Mose Cohen* Cracoviensis, inter Christianos autem vocabatur *Johannes Kemper*, (de quo cf. Wolfii *Bibl. Hebr.* T. I. pag. 894. no: 1648, T. III. p. 813.) anno Christi 1713. Titulus integer paginae 1. inscriptus hic est:

## אגרת אל

העבריים נלקחה בלשון עברי  
שהוא לשון הקדש בכל צד  
היותה אפשר

ובמקומות (אם כי המה מתי מספר)

הוצג כמו פירוש קצן סמוך

לתיבת לשון הקדש בין שני הצד  
לבנות וצורתם כזה ( ) פירוש של  
אותו התיבה בלשון רבנן ותלמוד :

כל זה

נעשה בעיון רב וכוונה גדולה

בהיבט חשובה אשר נוקב

בשם בין היהודים לעבר

משה בן מקראתא

ועתה בין המשוחזרים נחזק גם

נשתנה שמו ונקרא יוחנן או

יוהן קמפופד

שנת אלף השישי למיבא

לכל למשיחיתו ישוע הנוצרי בן

אל חי

Ipsa versio epistolae pag. 3. incipit et pag. 48. absolvitur. Capita et commata secundum divisionem receptam notata sunt.

Liber caractere quadrato exaratus est, non sine scripturae vitiiis hic illic commissis. Locus, ubi scriptus sit, non indicatur.

## XXX.

(N. 12. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to, foliis constans 242, rabbinicis literis ad quadratam formam proxime accedentibus caractere inter Judæos Africanos usitato eleganter scriptus, additis punctis vocalibus. Folia a septimo inde hebraicis numeris superne signata sunt, sed non accurate; modo plura folia sine nota prætermissa sunt, modo iidem numeri repetiti, ita ut ex hac numeratione postremum codicis folium, quod cum proxime præcedentibus numeri nota caret, 216tum futurum fuerit.

Continetur in hoc codice *Machsor* seu collectio precum et canticorum, פְּיוּטִים, quae

vocant *Judæi*, diebus festis solemnioribusque sabbathis recitandorum. Titulus superscriptis notata sunt tempora, quibus destinata sunt; ut scilicet, שבועות, פסח, השבוע הגדול, פורים, חנוכה, et. ad festum novi anni tantum et diem expiationis nulla reperiuntur. Præter hebraica poemata pauca etiam exhibentur chaldaica. Insertæ præterea suis locis sunt cum pericopæ Veteris Testamenti, tum traditiones et præcepta de sacris ritibus observandis, quæ ad dies illos festos pertinent. Ipsi carminibus, quæ fol. 7. r. incipiunt, in quinque foliis præcedentibus, codicis fol. 2—6., præmissus est index eorum secundum literas alphabeti, a quibus incipiunt, dispositus, ad foliorum numeros ablegans. Primum autem folium in utraque pagina exhibet partem precatationis Musaph, quæ in festo Paschatis recitari solet, sine vocalium signis scriptam: משני המאמר גלוינו; tituli instar rubro colore superscripta est appellatio ברוך. Propter hoc codicis, ut nunc est, initium probabile est, præcessisse aliquid, quod perierit; quid autem et quantum, dici vix potest; prima quidem plagula, ad quam pertinet folium primum, integra est, octo foliis constans. Ipsa poemata artificiose composita sunt, maximam partem acrosticha, quæ literis initialibus stropharum aut versuum aut primorum quandoque vocabulorum sæpe seriem literarum alphabeti hebraici, quamquam non semper accurate, sæpius auctorum nomina expriment, nonnunquam utrumque in uno eodemque poemate conjunctum. Cum auctoribus patres eorum haud raro nominantur. Frequenter inprimis occurrunt nomina *Abraham* seu *Abram*, (semel יהודה בן אברהם בן עזרה ב' רבי מאיר *Juda*, (in his Jos. f. R. *Joseph*, (in his Jos. f. R. *Isaak*, (in his Jos. f. R. *Isaak*, (in his Jos. f. R. *Salomo*, (nonnunquam *ben Serachjah* cet.) *Salomo*, (nonnunquam all. (שלמה בן יהודה

Ex hisce carminibus nonnulla in locis, ubi spatium aliquod paginae a primo libri scrip-

tore vacuum relictum erat, a seriore manu minusque eleganti addita esse apparet. Item serius adjecta sunt, quæ exstant fol. 54. v. usque ad f. 59. r. incl.; et folia quidem 55—58, in quorum maxima parte continetur carmen in *sabbathum magnum*, auctore בן שאול הלוי, post librum scriptum adeoque post numerationem foliorum hebraicis literis factam hoc loco inserta esse, inde apparet, quod hæc folia unam plagulam efficiunt, quum, quæ proxime præcedit, sex, reliquæ vero omnes octo folia habeant, quodque fol. 54. signatum est num. מדה, f. 59. autem מרי. Seriori denique manus debetur etiam postrema codicis pars, a fol. 219. v. med. usque ad finem, fol. 242. v.

Carmen postremo loco positum, in quo poëta doloribus afflictus semet exhilarare animumque lætitia implere studet, in versus arabicos, præcedentibus hebraicis adnexos, hoc modo exit:

אֲתוֹסַן מִגֵּן אֲתִקְבְּלוּ בְּיָדֵי סוֹר שְׂבָהּ בִּגְנֵן  
 בּוֹ נִגְלָ כְּבוֹדֵי לֵךְ לֵךְ רִיגֵן הַזֶּה לִי יְדוּדֵי  
 אֵל רִיאָץ קֵד פֶּאֶחַ וְאֵל זֹהַר אֵל עֲלִיבֵי  
 כִּלְנֵי וְדַעֲנֵי נִשְׂרַב מִדַּ חֲבִיבֵי ;

seu arabice transscriptum:

الرياض قد فاتح والرحم العجيبى  
 كلنى دعنى نشرب مع حبيبى

i. e. *Arripiam clypeum amoris eius manu mea; accede, conside, fidicen; exsultet de eo anima mea; abi, contumax, missum fac me et amicum meum. Viridaria fragrant, et flores mirabiles; linque me et missum fac: bibemus cum amico meo.* Forma פאה usurpata esse videtur pro פאהח (فاخت), ut conveniret cum vocibus hebraicis, quæ huic in reliquis strophis respondent: הַפֶּאֶחַ, הַנֶּאֱמָחַ, הַבְּרַחַ, הַמִּזְרַחַ; similiter homoeoteleuti causa formam אלעניבי posuit poëta.

Cantiones sacras in hoc codice comprehensas probabile est pertinere ad ritum Judæorum Africanorum, fortasse Tripolitanorum.

Ad calcem libri, in superiore parte paginæ postremæ fol. 242. vers., pauca verba duabus lineis scripta fuerunt, priore rabbinicis literis,

sequente quadratis; sed hæc maximam partem ita sunt detrita, ut legi vix possint; prior linea incipere videtur a verbo אמור, initium alterius brevioris est אמר א. Paulo inferioris scriptum est מַשׁ שׁ שׁ.

In pag. pænultima et antepænultima (fol. 242. r. et 241. v.) latinis literis aliquid notatum est, quod propter scripturam valde neglectam difficile est lectu; in illa cernitur numerus anni 1595, in hac legitur: . . . *corretto* 1612. Factam omnino esse correctionem codicis in gratiam Christianorum, inde apparet, quod nomen אַדְוִיט, quo Christianos hostili animo significare solebant Judæi, sæpius oblitum reperitur, e. g. fol. 17. v. sq., ubi in poemate h. l. posito octies occurrit in hac phrasi: אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט אַדְוִיט "tentoria Edomi et Ismaelis", quæ ut deleat rogatur Deus. Item nomen מְנִיָּאֵל, quo Roma notari solet, oblitum reperitur fol. 36. r.

Temporis aut loci, in quo ipse codex scriptus sit, nullum indicium apparet.

## XXXI.

(N. 13. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to, foliis, ut nunc est, 728 constans,\*) literis quadratis eleganter scriptus, additis punctis vocalibus. Continetur autem in eo *Machsor* sive *Cyclus precum et cantionum*, maximam partem rhythmicarum, quibus in cultu sacro, præcipue in sabbathis aliisque festis diebus utuntur Judæi; sed ad priorem modo anni partem hæc pertinent, ad festum novi anni, diem expiationis et festum tabernaculorum cel., usque ad בראשית incl.

\*) Foliorum numeri a seriore manu hebraicis literis superne notati sunt, sed unus numerus prætermisus, quum fol. 566. signatum fuerit אַדְוִיט, fol. 571. autem אַדְוִיט; nisi forte hic folium periit, in quo tamen, ut videtur, nihil scriptum esse potuit. In numeratione vero arabicis signis posthæc indicata unum folium prætermisus est, inter f. 242. et 243.

Exhibentur etiam Paraschæ legis et Haphtaræ propheticæ, in sacris conventibus recitari solitæ, atque aliæ Veteris Testamenti partes, quæ ad preces et celebrationes pertinent, in his complures psalmi. Insertæ sunt nonnullis locis breves observationes liturgicæ de officiis in sacro cultu persolvendis, sine vocalium signis scriptæ.

Collatione instituta cum Machsore Judæorum Polonorum Germanorumque secundum editionem Altonanam a. 1804. (מחזור מכל השנה, מנהג פולין, tomis II. fol.) apparuit, maximam cum eo esse huic codici convenientiam; respondet is editionis Altonanæ tomo priori secundique tomi parti priori usque ad fol. קז. v., ita tamen, ut in illo nonnulla reperiantur, quæ in hac desunt, alia autem eademque plura in hac, maxime in tomo eius secundo, quibus ille caret; diversitas tamen aliqua ex parte posita est in ommissa repetitione formularum sæpius recurrentium; præterea etiam earundem rerum ordo quandoque paullulum diversus est, et verborum diversitates quædam occurrunt.

Initium codicis fol. 1. r. est postrema pars celebrationis Dei in officio matutino, quæ in edit. Alton. exstat Tom. I. fol. ד. v. lin. 1.: ב' א' יי אלהינו מ' אהרן ג'. Colligi hinc potest, ab initio aliquid interiisse, unum saltem folium; idque eo confirmatur, quod folium, in membranæ complicatione primo adhærens, olim octavum, item periit; est enim inter sextum et septimum lacuna unius folii; fol. 6. v. terminatur verbis הַשְּׁלֵמִים מְלָךְ Ed. Alt. T. I. f. א r. lin. 18. (sive l. 13. ipsius textus), et f. 7. r. incipit verbo הַשְּׁלֵמִים ibid. f. א v. lin. 7. a fine; quæ hic desunt, in marginibus adscriptis aliquis quadratis literis sine vocalibus. Tria præterea folia perierunt: unum, cuius pars exigua adhuc superest, inter f. 43. et 44.; horum enim prius, post absolutum locum alphabeticum (ordine אהבש דהג אבן דהג (cf. Ed. Alt. T. I. f. קיב v.) additosque deinde nonnullos locos biblicos, terminatur verbis Dan. 2, 21.: הַשְּׁלֵמִים

הַשְּׁלֵמִים, postèrius autem incipit a verbis הַשְּׁלֵמִים הַשְּׁלֵמִים, Ed. Alt. f. קיב r. lin. 20; alterum inter fol. 482. et 483., ubi, quæ desunt, rabbinica manu adscripta sunt; tertium denique, cuius exigua admodum pars reliqua est, inter f. 486. et 487, ubi pariter, quæ perierunt, — e libro Jonæ — in marginibus adscripta leguntur. Item post fol. 559. residuum est parvum frustum folii abscissi, sed hic nihil deest. Quæ in postremis codicis foliis habentur, a fol. inde 723. v., justo loco non sunt posita; pertinent enim ad diem expiationis, et in editione Altonana reperiuntur Tom. I. fol. של r. sq. et שבה v. sq. Absolvitur argumentum codicis fol. 727. r. extr. verbis הַשְּׁלֵמִים הַשְּׁלֵמִים הַשְּׁלֵמִים הַשְּׁלֵמִים Ed. Alt. Tom. I. f. שבו v. lin. 11—12. Versa pagina folii ultimi 727. (728) nihil inscriptum habet.

Nonnullis in locis quæ in scriptione libri fortasse prætermissa fuerant, in margine addita reperiuntur; partim, ut probabile videtur, ab ipso codicis scriptore, literis ad quadratam formam proxime accedentibus, modo sine vocalium signis, ut fol. 176. v., modo his additis, ut f. 130 v.; partim ab aliis senioribus, rabbinicis plerumque literis, ut fol. S. r. 78 v. et sæpius. Rabbinica manu correctiones quoque subinde factæ sunt, atque adscriptæ haud raro observationes quædam, loci biblici aliæ; implevit hæc manus præter plures margines paginam etiam priorem folii 572., quam solam in toto libro sine scriptura reliquerat primus libri scriptor; additæ sunt ab eadem manu temporum festorum, ad quæ preces et carmina libri pertineant, definitiones, ex. gr. fol. 23. r.: יציאת מצרים; f. 119. v.: ליום שמיני של ראש השנה; f. 256. v.: ליום שמיני של ראש השנה cet. Eorum autem, quæ in margine adscripta sunt, nonnihil abscissum est in ligando codice.

Ea, quæ ipsius libri argumentum faciunt, diversa ratione scripta sunt, nonnunquam per duas columnas in una pagina, quod præcipue valet de locis biblicis; in poetis scribendis

adhibita est stichometrica ratio, neque tamen semper eodem modo; literæ quandoque majusculæ.

Temporis aut loci, quo conscriptus sit codex, nullum indicium aut vestigium occurrit. Neque titulus ei præmittitur.

### XXXII.

(N. 1. in 8vo.)

Codex membranaceus in 16mo, viginti foliis constans, literis maximam partem quadratis elegantissime exaratus, additis punctis vocalibus, non tamen ubique accurate positus. Continentur eo *preces, benedictiones, gratiarum actiones*, in fructu ciborum aliarumque bonarum rerum a Judæis dicendæ dicitur solitæ, uti hoc etiam titulo declaratur, qui primæ paginæ inscriptus est, libri ætatem simul ostendens:

|                      |                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סדר                  | i. e. "Ordo benedictionis                                                                                                |
| ברכת המזון           | "ciborum, una cum precatio-<br>"tione KeriathSchema, cum                                                                 |
| עם תיקון קריאת שמע   | "benedictione rerum, qui-<br>"bus fruuntur homines, cum                                                                  |
| עם ברכת המזון עם     | "figuris pulchris, et præ-<br>"ceptis de casu [nocturno]                                                                 |
| בירורים נארום תיקון  | "culpæ magnæ et iniquitatis.                                                                                             |
| קרי השון הגדול והרשע | "Quam qui dicit cum inten-<br>"tione quovis die, liberabi-<br>"tur ab omni reatu et delic-<br>"to. Scriptus est in coetu |
| האומרה במונה בכל     | "sancto Neustadii (?) sub                                                                                                |
| יהוה ועל מכל אשמה    | "regimine domini nostri                                                                                                  |
| ועשתי נקמה פיה קק    | "generosi Imperatoris Ca-<br>"roli, cuius majestas exal-<br>"letur, anno 488" (i.e. anno                                 |
| שם החרו ממשלות ז     | Christi 1728).                                                                                                           |
| אדמונה המונה הקיסר   |                                                                                                                          |
| קארל אלרט            |                                                                                                                          |
| היה בשנת תתק         |                                                                                                                          |
| לי ליק               |                                                                                                                          |

Fol. 8. v. sqq. exhibetur ברכת המזון et fol. 13. סדר קריאת שמע.

Quibus temporibus aut occasionibus recitandæ sint hæ preces et benedictiones, nota indicatur, singulis quibusque, lingua nonnun-

quam hebraica, sed plerumque germanica, literis autem rabbinicis, præscripta.

Libro, quem nitidissimum reddere studuit scriptor, multæ insertæ sunt picturæ, partim ornatus et elegantiae causa, partim ad repræsentandas et illustrandas res commemoratas, eas maxime, propter quarum largitionem gratiæ Deo agi jubentur. In pagina tituli elegantissima ad dexteram et sinistram Moses et Aaron repræsentantur, atque inferius somnium Jacobi Gen. 28, 12.

### XXXIII.

(N. 14. in 4to. olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 6. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foliorum 16, quo continetur *Midrasch in Threnos*, quod in fronte quidem gerit titulum: מדרש איכה רבתי, sed ab impresso ejus nominis libro multum differt, ejusdemque fortasse compendium est. Scriptum est literis minutis, cursivis, quæ dicuntur, ejus generis, quo in Hispania et Africa uti solent Judæi. Absolvitur liber fol. 16: r. lin. 6. Scriptionis annus non proditur. Signata sunt codicis folia paginarum numeris 73—104; olim enim cum codicibus nostris XXXIV. XXXV. XXXVI. XLI. et XLII. aliisque, quæ non possidemus, in unum volumen erant compacta hujusque folia continua serie numerata. Migraverunt hic codex atque reliquæ ejusdem voluminis partes e Bibliotheca Jo. Christiani Kallii, Hebraicæ linguæ quondam professoris Hauniensis, in Bibliothecam Universitatis Hauniensis, unde in Bibl. Regiam transferunt.

### XXXIV.

(N. 15. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 5. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 3; continet is *observationes varias criticæ et grammaticas*. Post introductionem enim de lingua Hebraicæ literis earumque pronunciatione,

primum habes recensum annorum, quos com-  
plectuntur singuli V. T. libri historici; nomina  
scriptorum, qui Veteris Testamenti libros com-  
posuisse dicuntur; versuum numerum in iisdem  
libris et id genus alia. Deinde sequuntur obser-  
vationes grammaticae de literis אהוי et כפה  
בגד, de accentibus, punctis vocalibus et legendi ra-  
tione, e quibus haud pauca ab Ill. Wolf Hei-  
denheim in libro משפטי השעמים referuntur ad  
auctoritatem clarissimi saeculi undecimi critici  
*Ben Ascher*, qui fortasse hujus libelli auctor  
est habendus.\*) Prima codicis verba haec  
sunt: אלה תולדות האומות מועדות אשר מזהב  
רמזו תמודות לילי הלל והודות. Absolvitur li-  
bellus fol. 3. r. lin. 14. Scriptus est eodem  
fere caractere, quo codex noster XXXIII.  
Signata sunt folia paginarum numeris 105—110.

### XXXV.

(N. 16. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N.  
10. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 30, con-  
tinens *Commentarium in quinque Megilloth*, in  
fine mutilum. Adest enim commentarius in  
librum Esther, fol. 1. r. — 3. v.; in Canti-  
cum Canticorum, fol. 5. r. — 15. v.; in li-  
brum Ruth, fol. 15. v. — 18. v., et in  
Ecclesiasten, fol. 18. v. — 29. r.; sed com-  
mentarii in Threnos exigua tantum pars legitur  
fol. 29. v. 30. r., ubi post explicationem c.  
1, 10. in media pagina abruptitur oratio.  
Codici titulum fecit librarius fol. 1. r. hoc  
modo: פירוש המש מגילות להר רבינו שלמה, ita

\*) Non contigit instituere comparationem codicis no-  
stri cum libro similis argumenti, qui impressus  
exstat in prima Bibliorum editione Bombergiana,  
Venet., a. m. 5278. (i. e. p. Chr. 1518.), et cui  
titulum fecit editor hoc modo: זה ספר מדקדוקי  
השעמים שהחבר ר' אהרן בן אשר ממקום מעוזה  
הקראת טבירה וגו'. Obscuritatem ejus queritur  
ipse editor, ideoque in editionibus Bombergianis  
posterioribus non est repetitus, sed in locum ejus  
liber שיעי הנקרא suffectus.

ut *R. Salomonis Isaacidae*, quem *Jarchium*  
vocare solent, commentarium promittere videat-  
tur. Sunt vero hujus scriptoris eae tantum  
codicis partes, quae spectant librum Esther,  
Canticum et Ecclesiasten; reliqua non item.  
Et Threnorum quidem explicatio, ut a doctissi-  
mo viro Heimann J. Michael, Hamburgensi,  
docemur, est *R. Josephi Kara*, Jarchio fere  
aequalis, quam alias quoque Jarchio falso tri-  
butam esse monet de-Rossius in *Dizionario*  
storico degli autori Ebrei, s. v. Kara. Num  
idem auctor sit habendus commentarii in librum  
Ruth, doctioribus relinquimus decernendum.  
Bene scriptus est codex, caractere minuto,  
quadrato, sed ad cursivum prope accedente; in  
fine libri tantum, fol. 29. v. 30. r., alia manu  
et ineleganti commentarii particulae nonnullae  
exaratatae sunt. Raro in margine leguntur an-  
notationes, partim supplendis lacunis desti-  
natae.

### XXXVI.

(N. 17. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N.  
4. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 6, simili  
caractere scriptus, quo codices nostri XXXIII.  
et XXXIV., continens tria opuscula clar. *R.*  
*Abraham ben Meir*, quem *Aben Esra* vocare  
solent. Sunt ea: 1. אגרת השבט, *epistola poe-*  
*tica de sabbatho*, fol. 1. r. — 4. r. lin. 16.,  
de qua vide Wolfium in *Biblioth. Hebr.* Vol.  
I. p. 78.; de-Rossi *Dizionario storico degli*  
*autori Ebrei*, Vol. I. p. 11. Denuo nuper  
edita est haec epistola ab ill. Luzzatto in  
diario, cui titulus Kerem Chemed, Tom. IV.  
p. 159. sqq. (Prag., 1839).

2. ספר השבט, *libellus de nomine tetragram-*  
*mato*, fol. 4. r. lin. 17. — 6. r. lin. 14.,  
de quo vide Wolfium in *Biblioth. Hebr.* Vol.  
I. p. 79. sq.; de-Rossi l. l. p. 12. Edidit  
eum e cod. Monacensi G. H. Lippmann,  
Fürth., 1834. Caput sextum a Luzzatto quo-



que publici juris factum est in diarii Kerem Chemed Tom. II. p. 77.

3. ערוגת החכמה ופרדס המזומת, *area sapientiae et hortus cogitationis*, fol. 6. r. lin. 15. — v. extr., philosophici argumenti libellus, rhythmica oratione compositus atque agens de mundo, creatione, anima et revelatione. Primus sub hoc titulo eum edidit N. Krochmal in diarii Kerem Chemed Tom IV. p. 1—5. Idem est libellus, de quo egit de-Rossius in Dizionario l. l. p. 13. sub titulo Ormad ammezimâ, varios Wolfii errores corrigens, in Biblioth. Hebr. Vol. I. p. 80. sq. prolatos.

### XXXVII.

(N. 18. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 2. in 4to.)

Codex membranaceus nitidissimus in 4to, foll. 352, continens *R. Mosis Majemonidae* clarissimum opus, quod vocatur *Doctor perplexorum* (מורה הנבוכים), ex Arabico Hebraice versum a *R. Samuele fil. Jehudae, fil. Tibbon*, cujus subjungitur *explicatio vocabulorum insolitorum* (באור על מלות זרות), ab ipso in vertendo libro usurpatorum. Incipit R. Samuelis praefatio fol. 4. r.; Majemonidae epistola ad R. Josephum fil. Jehudae data fol. 7. v.; ejusdem praefatio fol. 8. r.; liber primus fol. 16. v., desinens fol. 112. v.; liber secundus incipit fol. 114. r. et desinit fol. 199. v.; liber tertius incipit fol. 202. r., desinit fol. 315. v. Folia 113., 200. et 201. nihil habent scripti. Fol. 316. r. legitur librarii subscriptio, qua docemur hunc librum scriptum esse Barcinone, a. m. 5108. (i. e. p. Chr. 1348.), in usum medici R. Menachem Bezalel, manu Levi filii Isaaci Pigocar (פיגוקאר), Salmantica oriundi. Sequitur deinde fol. 317. v. praefatio R. Samuelis in explicationem suam vocabulorum insolitorum, quae ipsa incipit fol. 321. v. et desinit fol. 352. v. Recedit ea multis in locis

ab impressis exemplis, ita ut non sine fructu comparatio codicis nostri institui posse videatur.

Accuratissime scriptus est totus codex aequabili manu et eleganti, caractere quadrato ejus formae, qua Hispanienses Judaei uti solebant. Adduntur hic illic in margine correctiones, variae lectiones brevesque annotationes, partim ipsius librarii, uti videtur, manu scriptae. Picturis ornatum erat ab initio codicis folium 3. v., sed iniqua libri tractatione nunc foedatum est. Libri vero secundi tertiique initia, simili modo ornata, etiam nunc omnium colorum splendore gaudent. Singulorum praeterea capitum et sectionum tituli literis auro obductis elegantissime scripti, marginibus pictis inclusi et distincti ornamentis figurisque in libri oram protractis vividisque coloribus pictis.

Praemittuntur codici folia duo, quae nihil habent scripti, nisi quod fol. 2. v. legitur haec inscriptio: "Hunc librum cum quatuor aliis Msstis Ebraicis Amico suo Honoratissimo Nobiliss. Friderico Rostgaard dono dedit J. Bartholin." Et ipse Frid. Rostgaard nomen suum inscripsit fol. 3. v. infra picturas jam paene deletas. — In fine codicis fol. 352. v. leguntur haec:

"Dominico Irosolomino"

et deinde: "Aless<sup>ro</sup> scipione Reuedi—"

"Manta 1592."

et denique:

"visto per me fr. dominico castello"\*)

"1619"

### XXXVIII.

(N. 19. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 3. in 4to.)

Codex membranaceus in 4to min., foll. 636. Continet is *Libri praeceptorum magni*,

\*) Sic hoc nomen videtur esse legendum; sed potest etiam esse: *carretto*, ut Delitzschius legit in cod. Lipsiensi, vid. Catalog. libb. Mss. Bibl. Senat. Lips. pag. 274. cod. II.

(ספר המצות המדול) auctore *R. Mose* (fl. Jacobi) *Mikkotzi*, (מקוצי, h. e. ex oppido Coucy oriundo), eam partem, quae agit de praeceptis legis prohibitoriis, caractere quadrato elegantissimum quidem, sed non semper accurate scriptam. De hoc libro ejusque auctore vide Wolfium in Biblioth. Hebr. Vol. I. pag. 827. sq.; de-Rossi Dizionario stor. degli autori Ebrei, vol. II. p. 67.; Mss. codices Hebr. Biblioth. J. B. de-Rossi, Vol. I. p. 58. sq.; Delitzschium in Catal. libb. Mss. Bibl. Senat. Lips. pag. 276. cod. V. et Zunzium ibid. p. 315. ad cod. IV. et pag. 316. ad cod. V. Incipit praefatio codicis nostri fol. 1. r.; capitulum index fol. 8. r. Ipsius libri initium, fol. 27. r., literis auro et coloribus ornatis distinctum est, singularum libri sectionum initia literis rubro colore pictis. Absolvitur codex fol. 636. r., ubi subjungitur librarii nota ita concepta: ברוך הנותן ליצא כח • ברוך רחמנא המסייען • סיימתי בליל' הלאוין ביום ח'ל' תמוז שנת קל' לפרט: חזק ורחוק הסופר חזן לא יוזק לא היום ולא לעולם עד על סלם • שיצלה • Spatium autem, quod videtur inter voces שיצלה et על סלם, expletum est asini figura, atramento delineata. Absolutus igitur hic liber esse traditur a. m. 5170, p. Chr. 1410. — Primo folio super praefationis initium Christiana manu inscripta sunt verba: ישוע ישיעי. E Bibliotheca Jo. Christiani Kallii migravit in Bibl. Univ. Haun. indeque in Bibl. Regiam.

### XXXIX.

(N. 20. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 7. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 211. continens *R. Josephi fil. Gekatiliae* (ה'יוסף בן גיקאטיליא) opus cabbalisticum, cui titulus: שְׁפָרְתֵי אֲרִיָּהּ i. e. *portae lucis*, de quo vide Wolfium in Biblioth. Hebr. Vol. I. p. 525.; de-Rossi Diz. stor. degli autori Ebrei, Vol. I. p. 125.; Mss. codices Hebr. Biblioth. J. B. de-Rossi, Vol. I. p. 71. sq. Vol. III. p. 13. Bene et distincte

scriptus est codex, caractere quadrato Hispanico, ad cursivum vergente. In prioribus foliis quindecim ipse librarius, ni fallimur, in margine passim notulas adjecit, Latine scriptas, et locos biblicos maxime laudantes. Nomen suum et scriptionis tempus in fine codicis addidit his verbis: נשלם על יד צעיר המחוקקים משה בכמל' היום זלחה עקרוש מגרוש ספרד יום ג' ה' היום: לחדש כסלו שנת ז'לה תררח תתל': (h. e. a. m. 5288. p. Chr. 1637).

### XL.

(N. 21. in 4to.)

Codex membranaceus, in 4to min., literis rabbinicis exaratus, fragmentum exhibens libri, cuius pars haud exigua, ut videtur, cum tegumento, quo antehac vinctus fuit, cum ab initio, tum in fine perit. Constat nunc foliis 76 seu decem plagulis, quae octona habent folia, excepta prima, cuius media pars, fol. 2. et 3, 6. et 7, deest.

Continetur in eo, binis columnis descripta, pars libri *Joreh de'ah* (יורה דעה), qui ordo secundus est operis clarissimi *Arba' turim* (ארבע טורים), auctore *R. Jacobo fil. Ascher, Germano*. Numeri capitulum in margine notati sunt; ab editionibus autem impressis, quibuscum collationem instituimus, Veneta (a. 1589) et Berolinensi (a. 1703), quae in plerisque inter se conveniunt, tam capitulum divisione, quam ipso textu hic codex saepius differt. Incipit in cap. 22do (editt. laudd. 21mo) et desinit in 148vo (edd. laudd. 146.); sed deest in plagula prima pars cap. 24ti et 25ti et quae sunt inter priorem partem c. 29ni et finem c. 34ti.

### XLI.

(N. 22. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 8. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 30. quorum primum nihil habet scripti. Continet *Samuelis fil. Se'adja fil. Motot* (בן מוטות) *Com-*

*mentarium super Aben Esrae commentarium in Pentateuchum*; de quo vide Wolfium in Biblioth. Hebr. Vol. I. p. 1111. et Vol. III. p. 1113. Titulum libro suo fecit auctor: מגלת ספרים *volumen occultorum*; in nostro tamen codice, qui ad Genesis tantum et Exodum pertinet, neque libri nomen, neque auctoris occurrit, si excipias mentionem nominis Motot (fol. 2. r. lin 4. a fine), quae a librario facta esse videtur, auctoris libri, quem scribebat, non bene gnaro. Et hoc quidem non mirum, cum ab impresso haud leviter recedat codex noster multisque supplementis auctus sit. — Exaratus est eodem fere characterē, quo codices XXXIII. XXXIV. XXXVI., adeoque a fol. 2., quod primum est ipsius libri, usque ad finem folii 15. eadem manu videtur esse scriptus, quae codex XXXIV. Minutissimo characterē scripta sunt, quae sequuntur inde a fol. 16. usque ad finem libri. Codex aqua haud leviter laesus est, ita ut in parte libri haud exigua scriptura tantum non penitus deleta sit.

## XLII.

(N. 23. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. Jud. N. 9. in 4to.)

Codex chartaceus in 4to, foll. 8, continens *Spicilegium explicationum ad R. Salomonis (Isaacidae) commentarium in Pentateuchum*, non uno tempore scriptarum, sed ab anonymo scriptore, ut quid inter legendum visum est annotatione dignum, collectarum sensimque suppletarum. Id et codicis adspectus docet et ipse scriptor innuit, his verbis collectioni suae praemissis: איננו הם לקיטו ביאורים על פירוש חזקוני רבינו שלמה זל שלקטתים הנה והנה והעתיקתים הנה פרשה אחר פרשה והנחתו שיטתו מנע בין פרשה לפרשה שאם אראה פירוש ביאור לכתבו לפרשתו. Scriptus est codex eodem fere characterē, quo codices XXXIII. XXXIV. XXXVI., et XLI.

## XLIII.

(N. 9. in fol.)

Codex chartaceus in folio, constans foliis 206, praeter magnam tabulam libro adjectam et praeter alba folia ab initio et in fine voluminis; rabbinicis literis maximam partem conscriptus est, nonnusquam minusculis, tituli tantum, subscriptiones et similia quadratis literis. Figuris diligentissime atramento delineatis ornatus est codex, qui praeterea cum chartae magnitudine tum marginum latitudine et nitido scripturae characterē elegantiae studium omnino praese fert. Ligatus est tegumento pulchro corii rubri, laminis firmiter munito.

Exhibetur in eo liber argumenti cabalistici, qui doctrinas continere dicitur *Isaaci Loriae* (seu *Luriae*), per discipulum eius *Chajjim Vital* traditas, (cf. Bartol. Bibl. Rabb. vol. II. p. 836. Wolf. Bibl. Hebr. Vol. I. p. 671. sqq.), ut titulus hic declarat, qui folio 1. r. quadratis literis inscriptus est:

ספר

עץ החיים

מכוננת יד ה' המוקבל  
אלקי מותרת חיים ויחאל  
זלוקה מדה שקובל מרבו  
ני בוננות קדשנה הרב  
הגדול המוקבל האלקים  
מותרת יצחק לוריא זל  
הרה אשכנזי מדה שלמד  
מפי אלקיה זל

מי האיש החפץ חיים אהוב  
ימים לראות טוב יפנה את  
אוזניו הטוב והנצח בו  
ל שיערים מלאים כל טוב  
אני הסופר הציון  
ישראל

Ad dexteram huius tituli imago Mosis picta est, ad sinistram Aaronis; infra eundem Davidis et Salomonis, superne arca foederis. Sub imaginibus Mosis et Aaronis haec verba

leguntur, rabbinicis literis exarata, quibus scriptor libri nomen suum significavit:

אני הכותב ישראל בן אשך אשך זצל מן מקק סגלך  
המדינת ליטא חזן ר' יוסף בוךבנדר מאלטנא

i. e. "Scripti ego Israel fil. D. Ascher b. m. ex oppido Selz provinciae Litaviae, gener R. Juspae Buchbinder Altonani.

Duo, quae proxime sequuntur folia, 2. et 3, praefationes nonnullas minores exhibent, a Chajjim Vital et Meir Cohen Popers (מאיר כהן פופרס, de quo cf. Wolf. l. l. Vol. III. p. 675. no. 1392.) scriptas.

Fol. 4. r. *questionem* exhibet a *Samuele Padua* Isaaco Loriae propositam huiusque responsum: השאלה ששאל החכם מה' שמואל פדווא אל החכם הרב המקובל אלקי מלמד יצחק לוריא זל והשיב החכם הגדול השובח זו :

Fol. 5. r. est *prefatio* קודם הלימוד, *precatio ante institutionem facienda*, cum ornamentis geniorumque figuris scripta.

Folia 6. r., 7. r. et 8. r. tabulas exhibent sephirarum cabalisticarum, eleganter descriptas et figuris ornatas. — Horum foliorum pariterque folii 1., 4. et 5. pagina altera, et fol. 9. utraque pagina nihil scriptum habent.

Post haec ipse liber sequitur, 182 foliis (10—191) constans, quae numeris hebraicis signata sunt, sed parum accurate, ita ut tota series foliorum 182 assequatur modo numerum קסה (168), quo signatum est fol. 191.

Liber, ut in titulo indicatum erat, in quinquaginta sectiones divisus est, quae שיערים, *portae*, vocantur, quaeque singulae superscriptam habent peculiarem denominationem. Plerumque simul indicatur cuiusque sectionis numerus, raro vocibus numeralibus expressus, ut שער הששי fol. 27. v. ש' הששירי fol. 47. r., alias literarum signis; at non tantum omissa est in nonnullis numeri notatio, ut in sectionibus 1. (post quam absolutam modo legitur 2. 3. 16. 28, sed ipsa etiam numeratio non satis accurate facta est; nam et sectiones quaedam in numeris indicandis pra-

termisae sunt, ut fol. 136. r. שני פרטי דיבור, quae notari debuisset num. 17, quo signatur sequens sectio, fol. 137. v., et numeri quidam praetermissi, ut 25, 26, — sectionem enim fol. 105. r. incipientem) כד fol. 111. r. — et 49, — nam 48vam fol. 183. r.) sequitur נין שער השמות) 190. v.; semel praeterea idem numerus duabus sectionibus tributus: כא fol. 87. r. et fol. 90. v. Postrema recte numeratur נין. Novam paginam singulae sectiones plerumque, neque tamen semper, incipiunt. Habent illae plures paucioresve divisiones, quae fere semper vocantur nomine פרק, in sectione modo secunda כנה; alibi nonnunquam appellatio פרק permutatur cum ש' כד, numeratione aut continuata, ut ש' כד, quae post quattuor דרוש (1—4.) habet quinque פרקים (5—9.), aut singulari, ut ש' כב, quae primum octo פ' habet, deinde ד' 1—6.; cf. ש' כד. In titulis capitulum plerumque, maxime in priore libri parte, indicatum est, quot singulae complectantur פרקים, sed non semper recte. — Praeterea hic illic exhibentur singulares tractatus et disquisitiones. In nonnullis locis diserte notatur, hoc vel illud repertum fuisse scriptum ab Isaaco Loria aut Chajjim Vital, aut audiendo traditum acceptum fuisse. Sectionum seu disquisitionum tituli in superiore margine singularum paginarum constanter adscripti sunt.

Adduntur in reliqua codicis parte disquisitiones et observationes breviores, ad theologiam cabalisticam pertinentes. Et primum quidem sequitur tractatus, cui titulus:

י. e. "de Adamo eiusque praestantia antequam peccavit, et de quattuor קודם שהטא sapientibus, qui ingressi sunt in Paradisum"; שמונת ספיד

qui titulus, ornamentis circumdatus, fol. 192. r. exhibetur; ipsum tractatum tria sequentia folia continent.

Folii 196—200, quæ, excepto 198vo, in priore modo pagina scriptum aliquid offerunt, continentur aliae disquisitiones breviores. Quod exhibetur fol. 196. secundum hæc verba superscripta: "זה שריך לשער דרושי עגולים והיושר לעקב ב", pertinet ad partem secundam sectionis secundæ, cuius hic est titulus: דרושי עגולים והיושר. — Pariter qui fol. 198. r. et v. legitur ספר מביא ספר שערים, *liber ingressus portarum*, duobus capitibus constans, pertinet ad *portam* sive sectionem *liber ingressus portarum*, quæ est decima quarta, fol. 63. r. Folio 201. nihil inscriptum est; neque priori paginæ fol. 202. Huius autem altera pagina tabulam exhibet, in qua *duodecim tribus Israëliticæ cum duodecim signis Zodiaci, mensibus anni, facultatibus sensualibus nature humane atque corporis membris componuntur*, sicut in hoc titulo superscripto indicatur:

אלו הם ים שבטים מנצח ים  
 מזלות בעולם ים הרושי בשנה  
 ים הושים בטבע ים אברים  
 באדם זה סדרם

E regione huius tabulæ, in folio 203. r., pictæ sunt duæ manus. dextera et sinistra, in quibus terni singulorum digitorum articuli literis signati sunt, addita explicatione.

Duo folia sequentia, 204. et 205., tabulas cabbalisticas offerunt. — Versa pagina horum trium foliorum, 203—205., et utraque folii 206. nihil habet; post hæc autem ad calcem codicis addita est magna tabula, sephiras cabbalisticas et figuras exhibens, trium foliorum magnitudine, (num. 207. signata).

Tituli sectionum et tractatum huius libri magnam partem congruunt cum iis, qui secundum conspectum operis עץ החיים, in Knorrii a Rosenroth Kabbala denudata, Tom. II. p. 10. sqq., ad duos primos e sex huius operis tomis pertinent, qui titulos gerunt אמצעות חיים et ספר דרושים; ita tamen, ut partim numerus tractatum apud Rosenrothium sit multo maior, quam sectionum in nostro codice, in primo tomo 21, in secundo

51, partim in nostro tituli reperiantur, qui illic desint, atque ordo etiam sit valde diversus.

Tempus, quo codex conscriptus sit, his indicatum reperitur; primum ad calcem ipsius libri, fol. 191. v., ubi post absolutam sectionem 50. hoc legitur:

סליק ספר עין זה i. e. *Finitus est liber "Arboris vite" ope Dei, qui terram et coelum creavit, hodie die secundo festi Encarniorum 25to (mensis Cislev) anni 509. (i. e. anno Christi 1749.)*

Postrema enim litera ל indicare videtur vocem לעשר, neque vim numeralem hoc loco habere censenda est. Deinde in fine fol. 195. v. hoc scriptum est:

במה בכסליו נגמרה מלכות הקודש לטרם  
 מקץ שנתים ימים ו' ולערב ישראֵל  
 נושע ב'ה תשועה עולמים

i. e. *die 25to Cislev absolutum est opus sanctum ordine post elapsos duos annos, anno 509, (i. e. p. Chr. n. 1749.) qui annus expressus est verbis e loco Jes. 45, 17. petitus.*

#### XLIV.

(N. 2. in 8vo.)

Scheda chartacea, duorum foliorum, formæ 8væ, quæ literis quadratis inscriptum habet *carmen egregium, secundum nomina filiorum hominis* ad ordinem אלה שמנה compositum ab Ill. Cabbalista, Theologo Hispano, doctissimo *Mose Zachuth*, uti declarat titulus:

שיר המנוח על שמות בני אדם  
 לסדר אלה שמות מיוסד מן הגאון  
 המקובל אלהי ספרדי חכם משה  
 זכות וצל

Praeterea auctoris nomen acrostichice quoque indicatur. Idem esse videtur poeta Judæus, de quo agit de-Rossius in *Dizion. storico degli autori Ebrei*, Vol. II. p. 167. sq.

Omnia vocabula, e quibus compositæ sunt sedecim, quibus carmen constat, strophæ, nomina propria sunt hominum.

## XLV.

(N. 24. in 4to.)

Codex membranaceus, in 4to min., foll. 12, quo continetur *Jacobi fil. Ruben*, Altonani, *Narratio de Judaeo homine, Salman ben Wolf*, qui anno 496. (p. Chr. 1736.) die sexto mensis Schebat, qui respondet mensi Januario, ad nundinas Kilienses profectus, instigante maligno quodam homine Kiliae injuste accusatus et in carcerem conjectus, sed post aliquod tempus liberatus sit. Libri titulus, ornamentis parum concinnis instructus, hic est:

בר  
—  
הלללים  
—  
הסדיו יו

אשר לא כלו רחמי והסדיו ;  
ולא יעזוב המצפה המיד להסדיו  
וטוהתי יו לנגדו המיד לזכור הסדיו  
בוה הספר הזכרון אשר עש' להסדיו (\*)  
לפ' ב' זמן בן והאולף א' בן עבדיו ;  
נעשה זמח זכרון בספר לספ' הסדיו  
ונחברי על הקטון שבקטנים אשר ועפר  
יעקב בן ב' ראובן יצו  
לפ'ט  
בחסר' ואמת' קדמו' פניד  
לפ'ק (\*\*)  
נכחם ונמחר באלטווא

Fol. 1. v. legitur praefatio, quattuordecim versibus constans, quorum vocibus initialibus Judaeorum more nomen suum et patriam indicavit auctor: *אני דקטן יעקב בן ראובן יצו באלטווא* :

Fol. 2. r. — 12. r. continent ipsam narrationem; fol. 12. v. leguntur poëmata duo, quae Deum propter liberationem et auxilium praestatum celebrant. In priorie carmine artificiosa ratione vocibus versuum initialibus

\*) I. e. להסדיו יו.

\*\*) Ita videtur esse scriptum.

exprimuntur nomina auctoris et *Salmani ben Wolf*, itemque vocibus finalibus ejusdem hominis nomen Hebraicum: *שלמה בן ברוך*. In altero carmine idem loquens introducitur.

Codex praeter titulum, voces initiales et similia, quadrato caractere scripta, rabbinicis literis exaratus est.

## XLVI.

(N. 3. in 8vo.)

Exemplaria quaedam membranacea *instructorum et formularum*, quibus certa quadam ratione scriptis in variis vitae occasionibus utuntur Judaei hodierni.

1. *Litterae contractus matrimonialis* (שטר כחובה) inter R. Jacobum fil. Israël et virginem, cui nomen *Schena* filia R. Menachem, cognomine *Menke*; rabbinico caractere *Hanniae* scriptae die tertio mensis *Cislev* a. 5487. (p. Chr. 1727.), subscriptis testium nominibus.

2. Similes *litterae contractus* inter R. *Nathan* fil. R. *David* et virginem, cui nomen *Peska* filia R. *Simson*; caractere quadrato scriptae *Altonae* die 18. mensis *Ijjar* a. 5511. (p. Chr. 1751.) Adest testium subscriptio.

3. *Litterae repudii*, quibus *Jacobus* quidam, fil. *Mosis*, dimitti declarat uxorem suam, cui nomen *Ela* filia *Samuelis*; scriptae *Altonae* die vicesimo mensis *Elul* a. 5533. (p. Chr. 1773.) Deest subscriptio testium.

4. Folium quadratum, continens locos *Deut.* 6, 4—9. et 11, 13—21., more *Mesuae* scriptos.

5. *Amuletum* (קמית), folium quadratum, altero latere eosdem illos *Deuteronomii* locos exhibens, altero precationem, e cabbalisticis formulis compositam; scriptum in usum *Leae* cujusdam, filiae *Gitil*.

6. 7. Exempla duo tabulae varios V. T. locos exhibentis, ad imitandam candelabri sacri figuram compositos.

# **CODICES ARABICI.**

# CORANI, CORANI PARTES ET FRAGMENTA.

## I.

(N. 1. in fol., olim N. 17. in fol.)

*Coranus*, fol. min., foliorum 106. chartae orientalis antiquissimae, non laevigatae, characteres Neschi non eleganti et parum expedito scriptus, temporis iniquitate vehementer laesus, ab initio et fine mutilus, ligatura privatus, sed capsula chartacea inclusus. Incipit fol. 1. r. a verbis وما تفعلوا Sur. 4, 126. Hinckelm., deficit fol. 106. v. in voce بعلمه Sur. 35, 12. Exciderunt praeterea folia quattuor: unum post fol. 44 (Sur. 12, 10—36.); unum post fol. 97. (Sur. 29, 31—60.); duo post fol. 98. (Sur. 30, 22—31, 17.) Fol. 6. paene totum evulsum est et fol. 23. r., quod desinebat olim in Sur. 7, 162. primis verbis, quae jam perierunt, excipiunt fol. 23. v. Sur. 1. et alia nonnulla, quae huc non pertinent, atramento pallido et pessima manu scripta; fol. 24. r. autem Sur. 7, 162. continuatur.

## II.

(N. 2. in fol., olim N. 56. in 4to.)

*Coranus*, fol. min., foll. 338. chartae orientalis firmissimae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Integrum Coranum tenent folia 5—334., ita ut fol. 5. r. et 334. v. nihil scriptum sit, primae vero et ultimae binae paginae (fol. 5. v. 6. r. et fol. 333. v. 334. r.) auro et variis coloribus eleganter ornatae sint.

Praeterea fol. 159. v. et 160. r., in quo incipit Sur. 18. (الكيف), margine variis coloribus picto distincta sunt. Quaterna folia Corani corpus integrum et praecedunt et sequuntur; quorum bina illa, quae proxime ipsum librum attingunt, foll. 3. 4. et 335. 336., nihil scriptum habent, aut certe habere debebant; nam nunc quidem fol. 336. v. inscripta est Sur. 111. (تبت) cum praecedentis capituli fine et formula بسم الله, insequenti superscripta, sed ita ut inversae paginae haec omnia inscripta sint nec ultra paginae dimidium procedant. Priora vero et posteriora codicis folia bina Corani initium et finem repetunt, ita ut fol. 1. v. Sur. 1. legatur, fol. 2. r. et v. Sur. 2, 1. sqq., usque ad v. 14. verba في ويمدتم, in quae desinit pagina. Fol. 337. r. incipit a verbis في دين الله Sur. 110, 2. et desinit in vocem ون Sur. 113, 3.; fol. 337. v. integram Sur. 113., 338. r. Sur. 114. continet.

## III.

(N. 3. in fol., olim in Biblioth. Univ. Haun.  
N. 4. in fol.)

*Coranus*, fol., foll. 243. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Ab initio deest Sur. prima. Incipit Sur. 2. fol. 1. r. Desunt praeterea post fol. 49. a Sur. 5, 26. voce عليهم usque ad Sur. 7, 23. vocem مستنقر; post fol. 177. Sur. 36, 17. a voce فذلنا usque ad v. 51. voces تنتهوا



fol. 195. a Sur. 42. 24. vocibus ما تفعلون usque ad Sur. 43. 50. voces يا قوم. Explicit liber fol. 243. r.; ultima tamen Surata et paenultima dimidium alia manu suppleta sunt.

#### IV.

(N. 1. in 4to, olim N. 1. in 4to.)

*Coranus*, 4to, paginarum 663., in charta orientali char. Neschi satis eleganter scriptus, sed parum emendate. Interciderunt hic illic folia nonnulla; inserta tamen sunt ad supplendas ejusmodi lacunas alia folia, ex aliis Corani exemplis desumpta, sed ut accidere solet, lacunis illis non accurate respondentia, sed fere tantum. Sic insertae sunt paginae 462—477.; 484—487.; 500—503. et 628—663. Praeterea post pag. 191. insertum est folium unum optime exaratum, paginarum numeris non signatum, quo continentur eadem, quae leguntur a pag. 190. lin. paenult. usque ad pag. 193. lin. 4. — Usque ad finem pag. 79. ab Europaeo aliquo homine versuum numeri adscripti sunt in margine, et annotationes Latinae haud paucae, interpretationem maxime tectus Arabici trium priorum Corani capitum exhibentes. In fronte libri inscriptum legitur nomen C. P. Müller et annus 1719.

#### V.

(N. 2. in 4to, olim N. 39. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 319. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene exaratus, temporis iniquitate vel usu aliquantum laesus. In fine codicis, fol. 319. r., legitur subscriptio scribae محمد الجوختى.

#### VI.

(N. 3. in 4to, olim N. 55. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 396. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis magno et expe-

ditio, recentiore manu, ni fallimur, Turcica, festinantius scriptus, ab initio et fine mutilus. Praemittitur fol. 1. r. et v. precatio Arabica, ita incipiens: تبارك الذى بيده الملك، cum subscriptione Turcica: تحت تمام اولدى. Fol. 2. r. incipit a verbo فرانشا Sur. 2, 20. Post fol. 7. perierunt sex circiter folia, Sur. 2, 77—104. Deinde pergit codex usque ad Sur. 66, 10. vocem primam. Reliqua desunt.

#### VII.

(N. 4. in 4to, olim N. 61. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 438. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus atque conservatus. Excipit ipsum Coranum, fol. 436. v., precatio, cui inscribitur: هذا دعاء ختم القرآن العظيم، quam sequuntur fol. 438. r. formulae nonnullae sacrae et fol. 438. v. lin. 4. alia precatio, cui titulus: صلوات شريف، usque ad finem paginae.

#### VIII.

(N. 5. in 4to, olim N. 69. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 285. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed temporis injuria aliquantum laesus. Post absolutum Coranum, fol. 285. v., repetitur Surata prima. Additur formula: صدق الله العظيم.

#### IX.

(N. 6. in 4to, olim N. 73. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 303. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. Fol. 303. v. legitur subscriptio:

استغفروا الله الحكيم، من العصيان في القلم،  
والحمد لله على النعمان، والمرسول افضل السلام،

Infra notatur annus 967., quo forsitan descriptum est exemplum.

## X.

(N. 7. in 4to, olim N. 91. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 380.\*) chartae orientalis tenuis, char. Neschi bene scriptus, sed aqua nonnihil laesus. Absolvitur *Coranus* fol. 375. r.; deinde sequuntur nonnulla, seriore manu festinantius scripta, et hoc quidem ordine: 1. fol. 375. r. 376. r. et v. formulae quaedam et preces, quales post absolutam *Corani* lectionem peragi solent: صدق الله العلي العظيم, atque alia similia. 2. Excipiunt ea fol. 376. v. in inferiore paginae parte pauca, quae ad traditionem de propheta pertinent et lectionem *Corani* spectant. 3. Post fol. 377., quod nihil scriptum habet, sequuntur nonnulla, Malaica lingua scripta et regulas de lectione *Corani* exhibentia, fol. 378. 379. Subscriptio additur, ultimas tantum paginas spectans, sed tantum non penitus deleta:

تمت كتاب حوران - - - في يوم الخميس .

## XI.

(N. 8. in 4to, olim N. 48. in 8vo.)

*Coranus*, 4to, foll. 378. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Incipit *Corani* textus fol. 3. v., absolvitur fol. 377. v. Deinde sequitur in media pagina precatio, cui inscribitur: دعاء ختم القرآن, at non integra; abrumpitur enim fol. 378. r. lin. 5. post verba: يا ذا النبياء والامتنان — Fol. 1. r. aliquis ex iis, qui hunc librum possederunt, Turcica oratione inscripsit praecepta nonnulla de lectione *Corani* cum precibus Turcicis, quas sequitur alia precatio Arabica. Alia leguntur, Turcice scripta, fol. 1. v.; sed haec omnia ad ipsum librum non pertinent.

\*) Numeris quidem signata sunt folia tantum 379., sed neglectum est signare folium unum, iuter folia 8. et 9.

## XII.

(N. 9. in 4to, olim N. 65. in 8vo.)

*Coranus*, 4to, foll. 291. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, sed usu tritus. Deest ab initio folium unum, cui inscripta erat *Surata* prima.

## XIII.

(N. 10. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 1. in 4to.)

*Coranus*, 4to, foll. 307. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed mediocriter conservatus. Lacunas enim, quibus abundabat codex, supplevit quidem recentior manus, sed nec eadem semper, nec eleganter ubique; et post *Sur.* 93. desiderantur reliqua.

## XIV.

(N. 11. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 1. in 8vo.)

*Coranus*, 4to, foll. 286. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed usu tritus. Absolvitur *Coranus* fol. 284. v. Folia 285. et 286. fragmenta nonnulla Turcica continent, partim metricè scripta, partim pedestri sermone.

## XV.

(N. 12. in 4to, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 5. in 8vo.)

*Coranus*, 4to, foll. 347. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, usu aliquantum tritus. Primam codicis paginam, fol. 1. v., recentior manus supplevit.

## XVI.

(N. 1. in 8vo, olim N. 14. in 8vo.)

*Coranus*, 8vo, foll. 317. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. Incipit fol. 2. v., desinit fol. 317. r. Ultima tres paginae seriore manu suppletæ sunt.

## XVII.

(N. 2. in 8vo, olim N. 83. in 8vo.)

*Coranus*, 8vo, foll. 253. chartae Indicae non laevigatae, char. Neschi bene scriptus, inde a fol. 199. alia manu eleganti suppletus, bene conservatus.

## XVIII.

(N. 3. in 8vo, olim N. 86. in 8vo.)

*Coranus*, 8vo, foll. 386. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. In calce adscriptus est annus 1167. (Chr. 175 $\frac{1}{2}$ .)

## XIX.

(N. 4. in 8vo, olim N. 3. in 8vo.)

*Coranus*, 8vo min., foll. 386. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minusculo nitide scriptus, optima conditionis, tegumento splendido aurato ornatus. Incipit ipse liber fol. 3. v., desinit fol. 385. v. Sequitur fol. 386. r. post بسم الله الح formula illa: صدق الله الح, eadem manu scripta, qua totus liber. — Fol. 1. v. legitur inscriptio Arabica haec:

عدي هذا القرآن لحضرة الملك الكبير والحاقدان  
الشهير مولانا السلطان فريدرك الثالث ابن السلطان  
خرستيان الرابع صاحب مملكتي دمك ونوروغ وما  
يلينما ادام الله تعالى ايام دولته وخذ ملكه وايد  
سلطنته ارسل من عونته من مدينه ليدته من  
العبد الفقير الحقير مقدسي عطا الله المعروف بابن  
، الصخرى في سنة ١١٩٤. et fol. 2. r. inscriptio  
Latina, isti respondens: "Serenissimo et Au-  
gustissimo Regi, Dn. Friderico III, Euergetae  
suo munificentissimo et Domino clementissimo,  
hunc Coranum κεκαλλιγραφημένον, ceu summae  
gratitudinis, pro multiplicis Regiae gratiae bene-  
ficiis, τεκμηριον, humillime offert sacrae R.  
Majest. subjectissimus servus Theodorus Pe-  
traeus. Miss. Lugdun. Batav. 9. Decemb. Ann.  
1664." — In operculi parte anteriore impressa  
leguntur verba: لا يسه الا المنظرون.

## XX.

(N. 5. in 8vo, olim N. 22. in 8vo.)

*Coranus*, 8vo min., foll. 359. chartae orientalis, char. Neschi minusculo nitidissime scriptus, bene conservatus, tegumento splendido ex holoserico caeruleo ornatus, tribus praeterea involucris sericis et capsula chartacea inclusus. Incipit *Coranus* fol. 1. v., desinit fol. 357. v. Sequitur, foll. 358. 359., post verba بسم الله الح, seriore manu et majore caractere scripta formula illa: صدق الله الح. — Praemittuntur codici folia octo, numeris non signata, quorum ultimo inscripta leguntur haec verba: "Benaras Ostindien Januar 1765. Peter Johan Flor." Pertinebat quondam hic liber ad collectionem Kratzensteinianam.

## XXI.

(N. 6. in 8vo, olim in Bibl. Univ. Haun. N. 6. in 8vo.)

*Coranus*, 8vo, fol. 396. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus.

## XXII.

(N. 7. in 8vo, olim N. 4. in 8vo.)

*Coranus*, 12o, foll. 419. chartae orientalis, sed non ejusdem ubique originis, char. Neschi distincte, sed recentiore manu scriptus, bene conservatus et tegumento splendido instructus, cui impressa leguntur verba: لا يسه الا المنظرون.

## XXIII.

(N. 8. in 8vo, olim N. 5. in 8vo.)

*Coranus*, 12o, foll. 328. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minusculo satis bene scriptus atque conservatus.

## XXIV.

(N. 9. in 8vo, olim N. 6. in 8vo.)

*Coranus*, 12o, foll. 304. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, usu

aliquantum tritus. Adicitur fol. 304. v. scribae nomen العبادحور يحيى (sic) et annus 974. (Chr. 1566.)

## XXV.

(N. 10. in 8vo, olim in Bibl. Univ. Haun.  
N. 7. in 8vo.)

*Coranus*, 12o, foll. 374. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus.

## XXVI.

(N. 11. in 8vo, olim N. 8. in 8vo.)

*Coranus*, 12o, foll. 252. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minimo, sed distincto, nitide scriptus. Fol. 252. r., post absolutum librum atque formulam صدق الله العظيم أجمع، leguntur scriptionis annus (934. Higræ) et nomen scribae: قره كوز بن عبد ربه (vel بن عبد الله; non enim liquet). Sequuntur deinde, fol. 252. v., char. Nesta'liq et alia manu, ut videtur, scripta precatio brevissima, incipiens: اللهم انى توكلت عليك، et nonnullae lineae orationis Persicae, ex parte tamen deletae.

## XXVII.

(N. 12. in 8vo, olim Kallianus N. 653.)

*Coranus*, 12o, foll. 229. chartae orientalis, char. Neschi minuto bene scriptus, bene conservatus. Incipit *Coranus* fol. 1. v., clauditur fol. 228. r., ubi habes in subscriptione nomen scribae: احمد بن محمد بن محمد القديسى الحنفى، et finitae operae tempus: diem 22. mensis Rebi' posterioris a. 846. (Chr. 1442.) Fol. 228. v. in summa pagina recentiore manu scripta est explicatio brevis compendiorum nonnullorum, quibus ad designandas pausas in recitando *Corano* observatas uti solent scribae; quam sequitur ipsius codicis, ni fallimur, manu exarata precatio صدق الله أجمع، usque ad finem fol. 229. — Praemittitur codici inscriptio Au-

gusti Pfeifferi, theologi quondam et lingg. orienti. professoris Lipsiensis, qui hunc librum donavit S. W. Schluetero, theologo Lauenburgensi.

## XXVIII.

(N. 13. in 8vo, olim N. 81. in 8vo.)

*Coranus*, 12o, foll. 386. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minimo et nitidissimo scriptus, optima conditionis. Incipit fol. 1. v., desinit fol. 385. v., ubi in subscriptione habes scribae nomen, Derwisch Muhammed el-Mewlewi Angurawi (انقروى) i. e. Ancyrensis, et scriptionis tempus, mensem Gumada posteriorem a. 1030. (Chr. 1621.) Fol. 386. r. legitur documentum, a. 1098. scriptum, ex quo constat, *Corani* hoc exemplum piis usibus esse legatum (وقف) a beato Musztafa bin Isma'il.

## XXIX.

(N. 14. in 8vo, olim N. 76. in 8vo.)

*Coranus*, formae minimae, foll. 121. chartae orientalis non laevigatae, char. Neschi minutissimo, sed parum eleganti, absque punctis vocalibus scriptus, bene conservatus. Fol. 1. r. legitur *Corani* Surata 1., quae repetitur fol. 1. v. Sed haec et quae proxime sequuntur e cap. 2. caractere paulo majore scripta sunt, minutissimus ille fol. 2. v. demum adhibetur. Praemittuntur codici duo folia, numeris non signata. quorum priori inscriptum est: "Hic *Coranus* λεπτόγραμμος Bibliothecae Regiae inseratur, submisso oblatu a S. R. Majest. subjectissimo Theodoro Petraco. Lugd. Bat. 9. Jul. An. 1665."

## XXX.

(N. 13. in 4to, olim N. 51. in 8vo.)

*Corani sectio I.* (الجزء الاول)، Sur. 1. 1—2, 135. 4to, foll. 41. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis magno eleganter et luxuriose scripta, ita ut spatium amplum inter binas lineas intercedat et senae tantum

lineae in singulis paginis reperiantur; codex bene conservatus.

### XXXI.

(N. 4. in fol., olim N. 54. in 8vo.)

*Corani sectio IX.*, Sur. 7, 86—8, 41., fol. min., foll. 23. chartae laevigatae, char. Neschi bene scripta, minus bene conservata. In margine primae paginae (fol. 1. v.) scripta est precatio, jam iniqua libri nitidissimi tractatione ex parte deleta. Desinit codex in fol. 22. v. Ejusdem exempli partes XII. et XIV. habes in codd. XXXII. et XXXIII., quorum descriptio sequitur.

### XXXII.

(N. 5. in fol., olim N. 55. in 8vo.)

*Corani sectio XII.*, Sur. 11, 8—12, 52., fol. min., foll. 22. In margine paginae primae, (fol. 2. v.) eadem legitur precatio, quae in cod. XXXI. adscripta erat; in calce libri (fol. 22. v.) additur tritum illud:

صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ،  
وكن على ذلك من الشاعدين ،

Ad idem *Corani* exemplum pertinuit, cujus partes fuere codd. XXXI. et XXXIII.

### XXXIII.

(N. 6. in fol., olim N. 56. in 8vo.)

*Corani sectio XIV.*, Sur. 15. et 16., fol. min., foll. 21. In margine paginae primae (fol. 1. v.) repetitur eadem precatio, quae legitur in codd. XXXI. XXXII. In fine, fol. 20. v., superiore manu eaque pessima subscripta est formula: صدق الله الخ.

### XXXIV.

(N. 14. in 4to, olim N. 82. in 8vo.)

*Corani sectiones XXVIII., XXIX. et XXX.*, Sur. 58—114., 4to, foll. 53. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi manu recen-

tiore bene scriptae. Incipit sectio XXVIII. fol. 1. v.; XXIX. fol. 18. v.; XXX. fol. 35. v. Fol. 52. r. subjungitur Sur. 1., quam excipit formula incipiens: التحيات لله, desinens fol. 52. v. Fol. 53. r. scriptum est: "R. P. Thomas a Sto. Joseph Ambianus, Visitator generalis Montis Carmeli, hunc librum attulit ex Alep urbe Turcarum die 13. Julii Anno Dni 1647."

### XXXV.

(N. 15. in 8vo, olim N. 85. in 8vo.)

*Corani pars*, 12o, foll. 158. \*) chartae vetustae Europaeae, ut videtur, char. Mauritano, non quidem eleganti, sed distincto scripta, usu trita. Fol. 1. v. legitur Sur. 1.; deinde sequuntur Sur. 53—114., sed ita ut unicuique fere capiti subjungatur annotatio ex traditione Muhammedica, ad quam introducendam plerumque serviunt hujusmodi formulae: وجاء في الحديث الصحيح ، وقد صلعم ، vel: ورحته صلعم . Non adscripta est annotatio capitibus 63., 68. et 114. Sur. 57. (fol. 30. r.) peculiaris subscriptio subjuncta est: كملت (sic) السورة والحمد لله الخ. Post fol. 36. aliquid excidisse videtur; ibi enim Sur. 58. non ultra vocem بالله, v. 22., progreditur, et fol. 37. r. annotationis Sunniticae ad hanc Sur. conclusio tantum legitur. Explicit Sur. 114. fol. 156. v.; deinde sequitur subscriptio, incipiens: بحر الثمان ، et desinens fol. 157. r. — Fol. 157. v. beati Adleri manu inscriptum est: "Variae *Corani* suratae pessime scriptae"; quod non verum.

### XXXVI.

(N. 4. codd. Cuficorum.)

*Fragmentum Corani* membranaceum, char. Cufico litteris minusculis nitidissime scriptum,

\*) Numeris signata 157. tantum reperiuntur, sed neglectum est signare folium unum, inter foll. 73. et 74.

\*\*) Ita scriptum est in codice. Pro الثمان sine dubio scribendum erat الثمانى .

fol. 12., altorum novem pollices cum dimidio, quattuordecim et dimidium latorum. Fol. 1. r. incipit a verbis ما كان أبوك Sur. 19, 29. Hinckelm. Post fol. 10., desinens in verbis في الصور ونحششر Sur. 20, 102., desunt folia duo. Pergit enim fol. 11. verbis ما بين أيديهم Sur. 21, 28. Desinit fol. 12. v. in voce وقاله Sur. 21, 58. Lineolis notantur in hoc codice litterarum signa diacritica; vocalium puncta rubro colore appingi solent; signa orthographica videntur esse neglecta. — Fol. 1. r. in ima pagina legitur: "Cairi 1626. 18. Martii. 7."; fol. 12. v. in summa pag.: "Friderici a Bockwoldes". — De hoc libro cf. Adleri descript. codd. quorundam Cuficorum, (Altonae, 1780. 4to) pag. 22. Uberiorem descriptionem habes atque accuratiorem apud Lindbergium in libro, cui titulus: Lettre à Mr. Bröndsted sur quelques médailles Cufiques et sur quelques manuscrits Cufiques. Copenh., 1830. 4to, pag. 59. sq. Specimen scripturae accurate delineatum adjecit vir doctissimus, Pl. XII.

### XXXVII.

(N. 2. codd. Cuficorum.)

*Fragmentum Corani* membranaceum, char. Cufico litteris minoribus et atramento pallidiore scriptum; folia habet 58., quinque pollices et novem lineas alta, novem pollices lata. Fol. 1. r. incipit a verbis قلنا لا تخف Sur. 20, 71.; desinit fol. 56. r. in verba, quae claudunt Sur. 23, 57. Adjicitur tamen in fine paginae vocabulum ايه, auro obductum et aureo circello inclusum; quod quid hic sibi velit, non assequor.\*) Fol. 55. v. 56. r. ornamentis aureis distincta sunt; fol. 56. v. 57. r., quae nihil scriptum habent, variis ornamentis pictis et aureis omnino occupantur. Fol. 57. v. nihil habet praeter nomen "Friderici a Bockwoldes",

\*) Fallitur Lindbergius autumans hoc vocabulo indicari finem unius et triginta sectionibus Corani; tota Sur. 23. pertinet ad sectionem XVIII.

quod legitur in summa pagina. Fol. 58. v. recentiore manu, litteris ad char. Neschi prope accedentibus, negligenter scripta sunt haec verba: المؤمنين مائة وتسع عشرة آية, ad cap. 23. inscriptionem pertinentia. Alia nonnulla addidit alia manus, sed tam male picta, ut legi vix possint. — In hoc codice litterarum signa diacritica notantur lineolis, vocalium puncta rubro colore; negliguntur signa orthographica. Cf. Adleri descriptionem, l. I., pag. 21.; uberiorem Lindbergii descriptionem, l. I., pag. 65. sq. Specimina codicis habes apud Adlerum, Tab. II., et apud Lindbergium, Pl. X.

### XXXVIII.

(N. 3. codd. Cuficorum.)

*Fragmentum Corani* membranaceum, char. Cufico litteris minoribus bene scriptum; folia habet 56, sex fere pollices alta, novem lata. Incipit fol. 1. r. a verbis زاحق ونكم الويل Sur. 21, 18. Post fol. 7., desinens in voce ينشروا [ن] Sur. 21, 41., deest folium unum. Fol. 8. incipit a voce يعكسون Sur. 21, 44. Desinit codex fol. 56. v. in vocibus ارض محصرة [ن] Sur. 22, 62. Notantur lineolis litterarum signa diacritica, rarius vocalium puncta, rubro colore appicta; non vero signa orthographica. Notabilis in hoc codice indicatio frequens lectionum variarum; signis enim litterarum diacriticis, atramento scriptis, et vocalium punctis rubris subjunguntur alia, viridi colore picta. Cf. Adlerum, l. I. pag. 22. Lindbergium, pag. 62. sqq. et Pl. VIII.

### XXXIX.

(N. 7. codd. Cuficorum.)

*Fragmentum Corani* membranaceum, char. Cufico, litteris majusculis bene scriptum, sed haud leviter laesum, fol. 58., quinque fere pollices altorum, novem latorum. Ab initio libri in tegumenti parte interiore inscripsit nomen suum b. Frid. Münter, S. R. Selandiae

episcopus, ex cujus bibliotheca in Bibliothecam Regiam migravit hic liber. Addidit Münsterus haec verba: "Munus Danielis Dumreicher, Danorum in Aegypto proxeni. Hafniae, MDCCCXXVI." Praeterea idem Münsterus prae-misit notitiam de Corani partibus, quas codex exhibet. Incipit fol. 1. r. a verbis [و]جدنا [و]اباعنا Sur. 21, 54.; deficit fol. 58. v. in verbis [و]كن يناله [و]لتتقوى Sur. 22, 38. Puncta diacritica rarissime apparent; vocalium signa, rubro colore picta, saepius adjiciuntur; signa orthographica nulla. Attamen ubi litterae hamzatae tribuenda erat vocalis, viridi colore hanc appinxit scriptor, non rubro; ubi simul exprimenda erat nunnatio, viridi colore alterum expressit vocalis signum, alterum rubro. Lectiones variae simili modo notantur, ut in cod. nostro XXXVIII., ita ut variis coloribus varietas vocalium exprimatur, et signorum diacriticorum, adeoque litterarum consonantium; de qua re vide descriptionem uberiorem Lindbergii, l. I. pag. 56. sqq. Specimen quoque is dedit ibidem, Pl. VI.

## XL.

(N. 5. codd. Cuficorum.)

*Fragmentum Corani membranaceum, char. Cufico* majore bene scriptum, minus bene conservatum; folia sunt 31. \*), novem fere pollices alta, duodecim cum dimidio lata. Incipit fol. 1. r. a verbis [و]أوبناها الى ربوة Sur. 23, 52.; desinit fol. 31. in verbis [و]مغفرة ووزق Sur. 24, 26. Adsunt puncta diacritica, lineolis notata; saepe etiam vocalium signa, rubro colore picta, et nonnunquam, ubi locus erat Hamzae, viridi; notae orthographicae negliguntur. Variae lectiones indicantur haud raro, eodem quem diximus modo. Cf. praeter Adlerum, l. I. pag. 22., descriptionem Lindbergii, pag. 60. sqq., cui scripturae specimen adjecit.

Pl. XI. — E codice nostro XLII. (N. 6. codd. Cuficorum) tria folia ad hunc codicem pertinere, primus animadvertit Lindbergius.

## XLI.

(N. 1. codd. Cuficorum.)

*Fragmenta Corani membranacea, char. Cufico*, litteris maximis, atramento nigerrimo nitide scripta; folia sunt 36. \*), septem pollices et novem lineas alta, undecim lata. Quattuor habes ejusdem codicis fragmenta: 1) Fol. 1—3. a verbis [و]أخاف الله Sur. 59, 17. usque ad [و]السلام [و] Sur. 59, 24. Desunt deinde folia duo; perguit enim codex: 2) fol. 4. r. verbis [و]قد كنت لكم Sur. 60, 4. et desinit fol. 34. v. in vocibus [و]ما في السموات و[و]ما Sur. 64, 1. 3) Fol. 35. incipit a verbis [و]يحدث بعد ذلك Sur. 65, 1., desinit in [و]يؤمن Sur. 65, 2. 4) Fol. 36. denique, in margine laesum, e Sur. 66. continet versus primi vocem extremam [و]رحيم, versum 2. et tertii partem, ita ut desinat in vocibus [و]وأعرض عن. — Fol. 36. v. in ima pagina scriptum est nomen Friderici a Bockwoldes. Litterarum puncta diacritica paene nusquam apparent; vocalium signa saepius appinguntur rubro colore, et nonnunquam, ubi locus erat Hamzae, flavo. Plerumque tamen signum Hamzae lineola rubra notatur, adjecto saepe puncto caeruleo, vocalem designante; eademque lineola, signum Hamzae denotans, vel tum appingitur, cum locus erat Waszlac, ut recte exposuisse videtur Adlerus, l. I. pag. 32., a cujus sententia non erat quod recederet Lindbergius. Signum quoque Teschdid rubro colore eademque forma notatur, qua in scriptura Neschi, ita tamen ut ipso loco, quem occupat sive supra litteram, sive infra, sive in media linea, simul vocalis indicet naturam. Cf. Adlerum, pag.

\*) Apud Adlerum, l. I. pag. 22, 29 tantum folia numerantur; vid. notam ad cod. XLII.

\*) Apud Adlerum, l. I. pag. 21, 34 tantum numerantur folia.

21. 32. sq.; Lindbergium, p. 64. sq. cum specimen Pl. IX.

## XLII.

(N. 6. codd. Cuficorum.)

*Fragmenta Corani* membranacea, char. Cufico litteris majoribus bene scripta; folia 6.\*), octo fere pollices alta, lata pollices duodecim cum dimidio. 1) Fol. 1. r. continet lineas quattuor, auro ornatas, quae Corani quidem partem non exhibent, sed loco tituli ad introducendum librum sacrum inservisse videntur, aut, quod veri similis, in fine codicis Coranici ad clausulam formandam. Lectu sunt difficillimae hae lineae; e prioribus duabus haec mihi videor eruisse:

— الله — عتايه لا يحل لاحد من ا  
مسلمين ان — ولا — له فلا — فلا

Ultima vox lin. quartae fortasse legenda est: *لعره*. — Fol. 1. v. ornamentis aureis pictisque repletum in media pagina offert verba: صنعہ "fecit el-Hasan filius —", quae verba complere debebant sine dubio in pagina sequenti nomen patris el-Hasani et id genus alia.\*\*\*) In margine superiore leguntur verba: *بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين* in inferiore: *الرحمن الرحيم ملك يوم اياك تعبد* *واياك*; Sur. 1. initium, omissio tantum per incuriam vocabulo *الدين* post vocem *يوم*. Reliqua ejusdem capituli pars sequi debebat in pag. sequenti.

2) Fol. 2. continet Sur. 15, 19—21. a verbis *[والارض مددعا]* usque ad verba *وما ننزله*. Adsunt vocalium signa rubro ple-

rumque colore picta et, ubi locus erat Hamzae, viridi. Raro notantur puncta litterarum diacritica, et recentiore quidem manu; cf. Lindbergium, l. l. p. 55. sq. et Pl. V.

3) Fol. 3. continet Sur. 2, 16—18. a verbis *من الصواعق لا يبصرون* usque ad verba *من الصواعق*. Vocalium signa rubro plerumque colore, puncta diacritica lineolis colore viridi pictis notantur et sic quoque signum Teschdid, vocalis simul locum tenens. Cf. Lindbergium, l. l. pag. 58. sq. et Pl. VII.

4—6) Foll. 4—6. pertinent ad codicem nostrum XL., quod recte vidit Lindbergius. Continet autem Fol. 4. Sur. 3, 96—99. a verbis *يا ايها الذين* usque ad vocem *وكنتم*; fol. 5. Sur. 24, 47—50. a verbis *فريق منكم* usque ad *قول المؤمنين*; fol. 6. Sur. 24, 58. 59. a verbis *كما استاذن* usque ad *خير نين*. Cf. Lindbergium. l. l. pag. 60. sqq.

In fine codicis adjiciuntur litterae illae cl. viri *Fourmont*, quas partim publici juris fecit Adlerus, l. l. pag. 22. sq. Agunt eae de hujus codicis foliis 1. et 2. et de duobus aliis, quae jam codici XL. adjuncta esse suspicamur; sed produnt litterae auctoris in his rebus ignorantiam.

## XLIII.

(N. 7. in fol.)

*Corani fragmentum*, formae maximae. Folia sunt duo chartae orientalis crassae et laevigatae, ejusdem exempli magnificae particula, cujus fragmenta ampliora. Dresdae in Bibliotheca Regia et Lipsiae in Bibl. Senatoria asservata, uberius descripsit Ill. Fleischer; vid. Catalog. codd. MSS. orient. Bibl. Reg. Dresd. pag. 74. n. 444. et Catal. libb. MSS. Bibl. Senat. Lips. p. 352. sq. n. XXXVII. Scriptus erat codex ille characterе *ṣulṭi* maximo aureo et variis coloribus ornamentisque implicato, Baghdādi a. 706. (Chr. 1306.), jussu imperatoris Mogolici Oelgaitu-Chân Chudābende Ghijāṣ-eddīn Muhammed, Čingiz-Chānidae. —

\*) In Catal. Bibl. Reg. MS. numerantur folia 3.; veri simile est, duo folia, quae quondam huic cod. juncta fuere, jam ad cod. XL. esse relata, qui Adleri tempore erat foliorum 29., nunc est foll. 31. Sed tria folia, quae adhuc cod. nostrum XLII. claudunt, ad eundem illum referri debebant, cujus partem olim ea fecisse, recte vidit Lindbergius.

\*\*) Errat Lindbergius, l. l. pag. 55., legens: صنعہ *الحسنين*, quod vertit: "artificium pulchritudinum".



Foliorum ordo in hac nostra particula inversus est; posterius enim incipit a voce بالآخرة Sur. 41, 7. Hinckelm., et desinit in extrema voce versus 9.; prius incipit a versu 10. et desinit in voce صاعقة, v. 13. — Annota-

mus, figuram signi orthographici Waszl ita in hoc codice esse efformatam, ut litteram Szád accurate referat; est enim illud signum vocis صلة compendium.

## CODICES DE INTERPRETATIONE CORANI.

### XLIV.

(N. 8. in fol., olim N. 31. in fol.)

*Commentarii in Coranum fragmenta* duo, fol., foll. 160. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi nitidissime scripta. Folia tantum 11—13. alia manu minus eleganter suppleta sunt; sed fol. 13. v. ne dimidiam quidem paginae partem occupat scriptura, ita tamen ut non sit lacuna inter hujus supplementi extrema verba et folium sequens. Corani verba, ad quae pertinet commentarius, partim rubro colore scripta, partim auro obducta sunt, saepissime vero librarius explorare lacunas, textui destinatas, neglexit. Incipit fragmentum prius fol. 2. r. in media explicatione Sur. 9, 43., et ab his quidem verbis: صريح في أنه سبحانه وتعالى. Desinit fol. 24. v. in explicatione Sur. 10, 20. init., in verbis: من! غير اختلاف وذلك من. — Alterum fragmentum, a fol. 25. r. usque ad finem codicis, fol. 160. v., continet commentarium in Sur. 2, 92—4, 139. Incipit ab his verbis: كفر بما معه من الكتاب, desinit in verbis: وقرئ شاذاً مثليهم بانفتح لاضافته الى غير متمكن كقوله تعالى مثل. — Auctoris nomen non proditur. Neque Beidhâwium esse, neque Zamach-scharium, constat. Viri docti, quibus major librorum Arabicorum copia praesto est, ut possint comparatione instituta cum aliis commentariis, favente numine, indicare auctoris nomen, subjungimus hoc loco initia capitum Corani tertii, quarti atque decimi. Cap. III.

(fol. 74. v.): امر الله لا اله الا هو قد سلف ان ما لا يكون من هذه الفواتح مفردة كصاد وى ونون ولا موازنة لمفرد كما ميم وكنا سين ويا سين الموازنة لتقابل وهابيل وكنا سين ميم الموازنة لدارججد حسبما ذكره سيبويه في الكتاب.

Cap. IV. (fol. 121. v.): يا ايها الناس خطاب يعبر حكم المتكلمين عند النزول.

Cap. X. (fol. 18. v.): آثر بتعظيم الرأه المفتوحة: وقرئ إبالة اجراء للصلية مجرى المنقلبة عن الياء وقرئ بين بين.

### XLV.

(N. 15. in 4to, olim N. 41. in 4to.)

*'Iszám ed-dini annotations ad Beidhâwii commentarium in Coranum*, 4to, foll. 420. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scripta; codex bene conservatus. Fol. 1. r. inscriptum est, sed non ab ipsius codicis manu: هذه حاشية مولانا عصام الدين على تفسير القاضي ابيضاوي نفع الله تعالى بها امين. Praefationis initium, fol. 1. v., iis verbis fere respondet, quae laudat Hâg'i Chalfa, edit. Flügel. vol. I. p. 477., tantum quod in codice perperam scriptum videtur: et بارقادان et بارقاد pro انقران. Auctoris nomen sic exhibet praefatio: ابراهيم بن محمد بن عربشا[ه] الاسفراي (sic) المشتير. بعصام الدين. Inscriptis hunc librum Sultâno Suleimân bin Selim bin Bâjezid. Mortuus est Samarqandae, a. h. 943. (Chr. 1539/7.) Incipiunt annotationes ad Beidhâwii praefationem

fol. 2. r. extr. et desinunt in fine suratae 5. Deest Sur. 6., ad quam annotationes 'Iszâm ed-dîni pertigisse docet 'Hâg'i Chalfa, itemque Sur. 78—114. Fol. 419. r. in fine suratae

تمت المائدة legitur subscriptio ita incipiens: تمت المائدة وعمت الفايده وحمد الله على الانعام cet. Librarii nomen non additur, neque scriptionis annus.

## XLVI.

(N. 9. in fol.; olim N. 30. in fol.)

*Appendix ad commentarium Beidhâwii in Corani Sur. I.*, auctore *Mu'hammed Emin bin Szadr ed-dîn ês-Sîrwânî*; fol., foll. 85. chartae orientalis laevigatae, char. Nestâliq bene exarata, bene conservata. Auctoris nomen exhibet praefatio, fol. 1. v., cuius prima verba laudat 'Hâg'i Chalfa, ed. Flügel. vol. I. p. 479. Idem mortuum esse perhibet *Eminum* a. h. 1020. (Chr. 1611.); num recte, dubitare licet. In fine enim codicis, fol. 85. r., legitur subscriptio, ita incipiens: تم ما يتعلق بسورة البقرة وقد كنا يكتب [نكتب] قبل هذا التاريخ بعشرين سنة على سورة الفاتحة ما يتعلق بكل مواضعها المشككة لكن الآن وقع تمديد كثير وتقسيم غير يسير والتعويل على الاخير والله على كل ما يشاء قدير. Quibus verbis manifesto docet ipse libri auctor, novis curis emendatam hanc prodire operam, cujus primam editionem viginti annis ante jam paraverat, et ad secundum quoque Corani caput commentarii appendicem Deo volente sese editurum. Quod cum ita se habeat,

ea etiam, quae praecedunt, scriptionis tempus (a. 1034.) indicantia, ipsius auctoris verba esse, veri simile est, repetita, ut saepe fit, a librario. Firmatur haec conjectura eo, quod altera quaedam sequitur annotatio, scriptionis tempus ita indicans: وتم في اواخر شهر جمادى الاخر من شهور سنه وثلاثين واثم. Spatium inter voces سنه et ثلاثين relictum est vacuum. Additur denique scribentis nomen موسى بن شريح امين, qui videtur esse auctoris filius. Sed ne hunc quidem nostrum codicem scripsisse inde colligitur, quod anni designatio ex parte relicta est imperfecta, quod sane fieri vix potuit, nisi librarius quidam ex alio codice haec omnia transscribens incidisset in vocabulum tam male pictum, ut omittere illud satius duceret.

## XLVII.

(N. 10. in fol.; olim N. 19. in fol.)

*Commentarius in loca difficiliora Corani*, auctore *'Abu Abd allâh Mu'hammed bin 'Ali ês-Sâtibi*; fol., foll. 133. chartae recentioris Europaeae laevigatae, char. Neschi distincto scriptus. Fol. 1. r. legitur inscriptio: هذا كتاب التفسير (sic) انقران للامام الشنبيي (sic) رحمه الله تعالى. (sic) ونفعنا به امين <sup>1174</sup>م. Alia inscriptio fol. 1. v. ante praefationem minio exarata est: كتاب الابواب في شرح مشكلات الكتاب مما اتفه بعض من المتأخرين وغواشاني الامم اعرف بالله ابو عبد الله محمد بن علي الاندلسي الحاج انشطي الترعوري رحمه الله. Incipit praefatio his verbis: احتجب بشده ظنوره عن ان تدرك الابصار. Ipse commentarius ad sur. 1. incipit fol. 7. r. desinit fol. 133. v. in sur. S3. in quam commentarius ad finem non productus est.

## CODICES PRECATIONES AUT CONTINENTES AUT SPECTANTES.

## XLVIII.

(N. 16. in 4to; olim N. 27. d. in 4to.)

*Tractatus de arcanis invocationis Dei cum exhortatione ad eam peragendam*, 4to, foll. 10. chartae Europaeae, ut videtur, char. Neschi pessime scriptus, bene conservatus. Inscriptio initio libelli, fol. 1. r., haec est: هذه الرسالة، في أسرار الذكر والحث عليه آماتنا الله على حبه. Desinit codex fol. 10. v. in media pagina. Auctoris nomen ignoramus.

## XLIX.

(N. 16. in 8vo; olim N. 71. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 159. chartae Europaeae, ut videtur, laevigatae, char. Neschi bene scriptus atque conservatus. Continet is:

I. *Commentationem de formulis bene precandi Muhammedi prophetae*, auctore *Abū 'Abd allāh Muḥammed bin Sulcimān el-Guzālī*. Inscriptio fol. 1. r.: هذا دلائل الخيرات. 1175م. Incipit ipse liber fol. 1. v., ubi auctoris nomen habes ita scriptum: سيدى محمد بن سليمان الجزولي رحمه الله تعالى. Praeferimus tamen nos scriptionem *الجزولي*, Vethium secuti in editione libri *Lubb el-lubāb*, s. v. — Libri nomen plenius exhibet praefatio, fol. 2. r.: كتاب دلائل الخيرات وشوارق الانوار في الصلوة على النبي المختار. Cf. *Hāgi Chalfa*, ed. Flügel. vol. III. p. 235.; ill. de Hammer in catal. MSS. (Wiener Jahrbücher, Vol. LXXX. Anzeigebl. p. 43. sqq.) n. 262.; *Fleischer* in catal. biblioth. Reg. Dresd. p. 43. n. 285.; *A. Kraft*, die Handschriften der K. K. Orient. Akad. zu Wien, n. CDXLII.; Catal. MSS. b. *Silvestre de Sacy*, n. 37. 38. — Nomina et epitheta prophetae ducenta et unum recensentur fol. 7. r. — 9. r. Templi Meccani (non Medinensis, quod est in cod. Dresdensi.) delineationem exhibet fol. 9. v., aliam, quae quid significet, nobis non liquet, fol. 10. r.

II. Fol. 58. v. sequitur *introductio in carmen celebratissimum el-Burde*: قال الشيخ نور الدين ابو الحسن علي بن جابر رضى الله عنه املا على الامام شرف الدين ابو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد البوصيري ان سبب انشاء لهذه القصيدة المباركة الخ. Ipsum carmen habes fol. 61. r. med. — 71. v. lin. 1.

III. Excipit illud *catalogus nominum Dei*: اسماء الله المحسى.

IV. Deinde sequuntur *precationes variae* atque alia, quae cultum et superstitionem Muhammedanorum spectant, quorum indicem subiungimus: fol. 72. v. — 78. v. med.: وضيعة (وظيفة) الشيخ --- ابي العباس احمد بن احمد بن محمد ابن عيسى البرتوسي المدعو (sic) بزروق رحمه الله. Fol. 78. v. med. — 82. v. lin. 5. a fine: expositio virtutum precationis, quae vocatur *حرز فضائل حرز الاقسام* وخواصه نفعنا الله به تاليف: الاقسام Fol. 82. v. lin. 4. a fine: ipsum carmen, cui titulus *حرز الاقسام*; auctoris nomini in inscriptione puncta vocalia adjecta sunt haec: *محمد بن خلف*.

Fol. 96. v. lin. 5. a fine: *حزب التمس للشيخ ابي* *حزب التمس للشيوخ ابي*. Fol. 98. r. lin. 6. a fine: *الحسن الشاذلي*. Fol. 104. v. lin. 2: *حزب التوسل للامام* --- *ابي الحسن الشاذلي*. Fol. 106. r. med.: alius *حزب* ejusdem *'Sādīlitae*. Fol. 113. r. med.: *الحزب الصغير المسمى بحزب الجرم والحفيضة للشيخ* --- *نور الدين ابي الحسن* *حزب الفلاح*. Fol. 115. r. med.: *الشاذلي (sic)*, auctore *سيدى محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر بن سيدى سليمان الجزولي (sic)* رحمه الله. Fol. 115. v. lin. antepaen.: *دعاء الرب الاحمر*. Fol. 118. r. med.: *Sur. 18. (الكيف)*; fol. 123. v. lin. antep.: *Sur. 56. (الواقعة)*, utraque cum annotatione marginali. Fol. 125. v. lin. 4.: *قصيدة الهمزية*, cuius initium non sine mendis sic exhibet codex noster:

صلوات عليك يا خير عبادي ، وسلام مجدد وثناء ،  
كيف ترفي رقيبك الانبياء ، يا سماء ما تطاولتها سما ،

Fol. 152. v. init.: carmen, auctore ريبيعة السيدة  
فصل انكز . Fol. 153. v. med.: العذوية رحمها الله ،  
فيه --- ازمة عظيمة على شهور العجم ونذكر --- كل  
شهر وما يكون فيه مما لا بد من معرفته من سعادة الايام  
ابريل ، مارس ، فبراير ، يونيو ،  
نوفمبر ، اكتوبر ، سبتمبر ، غشت ، يولي ، يونيو ، مايو ،  
Desinit codex fol. 159. v. extr. — دجنبر .

## L.

(N. 17. in 8vo.)

Eadem commentatio *Muhammedis el-G-usali*, quam exhibet codex XLIX., in 12<sup>o</sup>, foll. 136. non compactorum, sed in capsula coriacea inclusorum. Charta recentior Europaea laevigata, scriptura Africana bona, codex bene conservatus. Concordat cum codice praecedente usque ad ejus fol. 58. r. Fol. 18. in utraque pagina picturas exhibet, sed ab altero codice diversas. In margine notatur non modo finis partis quartae, tertiae, dimidia, duarum tertiarum et trium quartarum totius liturgiae, sed etiam finis uniuscujusque precationum centuriae. Fol. 136. r. in fine libri harum precationum traditur numerus esse 534.

## LI.

(N. 18. in 8vo; olim N. 66. in 8vo.)

*Preces Jahjue es-Sirwani*, in 8vo min., foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptae, bene conservatae. Inscriptio, quae ipsas preces praecedit, fol. 1. v., haec est: هذا ورد حضرت سلطان المشايخ السيد  
Turcicum produnt aut Persicum librarium puncta, quae vides apposita, vocalia. Desinit codex fol. 13. r. sub finem, sed non videtur absolutus.

## LII.

(N. 17. in 4to; olim N. 27. e. in 4to.)

Precationes *Abd el-qadiri el-G'ilani*, clarissimi Muhammedanorum theologi, cum aliis quibusdam similis argumenti, in 4to, foll. 6. chartae orientalis laevigatae, char. Africano male exaratae; codiculus usu aliquantum tritus. Fol. 1. r. legitur inscriptio haec: فتح انبصرت  
تعبد القادر رضي الله عنه وعنا بركاته وعنايته يا رب العالمين. Incipit ipsa haec precatio fol. 1. v. Aliam habes fol. 2. v., quae inscribitur: هذه  
اغاثة [اغاثة] العارفين وغاية منى (sic) انواميلين للعوث الاعظم سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس سره. Fol. 5. r. lin. 4. legitur subscriptio: نعم اورد الخمس  
ibid. pag. fere media: وهذا انشاد على لسان الشيخ عبد القادر, et  
طريقة ثنية في: 5. v.: طريق الاستخارة, Fol. 5. v.: فائدة في الاستخارة  
ايضا, باب اذا اردت ان تعرف كل الزوجين يتفقان ام لا, فائدة جلييلة من فوايد مولانا سيدنا محمود شيخنا.  
Desinit codex sub finem huius paginae.

## LIII.

(N. 1. rotulorum; olim N. 75. in 8vo.)

Rotulus, tredecim ulnas, pollices duo cum quadrante longus, quinque fere pollices latus. chartae orientalis usu nonnihil tritae, char. Neschi haud male scriptus, inclusus in capsula lignea, corio obducta, continens *precationes magicas*, quas vocant السبعة, et alia quaedam ejusdem generis. Caput voluminis divisum est in sectiones nonnullas minores, quae continent primum haec verba e Sur. 3. v. 16. et 17. desumpta: عوانعير الحكيم ان الدين  
قل انبم منا: 25. v. 25. وعند الله الاسلام, الملك توفى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, Sequitur recensio nominum Dei et ex eodem versu Suratiae 3. quae restant: وتعر من تشاء  
Ilas sectiones singulas limbus circumdat triplex. Coranica itidem continens: exterior

atque interior minoribus litteris, minio exaratis, scriptus est; medius majoribus litteris et atramento. Eadem ratione triplici limbo inclusa est reliqua pars voluminis, quae continet formulas hasce: primum دعاء السيفي (sic); tum septem illas, quibae inscribuntur الاول التيبكل cet. usque ad septimum; alias deinde, quarum hi sunt tituli: محبة وعطفه، للنفوس والفروع، عقد لسان، لهما ندخول الملوك، لابطال السمر، لوجع العينين، لهما لضرب السيف: denique: والجرح، لوجع الراس، باب الفتح، cum delineatione ensis; لرمي النشاب، cum delineatione arcus et sagittarum; لعنن الرمح، cum

delineatione hastae; (sic) عصاه موسى، cum delineatione baculi Mosis; للشمس والقمر، cum delineatione solis et lunae; لجدب الرزق، cum delineatione palmae manus, ut videtur, patinam aut aliud vas ferentis; للحيمة والعقرب، cum delineatione serpentis et scorpionis; لعسر الولادة، Agmen claudit tabula apotelesmatica cum subscriptione, quae incipit: نفر التيبكل المبارك. Infra legitur: وافق فراغ التيبكل المبارك cet.; additur scriptionis tempus, m. Ramadhán, a. h. 803. (Chr. 1401.) et scribentis nomen, 'Ali bin A'hmed bin Mu'hammed el-Ma'halli (المحلى).

## CODICES DE TRADITIONE PROPHETICA.

### LIV.

(N. 11. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 3. in fol.)

*Pars prima libri Gemma pura*, quo refutatur Beihaqius in corpore traditionum majore, auctore 'Alá ed-din Abú-'l-hasan 'Ali bin Fachr ed-din 'Uṣmân el-Mârdini, 'Hanefita; fol., foll. 195. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scripta, sed omissis saepissime punctis diacriticis; codex ex parte tineis corrosus et aqua laesus. Fol. 3. r. inscriptus est, praeter nomina hominum nonnullorum, qui codicem quondam possidebant, hic titulus: الجزء الاول من الجوهر النقى في الرد على البيهقي. Idem legitur apud Hâg'i Chalfam, ed. Flügel. vol. III. p. 627.; item vol. II. p. 654., additis tamen verbis: في سننه الكبير. Auctoris nomen, quod dedimus, integrum habes fol. 3. v. in capite praefationis, cujus prima verba Hâg'i Chalfa quoque exhibet. Mortuus est secundum eundem a. h. 750. (Chr. 1349.) Desinit codex fol. 195. v. Subscriptio librarii promittit partem secundam, incipientem a capite de jejuniis, et notat scriptionis annum 798. (Chr. 1396.), et mensem G'umadá posteriorem. — Juncta sunt codici folia duo non compacta, quae supple-

mentum trium fere paginarum continent, ad locum de ritibus in precando observandis pertinentium. Lacuna, cui supplendae destinatae sunt, in media aliqua pagina esse videtur, neque accuratius eam indicare possumus. — Fol. 1. v. et 2. r. nonnulla continent, male picta, quae ad ipsum librum non pertinent, disticha Arabica, et lineas aliquot, caractere Ta'liq scriptas, quibus superscriptum est: ترجمه المصنف لهذا الكتاب رحمه الله تعالى.

### LV.

(N. 12. in fol.; olim N. 18. in fol.)

*Corpus traditionum, el-Masâbîh* (المصابيح) i. e. Lucernae, plenus السنة dictum, auctore el-Baghawî, fol., foll. 382. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi docta manu eaque antiqua scriptum, aqua nonnihil laesum. Incipit praefatio fol. 1. v. ab his verbis: الحمد لله; وسلام على عباده الذين اصطفى, قال الشيخ --- السيد محيي السنة, ناصر الحديث شيخ الاسلام ظهير الدين ركن الاسلام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. Explicatur in حسان et حجاج in laudandis traditionum propheticarum scrip-

toribus, quorum priore significantur: أبو عبد  
 أبو الحسين et الله محمد بن اسمعيل الجعفي البخارى  
 أبو داود; مسلم بن الحجاج القشيري  
 أبو عيسى محمد بن سليمان الأشعث السجستاني  
 عيسى انترمذى, aliique, quorum nomina non re-  
 censentur. Ipsius operis liber primus incipit  
 fol. 2. r. lin. 7. Distinguuntur libri XXV., quo-  
 rum recensum hic habes:

1. كتاب الإيمان: fol. 2. r.
2. باب أعلم (ita prima manu scriptum erat,  
 sed superscriptum est secunda manu:  
 [كتاب في العلم]): fol. 13. r.
3. كتاب الطهارة: — 21. r.
4. الصلوة: — 32. r.
5. الجنائز: — 78. r.
6. الزكوة: — 89. r.
7. الصوم: — 101. v.
8. باب فضائل القرآن (sic): — 109. r.
9. كتاب الدعوات: — 115. v.
10. باب أسماء الله (sic): — 119. r.
11. كتاب المناسك: — 135. r.
12. البيوع: — 151. r.
13. النكاح: — 167. v.
14. القصاص: — 189. r.
15. الحدود: — 196. r.
16. الامارة والنقضاء: — 202. v.
17. باب الجهاد والسير (sic): — 209. r.
18. كتاب الصيد والذبايح: — 230. r.
19. الاطعمة: — 235. r.
20. الثياب: — 243. v.
21. باب الطب والترقي (sic): — 253. r.
22. كتاب الهروب: — 257. v.\*)
23. الاداب: — 260. r.
24. الفتن: — 296. v.
25. باب بدو الخلق (sic): — 331. v.

Finis notatur fol. 380. v. med., subscripta  
 voce تمت. — Auctoris nomen plenius exhibet

\*) In commentario, ab A. N. Matthews Anglice edito,  
 hic liber cum praecedente coniungitur, ita ut XXIV  
 tantum libri numerentur.

Hâg'i Chalfa, ed. Flüg. vol. I. p. 259. n. 524:  
 صحبى السنة الحسين بن مسعود انقراء البغوى  
 cf. ibid. p. 484. n. 1423. Mortuum esse ait idem a. h.  
 517. (Chr. 1122.) Cf. praeterea Möllerum in  
 Catal. Biblioth. Gothanae, n. 3. 4. Hujus operis  
 exempla inveniuntur in Biblioth. Reg. Paris. n.  
 353. Lugd. n. 617. Goth. n. 15. Senat. Lips.  
 n. 185. catalogi Fleischeriani (vol. primum  
 tantummodo); item cum commentario in Bibl.  
 Escur. n. 1506. — Commentarium, cui titulus  
*Mi'skât el-Massâbi'h*, Anglice versum edidit  
 A. N. Matthews, (II. Voll., Calc. 1809. 1810.  
 in fol. min.) eumque a. h. 737. absolutum esse  
 perhibet a "Shaikh Wali-ul-dîn Abû Abdullah  
 Mahmûd, son of Shaikh Abhari' Mu'hammed,  
 son of Abdi Ahadi Khatib." Ipsum Baghamed  
 perperam vocat: "Imâm Abû Mu'hammed al-  
 Husain Ibn Mas'ûd al-Ferrâ' of Baghdâd";  
 dicendum erat: *el-Ferrâ* (i. e. pello) *el-Ba-*  
*ghawi* (i. e. oriundus ex oppido بغ vel  
 بغشور في provincia Churâsân).

Adjiciuntur codici nostro fol. 381. v. 382.  
 r. annotationes nonnullae, vitam maxime viro-  
 rum quorundam clarorum inter Muhammedanos  
 spectantes. Sunt ex horum numero 'Alî bin  
 Abî Tâlib, Anas ibn Mâlik, Abû Hureira,  
 'Abd allâh bin 'Abbâs, 'Omar bin el-chattâb,  
 aliique.

## LVI.

(N. 13. in fol.; olim N. 42. in 8vo.)

*Ibn el-Meleki commentarius in corpus tra-*  
*ditionum esz-Szaghâni*, fol. min., foll. 311.  
 chartae orientalis laevigatae, char. Nests'liq  
 bene scriptus atque conservatus, sine titulo.  
 Praefatio incipit fol. 2. v. his verbis: الحمد لله  
 على هديّة النبوية والاسلام وعظمة الدرزية والاعلام,  
 et commentatoris nomen exhibet hoc modo:  
 وبعد يقول الضعيف العوز عبد اللطيف بن عبد العزيز  
 المعروف بابن الملك الحفوف بحيف افلاك غم الله له  
 مبارق ازهار, atque commentarii titulum: مبارق ازهار,  
 في شرح مشارق الانوار,

libri, quem explicare aggressus est: كتاب مشارق كتاب مشارق  
 ، الانوار في صحاح الاخبار ، pro quo in catalogo libro-  
 rum Ms. excerpto ex 'Hâg'i Chalfae lexico, Bi-  
 bliothecae nostrae n. 41. in fol., fol. 297. r.,  
 legitur: مشارق الانوار النبوية من صحاح الانوار المصطفوية .  
 Hujus libri auctor in ejus praefatione (codicis  
 nostri fol. 6. r.) nominatur: الحسين بن محمد بن  
 الصغاني ; additur, cognomen derivari a no-  
 mine oppidi صَعَان in provincia Mâ werâ en-  
 nahr. Apud 'Hâg'i Chalfam secundum epitomen  
 Hauniensem vocatur: الحسين بن محمد رضى الدين  
 ، الصغاني اللغوي ، neque minus in Casirii catal.  
 bibl. Escur., ubi liber ejus exstat sub n. 1686.,  
 vocatur الحسين ، et adjicitur, eum hunc librum  
 edidisse a. h. 661. (Chr. 1263.) — Incipit  
 commentarius in codice nostro fol. 3. r.; tex-  
 tus verba minio distinguuntur; adjectae sunt  
 haud raro notae marginales et interlineares.  
 Desinit codex fol. 311. r. In subscriptione  
 habes librarii nomen: حسين بن عمر عن قصبه  
 درويش المحتاج الى رحمة الوهاب --- في مدرسة قره كوز  
 ، بيك et scriptionis annum 1051. (Chr. 1641.)  
 — Inter commentarios in librum esz-Szaghâ-  
 nii ab 'Hâg'i Chalfa enumeratos est noster.  
 Aliud ejus exemplum asservatur in Biblioth.  
 Univ. Lipsiensis. Ejusdem scriptoris est codex  
 noster LXIV., ubi in praefatione vocatur: عبد  
 اللطيف بن عبد العزيز بن امين الدين ،

## LVII.

(N. 14. in fol.)

*Fragmenta libri de traditione prophetica,*  
 in fol., foll. 47. chartae orientalis laevigatae,

char. Neschi, magno quidem et distincto, sed  
 non pulchro, scripta, usu trita et aqua nonni-  
 hil laesa. Adsunt novem folia extrema quin-  
 ternionis 35ti; quinterniones 36tus, 37mus,  
 38vus integri et 40mi folia priora octo ex  
 opere aliquo copioso, cujus titulum et auctorem  
 eruere non contigit. E capitum inscriptionibus  
 adsunt haec: fol. 2. v. باب فضل صلاة التطوع 4. v.  
 باب الدعوات 8. r. باب انعام الصلاة والخشوع فيها  
 باب العمل بالسنة 15. v. باب الفرق 13. r. المستحبات  
 باب ما قيل كيف 20. v. باب الحزن في امر الآخرة 18. r.  
 باب علامات 27. r. باب التفكر 22. v. واصبح الرجل  
 باب احاديث ابى ذر الغفاري 37. r. والساعة 32. r.  
 باب الحكايات 41. v. باب الاجتهاد في الطاعة .

## LVIII.

(N. 19. in 8vo.)

*Fragmenta tria libri de doctrina traditio-  
 nali,* in 8vo, foll. 58. chartae orientalis lae-  
 vigatae, char. Neschi pulchro scripta. Frag-  
 mentum primum continetur foll. 1—8. atque  
 olim quaternio octavus libri alicujus majoris  
 fuit; secundum, foll. 9—17., ejusdem libri qua-  
 ternio decimus fuit cum primo folio undecimi;  
 tertium, foll. 18—58., ab ultimo folio quater-  
 nionis decimi tertii usque ad penultimum duo-  
 devicesimi pergit. Quae adsunt, omnia ad ritus  
 in precationibus observandos pertinent. Libri  
 nomen et auctorem ignoramus.

## CODICES DE DOCTRINA FIDEL.

## LIX.

(N. 18. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 3. in 8vo.)

*El-Ghazalîi Quadragenarius de principiis religionis*, in 4to, foll. 160. chartae laevigatae, partim char. Neschi, sed inde a fol. 60. v. char. Nesta'liq satis bene scriptus, bene conservatus. Est hic tractatus pars libri جواهر القرآن, et tertia quidem (القسم الثالث), uti praefatio codicis nostri (fol. 1. v.) docet; cf. praeterea Hâg'i Chalfa, ed. Flügel, vol. I. p. 243. vol. II. p. 646. Sed quae posteriore hoc loco de totius libri divisione traduntur, ea ad nostrum tantummodo tractatum pertinere videntur. Sic enim legimus in praefatione: **فَالله يَنْقَسِمُ جَمَلُهَا** مقاصدها إلى علوم وأعمال والأعمال تنقسم إلى ظاهرة وباطنة **وَالْبَاطِنَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى تَرْكِيْبِيَّةٍ وَتَحْلِيْمِيَّةٍ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ عِلْمٌ وَأَعْمَالٌ ظَاهِرَةٌ وَأَخْلَاقٌ مَدْمُومَةٌ تَجِيْبُ [تَجِيْبُ] التَّرْكِيْبِيَّةَ عِنْدَهَا** وإخلاق محمودة تجيب [تجيب] التحليلية فيها وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول وإسم هذا القسم كتاب الأربعين في أصول الدين cet., ex quibus verbis ea, quae affert Hâg'i Chalfa, ex parte corrigi poterunt. Respondent illis singulorum capitum tituli: fol. 2. r. lin. 1.: **القسم الأول في جمل العلوم**; fol. 14. r. lin. 3.: **القسم الثاني في الأعمال الظاهرة**; fol. 52. r. lin. 4. a fine: **القسم الثالث في تركيبة القلب عن الأخلاق**; **القسم الرابع في الأخلاق**; fol. 98. v. lin. 5: **القسم الخامس في المناظرة النفس**; **الخمودة**. Sequitur denique fol. 156. r. lin. 5. a fine: **خاتمة في مناظرة النفس**. Subscriptio legitur fol. 158. v. lin. 3. sqq., secundum quam scriptus est codex mense G'umâdâ priore a. h. 966. (Chr. 1559.) in urbe Sophia (في بلد صوفيا) (في). In inferiore ejusdem paginae parte, itemque foll. 159. 160. et fol. 1. r. varia continentur, Arabice et Turcice scripta, maximam partem e diversis libris excerpta et ad ipsum librum

non pertinentia. Praemisit libro notitiam uberiorem vir doctissimus *Adrianus Reeland*, qui codicem nostrum ex auctione Jac. Golii comparaverat. Cf. Index codd. Mss. ex biblioth. Relandi in calce libri de religione Mohammedanica, N. I. Aliud ejusdem libri exemplum Relandus indicat in Biblioth. Univ. Lugd. N. 346. (Catalogi impressi pag. 422.) Cf. J. H. Hottingeri Promptuarium s. Biblioth. orient. pag. 173.

## LX.

(N. 19. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 4. in 4to.)

Ignoti auctoris liber *de mirabilibus mundi invisibilis*, cui titulus: **مَعْدَنُ الْعُلُومِ وَمَرْسَلُ الْيَوْمِ**, i. e. *foedina doctrinarum et monile cogitationum*; in 4to, foll. 30. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Neschi, Turcica, ni fallimur, manu satis bene scriptus, bene conservatus. Praefationis initium fol. 1. v. hoc est: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ** بدليلته الصادق في قلب الملكوت على كثير الانعام وقليله, Sequuntur deinde lin. 6. sqq. haec de libri argumento et nomine: **مَجْمُوعٌ فِي عَجَائِبِ مَلَكُوتِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللَّهُ** وذكر أول مخلوقاته بما سمعنا في ساداتنا ورويناها موضوعا في الكتاب وسميته معدن (sic) العلوم ومرسل اليوم لما جمع من العلوم الآخرة وبأله التوفيق, Quae verba excipiunt relationes illae fabulosae, quae libri argumentum constituunt, de septem coelis, de tartaro, paradiso, cet., quarum initium hic habes: **وَرَوَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ مِنْ قَبْلِ الدَّرَةِ وَالْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثَمَانِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ كُلُّ مَدِينَةٍ مِنْهَا مِثْلُ الدُّنْيَا عَشْرَ مَرَّاتٍ** cet. Desinit codex fol. 30. r. Subscriptio haec est: **تَمَّتْ عَجَائِبُ الْمَلَكُوتِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى**,



## CODICES DE DOCTRINA OFFICIORUM, JURUM, MORUM.

## LXI.

(N. 15. in fol.; olim N. 42. in fol.)

Codex in fol., foll. 124. chartae orientalis laevigatae, usu tritus et aqua aliquantum laesus. Continet is: 1. fol. 2. v.—45 r. *Compendium officiorum, morum et jurum* secundum statuta Mälikitaram, institutioni puerorum destinatum, auctore *Abū Muḥammed 'Abd allāh bin Abī Zeid el-Qairawāni*, char. Maroccano bene scriptum. Mortuus est auctor a. h. 385. (Chr. 995.) Idem liber est, de quo uberius egit J. H. Hottingerus in *Promptuario s. Biblioth. orient. pag. 174—180*. Titulus is tradit hunc: كتاب الرسالة في المدخل الى علم جمل من واجب امور الديانة. Similis est titulus codicum Escorialensium N. 1241. et 1523., qui eundem librum sine dubio continent. Caputum indicem habes apud Hottingerum. In codicis nostri clausula notantur scriptiois annus et mensis, Rebi' prior a. 1129. (Chr. 1717.) Aliud exemplum possidet Bibliotheca nostra, N. 20. in 4to. Cf. praeterea Index codd. Mss. ex biblioth. Re-landi, n. V.; d'Herbelot, *Bibl. orient.*, s. v. *Matan alressalat*, quo nomine nostrum librum in-uit; A. Kraft, die *Handschriften der K. K. orient. Akad.*, pag. 173. sq.

2. Sequitur fol. 46. r.—89. r. *Commentarius in librum* من علوم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين i. e. *ducem paratum ad monstrandam viam ad ea, quae sunt necessaria e doctrina religionis*, char. Africano, non tamen eadem manu, qua praecedens liber, et minus bene scriptus.

Commentarii titulum praefatio exhibet: الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشود (المرشد) المعين، وعلى الضروري من علوم الدين، محمد بن احمد بن محمد الفاسي اصلا ودارا ومنشأ الشهير، عيارة. Auctor vero libri el-Murschid, ad quem commentarius pertinet, vocatur ابو: (sic) الحاج الابي محمد سيدى عبد الواحد بن اعثر الاتدلسوى فر الفاسي

الحمد . Praefationis initium hoc est: الحمد لله من شهد الامنة لما اختار لها من الايمان والاسلام .

3. Fol. 90. r.—99. v. *Commentarius in carmen iambicum* (الارجوزة) 'Abd allāhi bin Muḥammed el-Hebtī (عبد الله بن محمد الهبطي), char. Africano, sed tertia quadam manu non male scriptus. Commentarii auctor in praefatione (fol. 90. r.) vocatur: سيد ابو القسام بن . De argumento carminis illius praefatio haec tradit: وبعد فقد طلب منى بعض الاخوان ان اشرح لهم الارجوزة الذى (sic) الفيا التوي الصالح --- سيد عبد الله ابن محمد الهبطي رضى الله عنه في اقسام العدة واختكامها والخيص والرضاع فاردت ان افيد لهم بعض ما طلعت من كلام اهل العلم يكون لها كالشرح، انتهى في شهر عشق بعد المائة . v. : 99. fol. Mira est subscriptio, v. : 99. fol. . والف وعشرون وعشرين، . Indicare voluit, ni fallimur, librarius annum h. 1128. (Chr. 1716.), Christianum addens mensem Augustum.

4. Fol. 100. r.—109. v. *Commentarius in tractatum 'Aqide* (عقيدة) *Abū 'Abd allāhi Muḥammed bin Jūsuf es-Senāsī*, char. Africano et eadem manu scriptus, qua praecedens libellus. In praefatione sic loquitur commentarii auctor, cujus nomen latet: وبعد فقد سائنى بعض ائمتين --- ان اضع لهم شرحا مختصرا مقبدا وغيره من المبتدئين على فهم عقيدة الشيخ --- سيد ابوا (sic) عبد الله محمد بن يوسف السنوسى رحمه الله ، Intelligendus est, ut videtur, tractatus ille التوحيد quem recenset Fleischerus in catal. biblioth. Dresd. n. 216, 4. Casirius in Catal. bibl. Escur. n. 1554. ipsi es-Senāsio nostro commentarium in tractatum suum tribuit, cui titulus: عمدة اهل التوفيق في شرح عقيدة اهل التوحيد ، Cf. praeterea *ibid.* n. 633. 959, 7. 1009.

5. Foll. 110. v. — 118. r. *Commentarius brevior in carmen astrologicum Muḥammedis bin Sa'id bin Muḥammed bin Ja'hjā bin 'Hamd*

محمد بن سعيد بن محمد) (\**es-Sûst el-Merghati*) (بن يحيى بن حمد أنسوسى المرغتي ab ipso carminis auctore conscriptus, eademque manu exaratus, qua praecedentes commentarii 3. et 4. Auctoris nomen exhibet praefatiuncula, in qua de libri argumento leguntur haec: وبعد فقد تنقيد مختصر (sic) على نظما المسمى المقنع في اختصار علم أبي مرقع سائوسى --- بعد ما كنت قبل هذا وضعت عليه شرحا طويلا --- ومن اراد الطول الكثير فعليه بشرحنا الكبير المسمى الممتنع (leg. المتنع) في شرح المقنع وسميت هذا التنقيد بالظلع على مسأيل المقنع, Unde apparet, codicem Academiae I. R. Vindobonensis, quem descripsit Krafftius n. CCCXLV., prolixiorum illum commentarium continere, quem antea ediderat auctor, cujusque exemplum nostra quoque bibliotheca possidet, n. 36. in 4to. Ipsi carminis titulus videtur esse legendus:

المُقنع في علم أبي مرقع. In fine libri nostri, fol. 117. v. 118. r., hanc habes carminis clausulam:

قد انتبى المختصر المقصود، وربنا لا غيره الحمود،  
سميته المقنع في علم أبي، مرقع أبغى نفع أمة الندى،  
أبياته كحى وعامه شمر، مصليا على الرسول الهاشم،  
ش (شرح. i. e.) أعنى قد انتهى هذا المختصر بحمد الله  
الذى لا يحمد غيره على كل نعمة منها اتمام هذا المختصر  
الذى سميته بالمقنع أى يقع قارئه ويكفيه في علم النظم  
المنسوب للشيوخ أبى مرقع --- وأبيات هذا المختصر عددنا  
نقط كلمة كحى وهى تسعة وتسعون بيتا مائة إلا واحدا  
وكان نضمه (نظمه leg.) في عام شم وهو عام أربعين والف  
cet.

6. Claudunt codicem, fol. 118. v.—121. v., varia fragmenta, char. Africano male exarata nec eadem omnia manu, precatones, incantamenta et similia, quae singula recensere super-sedemus.

\*) Plenius hoc nomen tradit Krafftius (die Handschriften d. K. K. orient. Akad. n. CCCXLV.), simul bin *Ahmed* legens pro *bin Hamd*, et *el-Merghischi* pro *el-Merghati*, quod nos dedimus, hunc codicem nostrum secuti et codicem N. 36. in 4to, de quo postea agemus.

## LXII.

(N. 20. in 4to; olim N. 81. in 4to.)

Idem *compendium officiorum, morum et juris*, auctore *Abū Muḥammed 'Abd allāh bin Abi Zeid el-Qairawānī*, de quo diximus ad codicem praecedentem; in 4to, foll. 97. chartae Europaeae recentioris, char. Neschi distincto, sed non pulchro scriptum, punctis vocalibus instructum et bene conservatum. In dorso operculi Europaei impressum est: *Dogmat. Maleki*. Praemittitur codici folium unum, numero non signatum, cui nomen suum inscripsit *Jens Krag Host*, d. 9. Januar. 1791. In fine codicis, fol. 97. v., scriptio absoluta esse dicitur medio mense Rebi' prioris a. h. 1129. (Chr. 1717.) Sed juxta notatur annus hoc modo: 1125م.

## LXIII.

(N. 21. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 6, 2. in 4to.)

*Fragmentum libri de officiis, moribus et juribus*, auctore ignoto, in 4to, foll. 20. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Incipit fol. 1. r. in medio capite (شعبت) XVII., desinit fol. 20. v. in medio capite LII. Exempla inscriptionum singulorum capitum haec sunt: cap. 18.: نشر العلم الشرعى اى اختياره وتبليغه ; وعدم اخفايه ; cap. 19.: تعظيم القرآن الجيد ; cap. 20.: اداء الصلوات الخمس ; cap. 21.: انظاره ; cap. 22.: الصوم ; cap. 23.: ايتاء الزكوة ; cap. 24.: الاعتكاف ; cet.

## LXIV.

(N. 16. in fol.)

*Volumen primum commentarii in Ibn es-Sa'atū librum de institutionibus juris Muhammedani*, auctore *Ibn el-Melek*; in fol. min., foll. 203. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum, bene conservatum. Inter alia, quae diversi hujus codicis possessores primis foliis inscripsere, fol. 1. v. leguntur excerpta nonnulla ex opere historico (تاريخ), auctore

سيدي أحمد المقرئ. Fol. 5. v. 6. r. ipsi libro praemittitur index librorum et sectionum (فيروست الكتب والفصول). Duodeviginti sunt libri qui sequuntur: الصوم; والزكاة; والصلوة; وكتاب الطهارة; الحج; والاجارة; والاقرار; وأمازون; والحجر; والرهين; والبيوع; والحج; الصلح; والحوانة; والتكفالة; والوكالة; والمضاربة; والشركة; والشفعة. Sectiones sunt XCIII. Praefatio incipit fol. 8. v. his verbis: يا من لا حوط كمال كمانه نطاق وصف الغصحاء. Auctorem prodit ea 'Abd el-Latifum bin 'Abd el-'Aziz bin Emin ed-din, eundem, qui in codice nostro LVI. notus esse dicitur sub nomine Ibn el-Melek. Opus juridicum, in quod commentarium scripsit, vocat is: مجمع البحرين; quo nomine significatur, quod plenius dicitur apud Hâg'î Chalfam: مجمع البحرين وملتنقى; مطهر الدين أحمد بن فروع الحنفية; وعلى بن شعلب ابن الساعاتي الحنفية (Chr. 1295.) Recensetur etiam in catalogo librorum MS., ex 'Hâg'î Chalfae lexico excerpto, (MS. Biblioth. nostrae, fol. 278. v.) inter commentatores ejus libri noster عبد اللطيف ابن عبد العزيز بن ملك (sic). Idem liber videtur indicari in catal. libb. MSS. beati Silvestre de Sacy, n. 49., sub hoc titulo: Medjma' al-bahrain oua moltéqa 'n-neiraïn (النيرين), le confluent des deux mers et la rencontre des deux principes lumineux (le soleil et la lune); traité de jurisprudence, suivant la doctrine d'Abou Hhanifah, par 'Aly ben as-sâ'ât ach-châmy. — Ipse commentarius incipit in codice nostro sub finem fol. 8. v. et desinit fol. 203. r., ubi in subscriptione promittitur volumen secundum, quod incipere debebat a capite de donationibus (كتاب التبة).

## LXV.

(N. 20. in 8vo; olim N. 49. in 8vo.)

Compendium juris (المختصر), auctore Abû-l-'husein Ahmed bin Mu'hammed ibn 'Hamdan el-Qudûri, in 8vo, foll. 132. numeris signatorum chartae orientalis laevigatae, char. Nestaliq bene scriptum, satis bene conservatum.

Praemittuntur folia tria non signata, quorum primo, initio paginae primae, inscriptum est: كتاب القدورى. Annotata sunt praeterea in hoc folio varia, quae ad ipsum librum non pertinent, de mensuris, numis et ponderibus, de piaculorum generibus, et alia. In margine sinistro primae paginae adscriptum est: القدورى المنسوب الى قدورة اسم محلته ببغداد cet., quod non concordat cum iis, quae legimus apud Ibn Chalikânûm, edit. de Slanc, pag. 30., apud Sujûtium in libro Lubb el-lubâb, edit. Veth., p. 204., et Abu-'lfedam, vol. III., p. 92. — Sequentia duo folia continent indicem (فيروست) singulorum librorum compendii Qudûriani. Numerantur quidem libri tantum CXVI., sed cum repetatur librarii errore numerus XCVIII., vere efficiuntur libri CXVII. In codicibus bibl. senat. Lips. apud Fleischerum N. CC. et CCI. numerantur libri LXX. et LXII., in codicibus Dresdensibus apud Fleischerum N. 27. LXIII., et N. 126. et 161. LXVII. libri, quod ita efficitur, ut, qui hic libri sunt, alibi capita habeantur.

Incipit codex ab ipso libro primo, fol. 1. v., iisdem verbis, quae notavit Fleischerus (in catal. Lips. n. CC.); ultimus liber, incipiens fol. 129. v., hic quoque, ut in cod. Dresd. n. 161., est de testamentis (كتاب الوصية). Desinit codex fol. 132. v., in media pagina atque linea, in haec verba: وهما زوج. Pauca deesse videntur. Notae marginales et interlineares adscriptae sunt haud paucae. Accedunt in fine codicis folia non signata undecim, quorum ultimo verba nonnulla inscripta sunt. Partem hujus libri e codd. Dresdensibus n. 27. et 126. edidit b. Rosenmüllerus in Analectorum Arabicorum parte I., sub hoc titulo: Institutiones juris Mohammedani circa bellum contra eos, qui ab Is-lamo sunt alieni. Lips., 1825. 4to.

## LXVI.

(N. 22. in 4to; olim N. 11. in 8vo.)

Liber G'ewâhir el-fiqh (جواهر الفقه) i. e. Gemmae jurisprudentiae, auctore Tahîr bin

*Islām bin Qāsim el-Anszārī el-Chuwārezmī*, 4to, foll. 113. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi Turcica, ut videtur, manu bene scriptus, bene conservatus. Praecedunt folia duo, numeris non signata, in quorum priore praeter alia nonnulla, a possessoribus libri annotata, legitur titulus: جواهر فقه, quem simili modo repetit fol. 1. r. Incipit praefatio \*) fol. 1. v. his verbis: *الحمد لله الذي هدينا لمعرفة واكرمنا بتقواه وطاعته*, quae cum iis non concordant, quae tradit Hāg'i Chalfa, ed. Flüg. vol. II. p. 645. sq. E praefatione deprompsimus auctoris nomen, quod dedimus; sed recedunt paululum a scriptione nostra codex Gothanus n. 229., qui exhibet طاهر pro طاهر, et Parisinus n. 417., qui habet *بن اسلام* pro *بن سلام*. Ipse liber in praefatione vocatur: *كتاب الجواهر*, ut apud Herbelotium et in cod. Parisino; sed in fine cod. Gothani et apud Hāg'i Chalfam plenius legitur: *كتاب جواهر الفقه*. Enumerantur in praefatione libri, quibus maxime usus est auctor in conscribendo suo opere, et indicatur in decem capita divisio, quorum tituli iis accurate respondent, quos recenset Fleischerus in catal. biblioth. Senat. Lips. pag. 483. In clausula libri, fol. 112. v. 113. r., indicantur mensis annusque, quo auctor finem operae imposuit, mensis Ramadhān a. h. 771. (i. e. Chr. 1370.); quocum consentiunt Hāg'i Chalfa et Herbelotius s. v. Khouarezmi; sed idem s. v. Giavaher hoc anno mortuum esse libri auctorem perhibet.

## LXVII.

(N. 23. in 4to; olim N. 72. in 4to.)

*Poëma iambicum de quaestionibus iuridicis controversis*, auctore *Nejm ed-din Abu 'Hafs 'Omar bin Mu'hammed en-Nesefi*, in 4to, foll. 142. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi non pulchre quidem, sed distincte scriptum; codex temporis injuria nonnihil laesus,

\*) Sedecim fere primae praefationis lineae desunt in exemplo biblioth. Senat. Lips.

ab initio mutilus. Deesse videtur introductioni tantum pars aliqua. Sequuntur enim capita decem integra, quem numerum in codice Dresdensi n. 130. animadvertit Fleischerus. Caputum tituli in codice nostro hi sunt:

باب انذى اختص ابو حنيفه . Cap. I. fol. 11. r.: *به من المسائل الشريفة* . باب : انذى اختص به يعقوب وهو لطيف حسن معروف . Cap. II. fol. 25. v.: *باب فتاوى العاظم الرباني محمد بن الحسن الشيباني* . Cap. III. fol. 39. r.: *باب فتاوى : المشيخ مما الثاني يأتى ولا نص عن الشيباني* . Cap. IV. fol. 49. v.: *باب فتاوى الشيباني* . Cap. V. fol. 52. r.: *باب مقالات الامام الثاني : على خلاف مذهب الشيباني* . Cap. VI. fol. 65. r.: *باب فتاوى : الواحد بمذهب وانباب ذو فوايد* . Cap. VII. fol. 79. v.: *باب الجوابات النني قل زفر مخالفاً* . Cap. VIII. fol. 90. v.: *باب فتاوى : الشافعي وحده وما به قل وقتلنا صده* . Cap. IX. fol. 108. v.: *باب فتاوى مالك ابن انس وفيه يسر الحفظ* . Cap. X. fol. 132. r.: *— Magna pars codicis notis marginalibus et interlinearibus instructa est.*

In fine, fol. 142. r. et v., leguntur haec, quae nomen libri continent et auctoris, cum temporis indicatione et versuum computatione: *قد انتهى نظم الاخلاقيات ، والحمد لله على الحالات ، تمر الصلوة وانسلم ابدا ، على النبي النياشمى سرمد ، وصاحب انظم ابو حفص عمر ، من نسف تمر هذا في صفر ، للخصف يوم السبت وقت التغديت ، في سنة الاربع والشمسمائة ، وجملة الابيات يا صدر انغية ، الفان والستون والستماية ، وسنة والله يجزي ذلسم ، جنات عدن وقصورا نعمة .*

Idem versuum numerus 2666, qui legitur apud Fleischerum in catal. bibl. Dresd. l. 1. Adjicitur denique scriptio annus 731. (Chr. 1331.) et librarii nomen: *محمد بن احمد* . Exempla hujus libri inveniuntur in Bibl. Reg. Paris. n. 1434. et 1436.; item in Bibl. Gothana, n. 187., unde titulum duplicem exhibet Möllerus: *كتاب المنظومة في الخلافات*

، وانعيون، et: كتاب الأخلاقيات نظم في العيون، De ipso scriptore vid. Herbelotium et de-Rossium, s. v. Nassafi.

## LXVIII. LXIX.

(N. 24. 25. in 4to; olim N. 24. 25. in 4to.)

*De virtutibus et vitiis commentarius*, auctore *Muhammed bin Ibrahim bin Ja'kja bin 'Alī el-Kutbi*, volumina duo in 4to, foll. 151. et 150., char. Neschi scripta et bene conservata, quae integrum quidem opus exhibent, sed neque ab eodem librario neque eodem tempore scripta sunt. Volumen prius paulo minoris formae, quam posterius, et antiquiore et doctiore manu exaratum est. Utrumque suum habet operculum, cui inscriptum est: هذا الجزء الأول (الثاني) من كتاب العبر والغبر في علم الاخلاق لابن الكتبي. In vol. I. fol. 1. r. libri titulus, auro et variis coloribus distinctus, plenius ita legitur: الأول من غرر الحصاصين (الحصايص) (leg. النواحي) وعمر محمد الك. Sed auctoris nomen paene deletum est; distinguitur tamen adhuc: محمد الك. Infra hanc inscriptionem scriptum est: برسم الجنب العال القصابي البدرى الدميرى ناظر ديوان البيمارستان المنصوري امير الله ظلالة، Praefatio incipit fol. 1. v. his verbis: الحمد لله الذي جعل اللسان عنوان الانسان. Libri titulum ea repetit

et divisionem indicat in XVI. capita, quorum unumquodque complectitur tres sectiones (فصول). Capitulum indices hi sunt: 1. في الكرم 2. في اللوم 3. في العي. 6. في الفصاحة 5. في الحمق 4. في العقل 7. في البخل 10. في الشفاء 9. في التغفل 8. في الذكاء 11. في العفو 13. في الجبن 12. في الشجاعة 14. في العزلة 16. في الصداقة 15. في الانتقام. In fine voluminis, fol. 150. v., legitur clausula, ut fieri solet, sed sine indicatione temporis.

Voluminis secundi fol. 1. r. titulum libri offert truncatum, ut in operculo, et auctoris nomen: محمد الكتبي. Fol. 1. v. incipit caput IX. Sed capitulum indices in hoc volumine non semper iidem, quos dedimus e praefatione. Inde a fol. 103. alia manu exaratus est liber, non quidem pulchriore, sed magis distincta. Clauditur totum opus fol. 149. r.

Auctoris nomen in catalogo librorum ex *Hag'i Chalfa* excerpto, quem bibliotheca nostra possidet, sic scribitur: محمد بن ابراهيم بن البجر. ابن يحيى الكتبي; sed corrigendum est: الكتبي. Herbelotius, s. v. Gorar al-Khassais, addit praenomen *Abū 'Abdallāh* et cognomen *el-Watwāt* (الوطواط); Möllerus in catal. bibl. Goth. n. 126. nomen honorificum *G'emāl ed-dīn*. Cf. praeterea Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 434, 1. et 886.

## CODICES DE ARTE HOMILETICA ET LIBRI PARAENETICI.

### LXX.

(N. 17. in fol.; olim N. 9. in fol.)

Codex in fol., foll. 230. chartae orientalis firmac laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Continet is:

1. *Librum de arte homiletica*, cui titulus (fol. 3. r.): كتاب المدحش i. c. (orator) animos percellens, auctore *G'emāl ed-dīn Abū'l-ferej 'Abd er-ra'hmán bin 'Alī bin Muhammed bin*

*el-G'auzi el-Hanbeli*. Huic titulo in margine adjecta est inscriptio, utrumque librum, quem continet codex, respiciens: (sic) كتاب مدحش في الخاصرات والواعظ وكتاب من تجل (sic). Fol. 3. v. praefatio incipit his verbis, quae auctoris nomen proxime sequuntur: الحمد لله الذي لا منتهى لعظاياه، اما بعد فاني قدمت بحمد الله في علم الواعظ باخيه واحبيه واترت (واترت leg. ان انتفى) في هذا cet. Adjectur divisio in quinque capita, quae sunt: 1. fol. 3. v. ، علوم القران،

2. fol. 9. r.: في تصريف اللغة، 3. fol. 13. v.: في عبون التواريخ، 4. fol. 18. r.: في علوم الاحاديث، 5. fol. 22. r.: في ذكر المواعظ. Sed ultimum hoc caput divisum est in duas sectiones (قسمين)، quarum priori, viginti sex فصول comprehendenti, inscriptum est: قسم يذكر فيه القصص؛ posteriori, centum فصول tenenti: قسم فيه المواعظ منمقلًا؛ et haec quidem sectio longe majorem totius libri partem occupat, inde a fol. 38. v. usque ad fol. 177. v., ubi in media pagina abruptitur oratio. Differt haec libri divisio ab illa, quam offert Catal. Biblioth. Lugd. n. 435., ubi XXXV. capitum fit mentio. — Sequitur:

II. *Liber de arte homiletica*, cui titulus (fol. 179. r.): كتاب المرحل i. e. (orator) ex tempore dicens, auctore eodem *Abu-'lferg' ibn el-G'auzi*. Fol. 179. v. paucis verbis auctor libro suo praefatur. Praefationis initium hoc est: الحمد لله القادر القاهر الباطن الظاهر، De libri origine haec tradit: رأيت شابًا

لما حبست بواسطة رأيت شابًا حسن السميت يصلح ان يكون واعضا فشكى الى تحليط حسن المواعظ فاملبت هذا الكتاب من خاطري مرتجلا، Dividitur hic liber in decem lectiones (مجالس)، in quarum fine legitur, fol. 215. r.: آخر كتاب المرحل والحمد لله وحده.

ومما فرغت من املا طلب الذي امليت عليه ان املى عليه مجلسا في ذكر شعراء فاملبت هذه مجلسا في ذكر رجب ومجلسا في ذكر رمضان ومجلسا في ذكر العشر من ذي الحجة والعيد واضفت الى ذلك المرحل واله الحمد، اجلس

والحمد لله وحده، et sic sequuntur quattuor lectiones, undecima, duodecima, decima tertia et decima quarta, usque ad fol. 228. r., ubi desinit codex, ad finem non perductus. — De utriusque libri auctore vid. Ibn Challikani vitas virorum illustrium, edit. de Slane vol I. pag. 391. sq., ubi natus esse dicitur G'emäl ed-dinus noster circa annum 508. vel 510., mortuus Baghdadi, m. Ramadhano a. h. 597. (Chr. 1201.), quocum consentiunt Abulfeda, ed. Adleri, vol. IV. p. 194. et Häg'i Chalfa, vol. I. n. 492. et

1336. Vide etiam Herbelotium, s. v. Aboulfarage Ben Ali Ben Al-Giouzi; Möllerum in Catal. Bibl. Goth. n. 6.; Hamakeri specimen catal. bibl. Lugd. p. 246. et Casirii catal. bibl. Escur. n. 539. 714. 733. 762. 1269. Cave confundas nostrum cum nepote ejus, cui nomen erat: شمس الدين ابو المظفر يوسف بن قره على سبط اuctore clarissimi libri *Mir'at ez-zemân*, de quo vid. Abulfedam, vol. IV. p. 350. et 566.; Freytag, selecta ex hist. Halebi, pag. LII.; Reinaud, extraits des hist. Ar., pag. XXIII. Idem intelligendus est apud de-Rossium in dizion. stor. degli autori Arabi, pag. 86., s. v. Giuzi (Ebn) Sebt Abulfaragio figlio d'Ali (i. e. Schems ed-din Jüsuf sibt Abû-'lfereg' bin 'Ali ibn el-G'auzi). Apud Möllerum n. 239. Müsa legitur pro Jüsuf. Avo tribuit, quae sunt nepotis scripta, Herbelotius s. v. Giouzi, et hunc, nomen ejus corrumpens, filium G'emäl-ed-dini facit pro nepote.

## LXXI.

(N. 26. in 4to; olim N. 14. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 328. chartae Europaeae, char. Neschi distincte quidem, sed non pulchre scriptus, bene conservatus. Fol. 2. r. inscripta sunt haec: شيخ ميران ابن شيخ مخدوم لقب فارسي "Schäich Mirä" filius Schäich Machdüm, alias dictus Färsi-mullä, i. e. *Eques* (seu etiam *Persa*) doctus, Trangambariae per aliquot annos Societati Indicae interpretis Persici operam nauans, anno 1728. duo haec manuscripta Arabica descripsit pro quatuordecim Thaleris. "C. T. Walther." Et fol. 3. r.: "I. Manuscriptum dictum *Illuminans corda*, cuius autographum puncta vocalia non agnoscit, librarius autem rogatus in quibusdam locis pro arbitrio ea addidit. II. *Liber concionum* sexaginta quatuor, quas singulis feriis sextis nec non diebus festis in oratoriis suis recitant, quomobrem, ne in vocula quadam errent,

"vocalia accuratissime apposita sunt." Continuentur enim hoc volumine:

I. Fol. 4. r.—203. v. Liber القلوب i. e. *illuminans corda*, auctore ignoto. Inscriptio praemittitur, fol. 4. r., quae satis probat, librarium puncta vocalia adjecisse pro arbitrio, grammaticae scilicet leges parum curantem. Fol. 4. v. incipit praefatio his verbis: الحمد لله المتفضل بما لا تحصىه اعدادنا من النعماء، Docet auctor, rogatum se, ut componeret librum من الواعظات والنواجر والحكايات والنافعات والبشريات والتذيرات وكل ما فيه زجر للقلوب القاسية من الذنوب فجمعتهما (التصنيف) من كتب الاعمال الصالحة والخيرات من امور الدين، مشتملة cet.; nomen libro se dedisse: القلوب اى دواء لمرض القلوب من الذنوب، Dividitur is in XLI. capita, من الذنوب، على الاعمال الصالحة والخيرات من امور الدين، Incipit caput primum (في الايمان) fol. 5. v.; clauditur ultimum (في لقاء الله تعالى) fol. 203. v. Adjiciuntur scriptiois annus mensisque *Al 'Iqa'de a. h. 1140. (Chr. 1728.)*

II. Fol. 204. r.—328. r. *Conciones Ibn Nubbatae*. Inscriptionem praemisit librarius fol. 204. r.: هذا الكتاب الخطبة من تصنيف امام الهمام شمس العلماء والعلوم ابن نباتا (sic) صاحب رحمة الله هذا كتاب الخطبة من تصنيف الامام الهمام العارف العلامة ابي يحيى وعبد (sic) الرحمن بن اسمعيل نباتة المصرى رضى الله عنهم. (sic) ونفعنا بعلومه آمين نقل من طبقات الاستوى رضى الله عنه، Sed verum auctoris nomen est: *Abū Ja'hjā 'Abd er-Ra'hīm bin*

*Mu'hammed bin Isma'il Ibn Nubbāta*; cf. Kraft, die Handschriften der K. K. Akad. zu Wien, n. CDLXXIV. et 'Hāg'i Chalfam, vol. III. pag. 158. sq. Fol. 204. v. incipit prima oratio, quae est primi diei Veneris mensis Mu'harrem. Tertio mensis 'Sa'bāni (fol. 268. v.—270. v.) illa est, quam publici juris fecit Ill. Mac Guckin de Slane in Journ. Asiatique, 3<sup>e</sup> série, vol. IX. pag. 66. ss. Post orationem quintam mensis *Al Thig'g'e* sequitur fol. 317. v.: (sic) الخطبة الاستسقاء، ad cuius finem legitur, fol. 319. r.: تمت كناية الخطب يوم الأحد تسع من شهر الصفر سنة ٤٠٢. (sic) من بعد الهجرة النبوية، Sed adduntur deinde: الخطبة لعيد الأضحى (fol. 319. v.) et alia oratio, cui inscribitur: الخطبة الأخرى هذا يقرو في العيد، Clauditur liber fol. 326. v. verbis: تمت تمام شد، subjuncta precatōne (fol. 327. r.—328. r.), in qua leguntur haec: اللهم آيد دولت الملك الأعظم والخاقان المكرم السلطان ابن السلطان ابن السلطان ابن خاقان ابن خاقان السلطان تيمور (sic) بادشاه غازى السلطان بايز بادشاه غازى السلطان حمايون اكبر -- جيهانكير -- شاه جيهان -- الراجى شفاعت نبيك الحجازى ابو المظفر محمى الدين محمد شاه اورنگ زينب عاز كبير بادشاه غازى السلطان شاه عاز -- محمد معظم الدين -- محمد فرخ سير -- محمد رفيع القدر -- شهاب الدين دور بخش محمود بادشاه غازى خلد الله ملكه وسلطانه cet. وافاض على العالمين برة واحسانه،

## CODICES DE THEOLOGIA MYSTICA.

### LXXII.

(N. 27. in 4to; olim N. 27. a. in 4to.)

*Commentarius in carmen Mu'hammedis el-Alemī* (محمد العلمى)، cui titulus: النصيحة الرضية (كتاب النصيحة الرضية) فى شرح تأيية الشيخ الامام العارف العلامة مرقى المرينى والمنهج الى مسلك السالكين الشيخ محمد العلمى

fol. 52. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Titulus alia manu, atque ipsius codicis, adjunctus est fol. 1. r.: كتاب النصيحة الرضية الى الطريقة

، قدس الله سره العزيز ، quibus verbis subjunguntur haec, quae ad alios libros spectant, eodem lumine olim comprehensos: وبليه ترغيب أهل اسلام ، كتاب تصوف لابن عطا في سكنى الشام لابن عبد السلام ، كتاب تصوف لابن عطا ابنه اسكندرى هو التنوير ، ترجمه في الكلام على ذكر الله سبحانه وتعالى ، فتح البصائر لعبد القادر ، ايضاً نبذه للشيوخ ، عبد القادر الكيلاني ، quae omnia habes in bibliotheca nostra. Sed constat ex praefatione libri nostri (fol. 1. v. 2. r.), non commentarium, sed ipsum carmen Tâicum (تائية) illo titulo, quem dedimus, inscribi, commentarium postea addidisse auctorem. Praefationis initium: الحمد الحمد لله الهادي الى صراطه المستقيم ، Ipsi carminis initium (fol. 2. r.) hoc est: الحمد لله بدى في مقالتي ، واستغفر الله من جرمي وزلاتي ، Clauditur liber fol. 52. v.

### LXXIII.

(N. 28. in 4to; olim n. 27. c. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 27. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene

conservatus. Titulus legitur fol. 1. r.: كتاب التنوير في اسقاط التند\* للشيخ - - ابى العباس احمد ابن عطا الله الاسكندرى cet. Fol. 1. v. post Besmelam auctoris nomen repetitur, addito titulo honorifico تاج الدين. De hoc libro ejusque auctore vide Hâgî Chalfam, vol. II. pag. 456.; Herbelotium s. v. Tanour escath altadbr et s. v. Atha allah, ubi vero pro A'hmed bin Mu'hammed perperam scribitur Mu'hammed bin A'hmed et adjicitur cognomen e's-Sâdili. Idem fortasse liber est tractatus ille, de quo Casirius agit n. 782; alia ejusdem auctoris opera vid. in Catal. Bibl. Paris. n. 419. Bibl. Bodl. n. 120, 3. — In fine codicis, fol. 27. r., notatur librarii nomen: مصطفى بن ابراهيم بن خالد ، والمدمشقى الشافعى الرفاعى Szafer a. h. 1025. (Chr. 1616.)

\*) In margine additum manu b. Rasmussen: التندبير.

## CODEX DE DOCTRINA DRUZORUM.

### LXXIV.

(N. 21. in 8vo.)

*Catechismus doctrinae Druzorum*, in 8vo, foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi recentiore tempore distincte scriptus, bene conservatus. Incipit liber fol. 1. v., explicit fol. 15. v. Quaestiones numerantur 104.

Est idem liber, quem e cod. Göttingensi edidit Jo. God. Eichhorn in Repert. für bibl. und morgenl. Litt. Tom. XII. pag. 155—197. Numerantur quidem apud Eichhornium quaestiones tantum 103., sed in cod. nostro quaestio trigesima prima Eichhornii censetur continere quaestiones duas. Codex a C. Niebuhr ex oriente allatus.



## CODICES BIBLIORUM VERSIONES CONTINENTES.

## LXXV.

(N. 18. in fol.; olim N. 32. in 4to.)

*Pentateuchi versio Arabica*, fol., foll. 289. chartae orientalis crassae vetustae, char. Neschi vetusta manu bene scripta, omissis tamen saepe punctis diacriticis, bene conservata; folia tantum 2. v. et 288. r. recentiore manu, sed docta, suppleta sunt. Fol. 1. r. inscriptum est: *Le pantateuque de moysé en Arabe*. Ipse liber incipit fol. 2. v.: بسم الله الحى القديم الازلى . نبتدى بعون الله تعالى بكتب السفر الاول من التوراة فى الموعظه . فى البدى خلق الله السموات والارض Variarum libri sectionum initia rubro colore notari solent, et vario quidem modo. Exempla haec sunt e libro Genesis: cap. 2, 4.: هذا تكوين السماء والارض حين كونه سدر (i. e. סדר) ثابى من الفراض (i. e. פראש) الاول . Cap. 6, 9. in initio Paraschae secundae: الاصلاح الثانى . Ibid. v. 14.: قصة الطوفان . Loco primi versus capituli X. legitur tantummodo inscriptio: نسبه بنى نوح . Cap. 11, 10.: اصلاح عشر من السفر الاول . Cap. 12, 1.: فراشه ثالثه من السفر الاول . Post cap. XIV. notatur: سلا . Ante cap. 18.: فراشه رابعه من سلا واصلاح حادى . Ibid. post v. 15.: السفر الاول . cet. Finitur codex fol. 288. r. — Adjecta est codici notitia, manu b. Jo. Chr. Kallii, professoris quondam Hauniensis, Danice scripta. Animadvertit is, hanc versionem differre omnino ab illis, quas legimus in Bibliis polyglottis Parisiensibus et Anglicanis, in editione Erpenii et Congregationis de propaganda fide; stilum et vertendi modum non eundem esse per totum librum, ideoque fortasse censendum, non ab uno homine eam esse confectam; orthographiae leges interdum violari. Addit eam Judaicae videri originis, cum lectiones sabbathicae saepius notentur et minores etiam sectiones spatiis vacuis indicentur; e diversis tamen locis se colligere, versionem e Graeco vel

Syriaco exemplari esse factam. Aetatem codicis quadringentos fortasse annos attingere\*). — Sed haec omnia accuratior disquisitione indigent; textus tamen Hebraici verba non anxie reddi ab interprete, linguae Arabicae, ut videtur, bene gnaro, certum est.

## LXXVI.

(N. 19. in fol.; olim Nr. 38. in fol.)

*Fragmenta duo versionis Arabicae Veteris Testamenti*, in fol., foll. 20. chartae orientalis firmatae antiquae, char. Neschi vetusta manu bene scripta. Praemittitur folium unum, numero non signatum, cui inscriptum est manu b. Moldenhaweri: "Liber Jobi et Judic. 5. e codice A. 49. S. G. clfr Num. 9." Continet autem hoc volumen: I. Fol. 1. et 2. versionem libri Judicum, a voce מוצארים c. 6, 8. usque ad vocem היירדה c. 8, 4. II. Fol. 3. et 4. r. versionem secundi libri chronicorum a voce הוצה c. 35, 12. usque ad finem libri, cui subjungitur fol. 4. v. subscriptio haec: تمروكامل الجزء التانى (الثانى) من دم نامين (دبرى اليمىم (i. e. من سفر الملوك وهو الرابع جزو من كتاب اسفار الملوك وله الحمد cet. Sequitur: III. fol. 4. v.—20. v. versio libri Jobi ab initio usque ad finem versus 29. capituli 40. Initium hujus libri hoc est: نبتدى بمعونه الروح القدس نكتب سفر نيموه ايوب ابن زار النبى المغبوط وبلوايه وصبره وايامه بالله ربه وحسن عزاه وكثرة شكره فيما جلبه عليه الشيطان من الاوجاع وهو واقف برحمته ربه وكانت بلاد اليبتيه , وكان يقال لمدينته cet. Quae quidem verba Christianum produnt scriptorem, linguae Arabicae mediocriter gnarum, qui versionem suam ad exemplar Graecum videtur liberius expressisse.

\*) Vixit Kallius medio saeculo XVIII.

## LXXVII.

(N. 22. in 8vo; olim N. 45. in 8vo.)

*Versio Arabica libri Psalmorum*, in 12o, foll. 156. chartae Europaeae, ut videtur, laevigatae, char. Neschi perbene scripta, optimae conditionis. Praemittuntur folia quattuor, numeris non signata, quorum ultimo suum nomen inscripsit Frid. Rostgaard, addens manu praeceptoris sui Jacobi Damasceni hoc Psalterium ex Syriaca versione translatum Parisiis describi se curavisse, a 1697. Titulum fecit Jacobus ille, fol. 1. r., hoc modo: كتاب مزامير داود النبي والملك، عليه افضل السلام. Ipse liber incipit fol. 1. v. Initio psalmi LXXVII. (fol. 66. v.) adscriptum est: نصف المزامير. Post psalmum CL. (fol. 127. r.) legitur: وهذا الترمور خارج عن العدد قاله داود: وهذا الترمور خارج عن العدد قاله داود، ولما بارز جليات الجبار وقتله، et sequitur psalmus ille, qui legitur in editionibus versionis Alexandrinae, incipiens: صغيراً كنت في اخوتي، Desinit is fol. 127. v. — Fol. 128. nihil inscriptum est, sed fol. 129. r.—140. v. sequuntur: العشرة تسابيح، *decem cantica*, quorum primo praemittuntur haec verba: التمسبحه الاول لموسى النبي وفي من كتاب تثنية الاشتراح. Sed hoc non verum; sequitur enim canticum Mosis Exod. 15. 1—19., quod deinde excipiunt: 2. Deut.

32, 1—43. 3. 1 Sam. 2, 1—10. 4. Hab. 3, 2—19. 5. Jes. 26, 9—20. 6. Jon. 2, 3—10. 7. Dan. 3, 52—57. secundum versionem Alexandrinam. 8. Dan. 3, 58—90. secundum eandem versionem. 9. Luc. 1. 46—54. 10. Luc. 1, 68—79. — Sequuntur denique fol. 141. r.—156. v. والعشرون كاتسما، *viginti cathismata*. Singulis precibus inscribitur: دكسا كاتسما اوى، et sic porro. In fine codicis notatur scriptio- nis tempus (mensis Kânûn posterior a Chr. 1698.) et locus cum librarii nomine، سليمان برسم خزانه، بن يعقوب سامي، انسىد --- فريدريكوس روستغارد،

## LXXVIII.

(N. 23. in 8vo; olim N. 41. in 8vo.)

*Fragmentum versionis Psalmorum Arabicae*, in 12o, foll. 15. chartae orientalis crassae laevigatae, char. Neschi distincte scriptum. Continentur hoc volumine psalmi I—XV. integri, et decimus sextus usque ad medium versus undecimus. Psalmi IX. et X. juncti sunt, ita ut decimus sextus respondeat decimo septimo in codice Hebraico. Fol. 8. v. in superiore margine inscriptum est nomen Th. Bartholini.

## CODICES THEOLOGICI CHRISTIANI.

## LXXIX.

(N. 29. in 4to; olim N. 47. in 8vo.)

*Pharetra Christiana Catholica*, liber theologicus, in 4to, paginarum 264. chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, satis bene conservatus. Pagina prima, Arabice scripta, ad eum librum, quem indicavimus,

nihil attinet, sed finem continere videtur alius cujusdam libri vel tractatus, cui juncta erant, quae sequuntur. Notatur in summo margine dextro: (sic) تفسير على الشوراة، et laudantur Latina oratione in utroque margine loci scripturae e 2 Cor. 8. et alius e Chris. (i. e. Chrysostomi) hom. 4. in Matth. — Pag. 2. legitur inscriptio libri insequentis:

## السلام

بسم الأب والأبن وروح القدس

نبتدى بعون الله --- الكتاب يتسمى الجعبة المسيحية القاتوليقيه التي يوجد\*) فيينا ثلثة انواع السهام المقدسه الدين (sic) عمر شهادات من الكتب\*\*) المقدسه واقوال القديسين وتفاسير عمر على الكتب\*\*\*) المقدسه وامثال وحكايات مستخرجه\*\*\*\*) من بعض المورخين المعروفين بسيرتهم الصالحه والمشهورين بعلمهم الثابت.

Haec omnia pigmento rubro scripta sunt. Sequitur deinde praefatio libri (pag. 2—7.), cui adjecta in margine exteriori versio Latina, caractere minuto et eleganti a Francogallo quodam, ut videtur, scripta. Sed eadem, ni fallimur, manus Arabicum quoque textum exaravit. Majori tantum paginae 7. parti versio addita non est. In margine praefationis exteriori leguntur annotationes Arabicae, loca scripturae sacrae et patrum ecclesiae laudantes. Ipse liber incipit pag. 8. Primi capitis titulus hic est: الفصل الاول ان البارى هو واحد في ذاته: (ذاته 1.) وغير منتها في كماله. Textus Arabicus versione Latina etiam hic stipatus est, sed haud rarae sunt lacunae quum in illo, tum in hac obviae, maxime versus finem codicis; ita paginae 196. et 223. nihil habent scripti, et pagg. 215. 224—238. versionem tantum exhibent. In pagg. 169. 170. Arabica alia manu minus docta scripta sunt et verbis nonnullis Copticis mixta. Recensetur ibi ecclesiarum Aegypti pars quaedam. Annotationes Arabicae breviores hic illic in margine adjectae sunt, et explicationes Latino sermone scriptae nonnunquam textum Arabicum interrumpunt. Pag. 174. versioni, quae sola ibi legitur, ad marginem adjiciuntur Graeca quaedam e Theophylacti commentario ad 1 Cor. 11. Ultima, quae ad hunc librum pertinent, paginae sunt 239. 240., Arabica tantum continentes.

\*) Ita secunda manu scriptum; legebatur antea: توجد.

\*\*) Articulus secunda manu additus.

\*\*\*) Articulus a secunda manu.

\*\*\*\*) Antea erat: المستخرجه.

Sequitur deinde pag. 241—252. *Calendarium Copticum*, cum Sanctorum nominibus, duabus in unaquaque pagina columnis eademque manu, ut videtur, qua praecedens liber, Arabice scriptum. Inscribitur ei, pag. 241.: نبتدى بعون الله تعالى الاستكسار انقبضى. *Supra* paginam annotatum est: „qd ibi Caractere nigro „scriptum ex Libro est, qd vero Rubro ex —\*)“; „f. significat fabulam, h. haereticum, E. Epum, „B. qd inuenitur in Breviario etc. etc.“ Mensium nomina haec sunt: 1. توت, cujus initio adscriptum est: 8. September); 2. بابه; 3. عتور; 4. بهموده; 5. كيهك; 6. طويه; 7. امشير; 8. بهمهات; 9. مسرى; 10. بشنس; 11. برونه; 12. ايبب. In inferiore parte paginae 252. Arabica quaedam leguntur, quibus inscribitur: خطبه. Pag. 253. Coptica quaedam vocabula continent, addita pronuntiatione caractere Latino. Pag. 254. Arabica sistit, quae quo pertineant, non liquet. Pag. 255—263. continent *tabulam chronologicam Patriarcharum Alexandriae et Antiochiae* (بطاركة الاسكندريه وانطاكيه) secundum aeram Christianam et Muhammedanam, eadem manu scriptam. Adjiciuntur etiam Chalifarum nomina et deinde eorum loco Ejjubidarum Aegypti. Deesse videtur hujus tabulae initium; incipit enim, quod adest, a Patriarchis Alexandrinis vigesimo quinto et vigesimo sexto, Dioscoro (ديسقوس) et Timotheo (طيومتاوس); vid. historiam Patriarcharum Alexandrinorum, ab Eusebio Renaudot editam, pag. 114. sqq. Antiochenorum ultimus est Joannes (يوحنا), regnante chalifa el-Mu'tasim billah, Hârûni filio; Alexandrinorum series pag. 262. deducitur usque ad medium fere saeculum XVII., et adduntur manu recentiore pag. 263. patriarchae nonnulli seriores. Calendario quoque et patriarcharum tabulae hic illic adpersae sunt notulae, Latino sermone scriptae. In paginae 263. inferiore parte Arabica leguntur, eadem manu exarata, qua totus codex, et similiter pag. 264.,

\*) Deletum est quod hoc loco scriptum erat.

ubi clausula apponitur ex Ecclesiastae cap. 12. versic. 13. et 14. petita: الجامع آخر القول اسمع ، الحافظ ائح ، cum versione Latina.

## LXXX.

(N. 20. in fol.; olim N. 26. in fol.)

*Catechismus Lutheri minor*, Arabice versus, in fol., foll. 22. chartae Europaeae, char. Neschi distincte scriptus, bene conservatus. Fol. 1. r. legitur Germanice: "Der kleine Catechismus Lutheri in Arabische Sprache übersetzt von Salomon Negri zu Halle im Weyßen-Haufe."

"1716." Fol. 2. v. inscriptionem habes Arabicam: التعليم المسيحي على مذهب التفصيل العلامة: حجة الملة النصرانية وفخر الطائفة الالمانية سيدنا مرتينوس ، Incipit ipse liber fol. 2 v., finitur fol. 21. v. Clausula additur fol. 22. r.: وقد كان الفراق منه نهار الاربع (sic) تمر في يوم الثالث والعشرين من شهر ايلول سنة 1714 بيد سليمان الاسود الدمشقي (sic) وقد كتب برسم خزانة كتب بيت البنتامي الذى في مدينة حال في بلاد ساكسونيا مر

Cum illa versione, quam Halis excudendam curavit Jo. Henr. Callenberg, a. 1729. 12o, comparationem codicis nostri instituere non contigit; cf. Schnurreri bibl. Arab. p. 276.

## CODICES MATHEMATICI, ASTRONOMICI, CHRONOLOGICI, ASTROLOGICI.

## LXXXI

(N. 21. in fol.; olim N. 27. in fol.)

*Euclidis Elementorum libri V—XV*. Arabice, codex in fol., fol. 214. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi antiqua manu distincte scriptus, sed omissis plerumque punctis diacriticis, bene conservatus, cujus tamen ea pars, quae priores quattuor libros olim continebat, nunc desideratur. Notatur enim fol. 1. r. in summa pagina ad sinistram:

آ من ح , h. e. folium primum quinternionis octavi. Legitur praeterea pagina eadem *Guil. Postelli* manu scriptus libri titulus:

"Quintus euclidis liber de elementis geometricis Interpre Isaaco ben genino, emendatore thebitio ben coratio. Ad finem vero elementorum et demōstrationum durat. Desyderantur 4 primi.

"Postelli et Posteritatis."

Infra inverso libro inscriptum est: "Paraphé au desir de l'arrest du 5. juillet 1763. Mesnil."

Folio 1. v. incipit liber V., cui inscribitur: المقالة الخامسة من كتاب اقليدس في الاصول نقل اسحاق ابن حنين واصلاح ثابت ابن قره , atque similiter indicatur initium librorum VI—X. (fol. 15. r. 36. v. 52. v. 66. v. 80. r.) In clausula, libro decimo adjecta, fol. 151. r., nomini *Ṭābiti bin Qurra* additur cognomen el-Harrāni (الحاراني), et subjungitur: وفي آخر ما نقله اسحاق واصليه ثابت ويتلوه نقل الحاج بن يوسف بن مضر الوراق لمعيته\* من المقالة الحادية عشر [ه] من : haec est: (fol. 151. v.) كتاب اقليدس في الاصول نقل الحاج ابن يوسف بن مضر الوراق من الترجمة الثانية. Similia leguntur fol. 174. r. in fine libri undecimi, ubi scriptum est: الترجمة الثانية اقليدس , et initio libri duodecimi; item fol. 189. r. in fine ejusdem libri et 189. v. in initio libri decimi tertii, qui errore librarii vocatur duodecimus. In fine hujus libri fol.

\*) Hoc vocabulum quibus punctis scribendum sit, nobis non constat. Reliquis, quae ex hoc codice dedimus, puncta diacritica adjecimus; quae perperam posita erant, correximus.

201. v. adscriptum legitur: تمت المقالة الثالثة عشره من كتاب اقليدس في الاصول وفي اخر ما نقل الحجاج ابن يوسف ابن مطر الوراق من الترجمة الثانية وتم بنتمامها كتاب اقليدس في الاصول --- ،  
 deinde fol. 202. r. inscriptio libri decimi quarti: المقالة الاولى من كتاب ايسقلايس وفي الرابعة عشره [ه] من كتاب اقليدس في الاصول نقل قسطنطين لوطا ،  
 المقالة الاولى من كتاب ايسقلايس: --- ،  
 Versionis auctor hoc loco vocatur: قسطنطين لوطا البعلبكي . Libri ultimi inscriptio, fol. 211. r.: كتاب ايسقلايس وفي الخامسة عشره من كتاب اقليدس في الاصول ترجمه قسطنطين لوطا البعلبكي ،  
 Desinit codex fol. 214. v. in media pagina post sextam ejus libri figuram. — Fol. 188. v., figurae delineandae, ut videtur, destinatum relictum est vacuum.

Videtur igitur secundum ea, quae ex fol. 151. r. deprompsimus, versio *Is'hâqi bin 'Hunein*, a *Ôâbito* recognita, usque ad finem tantum libri decimi pertinuisse, ita ut libri XI—XIII. ex editione secunda et emendatiore versionis *'Hag'g'âji bin Jûsuf* essent recipiendi, supplementa *Hypsiclis* vero e versione, quam considerat *Qustâ bin Lâqâ* vel *Lâtâ*, ut bis scriptum reperitur in codice nostro. Conferantur de his versionibus eorumque auctoribus J. C. Gartz de interpretibus et explanatoribus Euclidis Arabicis, pag. 7. sq. 20. sq. 25. sqq. 37. sq.; G. O. Flügel de Arabicis scriptorum Graecorum interpretibus, pag. 11. 14. sq. 17. sq., et J. G. Wenrich de auctoribus Graecorum versionibus et commentariis Syriacis, Arabicis, Armeniacis, Persicisque, § CXVI. CXVII. Wenrichius quidem *Is'hâqum* omnes elementorum Euclidis libros Arabice vertisse tradit, auctoritate nixus *Mu'hammedis bin Is'hâq en-Nedim* et *G'emâl ed-dîni el-Quflî*, et codices recenset Bodlejanos duo, Parisiensem unum, quibus priores tredecim libri ab *Is'hâqo*, *Hypsiclis* supplementa a *Qostâ* Arabice reddita, contineri feruntur. Sed ea res disquisitione accuratiore jam nobis indigere videtur. — Notandum prae-

terea, quod *Ibn Challikân* (ed. de Slane, Vol. I. pag. 147. et 245.) versionem librorum Euclidis, hoc est elementorum, adscribit *Huneino bin Is'hâq*, qui pater *Is'hâqi* nostri, quocum consentit inter alios *Hâg'i Chalfa*, vol. I. pag. 381. sq. Sed ita res fortasse expedienda, ut status sub auspiciis patris filium versionem condidisse, unde utriusque nomen ei quasi adhaereat. Jure enim huc refertur, quod in universum annotat *Herbelotius* s. v. *Honain*: "Il se servit beaucoup d'Ishak son fils et de "Hobaiz" [leg.: Hobaisch] "son neveu dans "les versions qu'il entreprit."

*Hâg'i Chalfa* l. laud. alique *Ôâbitum* quoque nostrum, mortuum a. h. 288. (Chr. 901.), inter Euclidis translatore recensent, sed minus accurate; is enim recognovit tantum versionem *Is'hâqi* vel *'Huneini* \*), ut ex *Ibn Challikân* quoque patet, vol. I. p. 147.

*Hypsiclis* nomen, cui in codice nostro perperam ubique adscripta sunt puncta diacritica, a nobis restitutum est. Desiderantur ejus supplementa in *Naszir ed-dîni* recensione elementorum Euclidis, Romae impressa a. 1594.

## LXXXII.

(N. 22. in fol.; olim N. 41. in fol.)

Codex in fol., foll. 128. chartae orientalis crassae et antiquae, char. Africano bene scriptus, sed tineis vehementer laesus. Continet is bonam partem libri cujusdam mathematici, agentem *de arithmetica, geometria et stereometria*. Auctoris nomen ignoratur. Quod enim inscriptum est folio, numero non signato, in capite libri: "Euclidis", id verum non est. Hic liber divisus, erat in duo genera disciplinarum mathematicarum (جنسَي التعلِيم الرياضية); utrumque genus varias complectebatur species (انواع), in alias species denuo divisas, quarum partes ap-

\*) Versionem *Qustâe* habet *Flügelius*, l. I. pag. 17., sed id errore niti non est dubium.

pellabantur sectiones (فصول). In margine recentiore quadam manu annotantur singularum uniuscujusque sectionis propositionum numeri, litterarum Arabicarum valore numerico expressi. Quod adest, variis constare videtur fragmentis, quae recensere conabimur.

1. Fol. 1—20. Sectionis primae, nescimus cujus speciei, pars, item ejusdem speciei sectio secunda, tertia et quartae pars. Incipit enim fol. 1. r. a fine propositionis cujusdam vicesimae quintae et non interrupto ordine pergitur usque ad quadragesimam quintam, quam continuo sequuntur (fol. 4. v.) propositiones decima septima et decima sexta. Excipit hanc inscriptio sectionis secundae:

بسم الله الرحمن  
 الرحيم صلى الله على محمد وآله، الفصل الثاني في خواص  
 الاعداد الاضافية، Numerantur ejus propositiones viginti sex, et deinde duodetricesima, undetricesima, tricesima, sed sic ex correctione secundae manus; antea enim scriptum erat: 27. 28. 29. Sectio tertia incipit fol. 12. r.: بسم  
 الله، الفصل الثالث في خواص الاعداد من جهة مشابهتها  
 للفصول والسطوح والاجسام، Adjicitur in margine inscriptio Graeca: *περι τῶν ἀριθμῶν ἀναλογίας καὶ πρὸς τὰ σώματα ἐπίπεδα καὶ γρομμὰς συγκρίσεως*. Haec sectio continet propositiones XVII. Fol. 16. r. incipit sectio quarta: الفصل الرابع في خواص الاعداد بحسب اضافتها الى  
 اجزائها، In margine: *περι ἀριθμῶν ιδιότητος, καὶ τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὰ μερῶ συγκρίσεως*. Enumerantur propositiones decem usque ad finem fol. 19., post quod excisum est folium unum. Nihilominus folio sequenti leguntur propositiones undecima, duodecima et decimae tertiae pars; abrumpitur enim oratio in media propositione, fol. 20. v. extr.

2. Fol. 21—53. Ex generis primi specie secunda sectionis primae pars et sectio secunda. Sed illa species num fuerit subdivisio alius speciei necne, non liquet. Sequitur generis primi speciei tertiae species prima, tribus sectionibus constans, et speciei secundae sectionis

primae pars. Incipit enim fol. 21. r. in media propositione vicesima quinta sectionis ejus, quam diximus, eamque sequuntur propositiones XXVI—XXXII., ita tamen ut loco notae tricesimae secundae repetatur nota tricesimae primae. Ad duodetricesimam annotatur in margine: *ὁδε πολὺ λείπει*. Fol. 23. v. incipit: الفصل الثاني  
 من انواع الثاني في سطوح الدواير، cum nota marginali Graeca: *περὶ τῶν κύκλων περιμετρίας*. Propositiones habet haec sectio I—XXIV. et XXVI—XXIX. — Fol. 32. v. incipit species (major) tertia: النوع الثالث من جنسى التعاليم  
 الرياضية في خواص انواع، cum nota marginali: *διάπραξις τῶν σχημάτων καὶ ἢ ἐν αὐτοῖς ἀσκησις*. Plenius autem infra legitur من الجنس الثالث من الجنس الاول من جنسى التعاليم الرياضية في خواص الخنوط والزوايا  
 والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض وهو ينقسم الى ثلاثة انواع، النوع الاول في خواص الخنوط والزوايا والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض على جهة النسبة، النوع الثاني في خواص الخنوط والزوايا والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض من جهة الاشتراك والتبنيان، النوع الثالث في خواص الخنوط والزوايا والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض من جهة القرض والتوزيع، وأنواع الاول من هذه الأنواع ينقسم الى ثلاثة فصول الفصل الاول في الخواص  
 الكلية على النسبة والتناسب، الفصل الثاني في خواص الخنوط والزوايا والسطوح المستقيمة الخنوط بحسب اضافة بعضها الى بعض على جهة النسبة، الفصل الثالث في خواص الزوايا (الدواير leg.) بحسب اضافة ما يقع فيها من الزوايا والخنوط والسطوح، Fol. deinde 33. r. incipit prima illa sectio: في القول انكلي الج، continens propositiones decem; fol. 36. v. sequitur sectio secunda cum inscriptione manca; desunt enim verba على جهة النسبة و المستقيمة الخنوط. Complectitur haec sectio propositiones XVIII., quarum numeri ex parte secunda manu correcti. Fol. 43. v. incipit sectio tertia, in cujus inscriptione rectius, quam supra, legitur: في خواص  
 الدواير الج. Numerantur hic XVII. propositiones continuatae, quarum ultima trunca; videtur excidisse folium unum post folium 50. In sequenti folio enim habemus propositionis undevicesimae finem cum vicesima, quae ultima est

ejus sectionis. Excipit hanc fol. 51. v.: النوع الثاني من النوع الثالث من الجنس الأول من جنسى التعاليم الرياضية في خواص الخطوط والزوايا والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض من جهة الاشتراك والتباين وهو ينقسم الى فصلين ، الفصل الاول في خواص الخطوط والسطوح بحسب اضافة بعضها الى بعض من جهة الاشتراك والتباين ، الفصل الثاني في خواص السطوح والدوائر بحسب اضافة ما يقع فيها من الخطوط والسطوح على جهة ، التباين والاشتراك. Adsunt tantum, pag. eadem, sectionis prioris propositiones prima, secunda et tertiae initium, et post lacunam duorum foliorum excisorum, uti videtur, fol. 52. 53., propositionis octavae finis, nona et decimae pars major.

3. Fol. 54-57. Devehimur nunc ad sectionem secundam e speciei (majoris) quartae specie tertia, quae ad genus primum haud dubie pertinet. Sic enim legitur fol. 54. r. in summa pagina: الفصل الثاني من النوع الثالث من النوع الرابع في خواص خطوط وزوايا وسطوح القطوع [ب] اضافة بعضها الى بعض. Adsunt propositiones prima, secunda et pars tertiae. Sed haec iis, quae sequuntur, non erant antependa; continent enim

4. Folia 58—71. clausulam sectionis prioris et sectionem posteriorem speciei secundae e generis primi speciei (majore) tertia; ejusdem tertiae speciei (majoris) speciem tertiam, duabus sectionibus constantem, ita tamen ut posterioris sectionis pars major desideretur. Legitur enim fol. 58. r., post clausulam propositionis ultimae sectionis praecedentis, inscriptio haec: الفصل الثاني في خواص السطوح والدوائر الخ، omnino ut dedimus supra e fol. 51. v. Propositiones habet haec sectio undecim. Fol. 62. r. incipit: النوع الثالث من النوع الثالث من الجنس الاول من جنسى التعاليم الرياضية في خواص الخ، ut fol. 32. v. Deinde subjungitur: وهو ينقسم الى فصلين، الفصل الاول في خواص الخطوط والزوايا والسطوح المستقيمة الخطوط، الفصل الثاني في خواص الدوائر بحسب اضافتها الى الخطوط والزوايا والسطوح، المستقيمة الخطوط. Sectio prior propositiones

continet triginta et sex. Posterioris inscriptio tantum adest et propositionis primae pars, fol. 71. v.

5. Sequuntur folia duo, 72. 73., quae continent sectionis nescimus cujus propositiones secundam ex parte, tertiam, quartam et quintae partem; sed haec ad ea, quae praecedunt, non videntur pertinere.

6. Foll. 74—78. continent finem speciei primae e speciei (majore) quarta (generis primi) et initium sectionis prioris speciei secundae. Sequitur enim fol. 77. v. post illius propositiones XIII—XXII. inscriptio: النوع الثاني من النوع الرابع في خواص الاكبر والقطوع الحادئة فيها من غير اضافة بعضها الى بعض وينقسم الى فصلين، الفصل الاول في خواص الدوائر الواقعة في الكرة من غير اضافة الخ، الفصل الثاني في خواص دوائر الاكبر وقسميها واتارها بحسب اضافة بعضها الى بعض. Sed prioris sectionis tantum I—IV. adsunt; desideratur figura ad illustrandam quartam propositionem destinata.

7. Foll. 79—93. continent sectionis posterioris ejusdem speciei finem et initium sectionis prioris speciei tertiae e speciei (majore) quarta. Legimus enim post illius propositiones III—XXI., fol. 90. v., hanc inscriptionem: النوع الثالث من النوع الرابع في فنوع الاساطير والمخروطات المستديرة وهو ينقسم الى فصلين، الفصل الاول في وجود القطوع وخواصها الاول (sic) من غير اضافة بعضها الى بعض، الفصل الثاني في خواص خطوط وزوايا وسطوح القطوع باضافة بعضها الى بعض. Prioris sectionis hic habemus propositiones I—III.

8. Foll. 94. 95. continent propositiones duodecimam et decimam tertiam cujus nescimus sectionis.

9. Foll. 96—103. exhibent propositionis nonae partem et propositiones X—XXIII. integras. pertinentes, ni fallimur, ad sectionem illam, cujus initium legebatur fol. 90. v.—93. v., atque sic post fol. 103. videtur fuisse locus inserendi folia illa 54—57., supra male collocata.

10. Foll. 104—120. continent speciei (majoris) quintae speciem priorem, duabus sec-

tionibus constantem. Fol. 104. r. enim legitur: النوع الخامس من جنسى التعاليم الرياضية في اضافة الجسام وسلوحتها بعضها الى بعض وهو نوعان ، النوع الاول في اضافة الجسام المستقيمة السلوحت وسلوحتها بعضها الى بعض ، النوع الاول ينقسم الى فصلين ، الفصل الاول في مقدمات تتصرف في ما بعد من العلوم ، الفصل الثاني في اضافة الجسام المستقيمة السلوحت وسلوحتها ، بعضها الى بعض . Complectitur sectio prior propositiones octo ; posterior incipit fol. 108. r. , ubi inscribitur : النوع الاول من نوعي النوع الخامس في اضافة مجسمات وسلوحت الجسام ، النوع الثاني من النوع الثاني من نوعي النوع الخامس في اضافة مجسمات وسلوحت بعضها الى بعض ، qui titulus recedit paululum ab illo , qui legebatur fol. 104. r. Ejus sectionis hic habemus propositiones XXV. , quarum tamen ultima abrumpitur fol. 120. v. Interponuntur enim

11. Fol. 121. propositionis decimae pars, undecima et duodecima ex parte, quae ad ea fortasse pertinent, quae in fine folii 53. erant interrupta.

12. Foll. 122—127. continent secundae speciei ex eadem specie (majore) quinta propositiones decem, quarum ultimae in fine videntur deesse nonnulla. Fol. 122. r. inscriptio quidem sic habet: الفصل الثاني من النوع الخامس في اضافة مجسمات وسلوحت الجسام المستديرة بعضها الى بعض ، النوع ; sed recte corrigitur in margine: الفصل . Adjiciuntur quoque notula Graeca: περι στερεῶν.

13. Fol. 128. r. cum praecedente cohaerere non videtur. Est finis propositionis ultimae hujus libri, id est primi generis التعاليم الرياضية . Legitur in media pagina: آخر الكتاب ، eadem manu scriptum, qua totus codex.

Adjectae sunt passim per totum codicem notae marginales Arabicae, seriore manu char. Africano negligenter exaratae. — Fol. 128. v. inscriptum est: „Coll. Paris. Societis Jesu“; et fol. 1. r. in margine interiore legitur, ut in codice LXXXI.: „Paraphé au desir de l'arrest du 5. juillet 1763. Mesnil.“

## LXXXIII.

(N. 23. in fol. ; olim N. 21. in fol.)

*De stellis fixis liber astrognosticus, auctore Abū 'lhusein 'Abd er-rāhman bin 'Omar es-Szāfi er-Rāzi, fol., foll. 126. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Praemittitur codici folium, numero non signatum, cui in prima pagina inscriptum est:*

تصويم صور الكواكب لعبد الرحمن الصوفي ،

Sed paulo aliter titulus legitur fol. 1. r.: الكواكب والصور تأليف ابى الحسن عبد الرحمن بن عم الصوفي رحمه الله تعالى . Incipit praefatio fol. 1. v.: قال ابو الحسين عبد الرحمن بن عم الصوفي رحمة الله عليه بعد ان حمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله المصطفى

والآله\*) ابى رايت كثيرا من الناس يخوضون في طلب معرفة الكواكب الثابتة ومواقعها من انفلك وصورها ووجدتهم على فرقتين . In margine autem adscriptum est:

قال عبد الرحمن بن عم المعروف بابى الحسين الصوفي بعد آه subjuncto vocabulo نسخته , quod aliud ejusdem libri exemplum designat, ex quo haec desumpta sunt. — Exposita in praefatione studiorum ratione, quae persecutus erat a. h. 335. (Chr. 94ḡ.) in oppido ed-Deinewer et a. h. 337. (Chr. 94ḡ.) Iszpahānae, ad enarrandam hujus quoque libri originem accedit auctor, quem 'Adhad ed-daulae Buweihidae obtulit, in cujus aula versatus est inde ab a. h. 349. (Chr. 960.) — Ipsa XLVIII. signorum coelestium descriptio incipit versus finem fol. 9. a signo ursae minoris. Singulorum signorum, excepto tantum uno, adjiciuntur figurae elegantissime pictae et duplici plerumque modo delineatae, ita ut signum quale in ipso coelo, qualeque in globo coeli imaginem referente appareat, conspicias. Subscriptio in fine codicis, fol. 126. r., haec est: نقل من النسخة التى كانت لابى الحسين الصوفى بخط فرج بن عبد الله المحيشى مولاه والصور والجدول بخط ابى الحسين رحمة الله تعالى عليه وفي النسخة التى للوقوف نذار انعلم ببين

\*) Insertum est h. l. a secunda manu vocabulum وبعد .



السورين بمدينة السلام وكتب في ذى القعدة من سنة  
أربعة وأربعين للهجرة والحمد لله --- ، وكان الفراغ من  
كتابة هذه النسخة المباركة المعظم شذاه السيدها ومولاهما  
الجناب الكريم العالی الامير حسن افندی باش خلیفة  
المرزومه (sic) علی يد كاتبه الفقير --- محمد المغربي في  
يوم الثلاثاء المبارك ثالث شهر ذى الحجة الحرام ختام سنة ١٠٠  
Fol. 126. v. subjun-  
gitur index imaginum, signa coelestia referen-  
tium, char. Nasta'liq exaratus. — Codicem in  
oriente comparatum Hauniam transmiserunt a.  
1763. Niebuhrius ejusque in itinere comites;  
vid. J. D. Michaelis literar. Briefwechsel, Th.  
II. pag. 78.

Conferantur de hoc libro ejusque auctore,  
quae disputavit clar. Ideler in libro: Unter-  
suchungen über den Ursprung und die Bedeu-  
tung der Sternnamen, pag. XLIX. sqq. Auc-  
toris praenomen secundum codicem nostrum est  
*Abû 'Thusein*, quod Abulfaragius quoque habet  
in hist. dynastiarum, pag. 325., et Herbelotius  
s. v. Razi. Dederunt alii cum titulo codicis  
nostri *Abû 'Thasan*, ut G'emâl ed-dîn el-Qufti  
apud Casirium, vol. I. pag. 361., et Idelerus.  
Neque magis de ipsius libri nomine constat;  
ab inscriptione codicis utraque recedunt et Abul-  
faragius, qui habet: كتاب النور السماوية مصور  
et G'emâl ed-dînus, apud quem legitur: كتاب  
الكواكب الثابتة مصور،

## LXXXIV.

(N. 30. in 4to.)

*Musae bin Mu'hammed Qâdhizâde notae in  
El-G'aghminii\*) compendium astronomicum,*  
quod inscribitur: الملخص في علم النبیة; codex in  
4to, foll. 155, chartae orientalis laevigatae,  
char. Neschi satis bene scriptus, bene conser-  
vatus. Titulus fol. 1. r. inscriptus hic est:  
شرح الجمعيني \*\*) اتمسى بالملخص في علم النبیة للشیخ

\*) *G'aghminium* Persae vocant, cognomine ab oppido  
*C'aghminia* derivato, in Ch'arizmia sito.

\*\*) Eodem nomine, quo auctor, ipse quoque liber ejus  
designatur; vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 601.

الامام العلامة المفسن موسى الشهبير بقاضی زاده البوسلی  
Præfatio incipit fol. 1. v. ab  
الحمد لله الذى جعل الشمس ضياء والقمر  
نورا، ويسط على بساط البسيط ظلًا وحرورًا،  
Primae duae paginae char. Nasta'liq scriptae sunt,  
sed eadem manu, qua totus codex. Inscriptus  
est commentarius (fol. 4. r.) clarissimo nomini  
principis et astronomi Ulûg Begi (ألوع بيك بن  
(شاه رخ بن تیمور کورکن  
et incipit fol. 4. r. in  
fine paginae, desinit fol. 154. r. — Sententiae  
circulis et figuris astronomicis illustrantur. No-  
tae marginales et interlineares inveniuntur haud  
paucae, et illae quidem ab ipso librario ple-  
rumque scriptae, hae vero alia manu et Tur-  
cico partim sermone. — Clausula additur fol.  
154. v., char. Nasta'liq scripta, qua docemur,  
codicem scriptum esse in gratiam cujusdam  
Scheich Mu'hammed Efendi, manu Derwishi  
Mu'hammed, e posteris Scheichi Schahqobâd,  
mense 'Au 'lqa'de a. h. 1098. (Chr. 1687.) Ad-  
jiciuntur pagina eadem disticha nonnulla Per-  
sica, et fol. 155. r. variae notitiae, eadem, qua  
totus codex, manu exaratae.

El-G'aghminii liber in catalogo librorum,  
ex 'Hâg'i Chalfa excerpto, quem saepius me-  
moravimus, his verbis indicatur: الملخص في النبیة  
المبسطة ل محمد بن احمد الجمعيني. Dissentiunt ta-  
men viri docti de hujus scriptoris nomine;  
verum dedisse nobis videtur Casirius, vol. I.  
pag. 382.: Abû 'Abd allâh Ma'hîmûd bin Mu-  
'hammed bin 'Omar. Inter commentatores El-  
G'aghminii in eodem illo catalogo, ex 'Hâg'i  
Chalfa excerpto, recensetur et Mûsâ bin Mu-  
'hammed Qâdhizâde et Fadhl el-'Ubeidi. Clar.  
Fleischer quo jure in catal. Biblioth. Dresd. n.  
131. cognomen Qâdhizâde jungat nomini com-  
mentatoris G'elâl ed-dîn Fadhl allâh el-'Ubeidi,  
nos quidem nescimus, sed verendum, ne unum  
fecerit e duobus, et constare videtur, commen-  
tatoris nostri verum nomen fuisse Szalâ'h ed-  
dîn Mûsâ bin Mu'hammed bin Ma'hîmûd Qâdhî-  
zâde er-Rûmî. Cf. Th. Hyde in praefatione in

tabulas Ulugh Beighi, pag. XV.; Herbelot s. v. Cadhi Zadeh al-Rümi; Casiri, vol. I. pag. 382.; Toderini Litt. der Türken, (interpretationis Germ.) vol. I. pag. 148.; Gartz de interpretibus et explanatoribus Euclidis Arabicis, pag. 30.

### LXXXV.

(N. 31. in 4to; olim N. 15. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 18. chartae laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Folio 1. r. inscriptus est titulus: هذه جداول النسب الستينية، على التمام والكمال، الستينية; sunt enim, quae sequuntur, *tabulae multiplicationis, ad calculum sexagesimalem pertinentes*, quae usum habere videntur in computando solis loco in coelo. Fol. 1. r.—11. r. continentur tabulae quadraginta, in quibus numeri litterarum valore numerico expressi sunt. Folia 11. v.—14 v. secundum inscriptiones destinata erant tabulis XLI—LIV., sed numeros inscribere praetermissum est. Fol. 15. r.—16. r. tabularum LV—LX. exigua tantum pars expleta; fol. 16. v. nihil habet scripti. — Fol. 17. r.—18. r. sub finem paginae legitur pars introductionis (مقدمة), illustrando tabularum praecedentium usui destinatae, sed ab initio mutilae. Subscriptio adjicitur in ima pagina: cet. قد كمل لنا — ما اردنا وضعه في هذه المقدمة، et notantur fol. 18. v. scriptionis annus et mensis, Mu'harrem 1175. (Chr. 1761.)

Hunc codicem in Oriente comparatum a. 1763. Hauniam miserunt Niebuhrus et socii; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, T. II. pag. 80. n. 11.

### LXXXVI.

(N. 32. in 4to, olim N. 52. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 109. chartae orientalis laevigatae, varios tractatus continens de usu variorum instrumentorum astronomicorum. Sunt ii:

1. كتاب حاوى اختصرات في العمل بربع المنقظرات. *Summa compendiorum de operationibus cum quadrante circularum ad horizontem parallelorum*, auctore *Bedr ed-din Abū' Abd allāh Mu'hammed bin Mu'hammed bin A'kmed*, progenie Ināmi G'emāl ed-din 'Abd allāh el-Mārdini. Libri titulus cum parte nominis auctoris inscriptus est fol. 1. r. At plenius nomen exhibet praefatio, fol. 1. v.: أبو عبد الله محمد بدر — جمال الدين سبط الشيخ الامام — جمال الدين عبد الله المارديني —، يقول فقير رحمة ربه محمد بن محمد بن احمد سبط المارديني الموقت بالجامع الأزهر، Cf. Hāg'i Chalfa, ed. Flüg., vol. III. pag. 11., et Casirium, vol. I. n. CMXXVI, 6. Divisus est hic tractatus in introductionem, triginta capita et coronidem. Incipit introductio fol. 2. r.; caput primum fol. 4. v. Clausula legitur fol. 45. v., quae docet hoc exemplum absolutum esse die 24. mensis Reg'eb a. h. 1068. (Chr. 1658.) Scriptura Neschica, haud mala; in margine saepe adjiciuntur annotationes.

2. Clausulae hujus tractatus continuo subjungitur fol. 45. v. initium alius cujusdam libri, similis argumenti, qui inscriptione caret. In margine tantum notatur: معرفة المجمع (ميجيب\*) بالربع الحبيب. Agit enim liber *de usu quadrantis* ejus, quem astronomi Arabes vocant الربع الحبيب i. e. *sinu instructum*. Praefationis initium, lin. 9., hoc est: الحمد لله الذي، et paulo post, lin. 5. a fine, legitur: ثم بعد فان الربع الحبيب ليس في آلات افلكيه من اشراف مند cet. Quae verba cum iis fere respondeant, quae Casirius laudat, vol. I., ad n. CMXXVI, 2., jure nobis suspicari videmur, initium hoc esse non quidem ipsius libri *المطلب للربع الحبيب*, sed in eodem *Bedr ed-dino*, cujus erat praecedens tractatus, sed initium compendii ejus libri, quale in codice etiam LXXXVII. legitur et in ipso hoc codice nostro fol. 53. v.—72. r. commentario instructum est.

\*) Legendum fortasse: نتيجة.

Sed h. l. orationis series abrumpitur in fine folii 46.

3. Fol. 47. r. alius ejusdam tractatus nomen iterum iterumque inscriptum est, hoc modo: رسالة في علم — ورسالة الميقاتة ، — كتاب رسالة الميقاتة ، الميقاتات ؛ at ipse tractatus desideratur. Infra titulum enim tabulae tantum nonnullae leguntur, male exaratae, quibus inscriptum est: مضال ؛ et fol. 47. v. sequuntur alius libri titulus et praefatio: [هَذَا كِتَابُ الْمُتَوَسُّطِ وَهُوَ أَصُولُ أَصُولِ أَصُولِ] — كتاب الميقاتة في كشف أسرار الوصول واليقين وهو ثقة الأكبر وشيخ الأزهر — ، يقول العبد — محمد بن محمد بن الحسين النخعي. Sed hujus quoque libri continuatio desideratur.

4. Sequitur, post annotationes nonnullas a variis libri fortasse possessoribus fol. 48. r. inscriptas, *libellus de operationibus cum semicirculo aequinoctiali*. Sic enim legitur post Besmelam fol. 48. v.: وبعد فنيته فوايد في معرفة العجل بنصف دائرة المعدل ، Scriptura Neschica bona. Finitur libellus fol. 53. r. in media pagina.

5. Fol. 53. v. incipit eadem manu scriptus *commentarius in Bedr ed-dini* [Sibt] *el-Márdini tractatum de operationibus cum quadrante, sinu instructo*, auctore *Ahmed bin Ahmed 'Abd el-haqq es-Sunbâti*: توضيح لطيف على الرسالة الموضوعية في العجل بالربع الخجيب تأليف الشيخ العلامة بدر الدين المارديني. *Bedr ed-dini tractatus* idem est, quem exhibet cod. LXXXVII. Absolvitur commentarius fol. 72. r. Adjicitur quidem fol. 72. v. clausula quaedam (خاتمة), quadrantis usum itidem spectans et pessime exarata; at tamen haec ad eundem librum pertinere non videtur.

6. Eadem pessima manu, qua fol. 72. v., sequens quoque libellus exaratus est, fol. 73. r.—81. v., qui inscribitur: كفاية المتنوع في العجل i. e. *brevis de operationibus cum quadrante resecto*, sive sectore, quem astronomi nostri vocant, auctore *Bedr ed-din el-Márdini*. Sed plenius in ipso libelli limine auctoris nomen legi-

tur: قال الشيخ — بدر الدين سبط العلامة جمال الدين المارديني — ، الحمد لله الذي جعل النجوم علامات لاوقات السجود. Titulum hujus libri laudat Hâg'i Chalfa\*), eumque divisum esse contendit in quindecim capita; in codice tamen nostro dividitur in capita viginti.

7. Post fol. 82., cui praeter notulas nonnullas nihil inscriptum est, sequitur libellus, cui titulum fecit librarius (fol. 83. r.) hoc modo: هذه الدور الفاخرات في العجل بربع المقنطرات في جميع الاقطار والجهات للعلم العلامة البحر الفهامة سيدي احمد i. e. *Liber margaritarum pretiosarum, agens de operationibus cum quadrante circularum ad horizontem parallelorum, omnibus terrae regionibus accommodatus*, auctore *Ahmed esch-Scherefi*. Incipit is fol. 83. v., clauditur f. 109. v.; constat praefatione et viginti capitibus et bene scriptus est caractere Neschi. Absolutus est m. Reg'eb a. h. 1157. (Chr. 1744.)

Hunc codicem ex Oriente Hauniam transmiserunt Niebuhrius et socii; vid. J. D. Michae-  
lis *literar. Briefwechsel*, T. II. p. 79. n. 7.\*\*)

## LXXXVII.

(N. 33. in 4to; olim N. 50. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 14. chartae laevigatae, caractere ad Nests'liq accedente satis bene scriptus, varios itidem tractatus continens de usu quadrantis.

1. Fol. 1. v. incipit *tractatus de operationibus cum quadrante circularum ad horizontem parallelorum*: رسالة في العجل بالربع الموسوم بالمقنطرات ،

\*) Ed. Flüg. vol. I. pag. 346. n. 890. Sed pronuntiandum est: كفاية التَّنَوُّع.

\*\*) Brevissima codicis notitia, quam hic liber exhibet, indicat tantum illud nomen, quod dedimus e fol. 47. v.: Mu'hammed bin Mu'hammed bin el-Husein el-Balchi, et nomen Ahmedis esch-Scherefi, ut nos scripsimus, auctoritatem secuti Sujatii in libro *Lubb el-lubab*, edit. Vethii, pag. 152.

introductione et decem sectionibus constans. Auctoris nomen discimus e praefatione commentarii, cuius initium continet hic noster codex, n. 3.; est is *G'emâl ed-dînus*, جمال الدين ابن جمال الأخرى. Clauditur hic libellus fol. 5. r. lin. 5.

2. Fol. 5. r. lin. 6. sequitur *tractatus de operationibus cum quadrante sinu instructo*: رسالة في العمل بالربع الخبيب، introductione et viginti capitibus constans, auctore *Bedr ed-din Sibî el-Mârdîni*, ut apparet e commentario, quem continet codex noster LXXXVI., n. 5. Finitur liber fol. 9. v. lin. 3. Videtur esse idem liber, quem recenset A. Krafft, Handschriften der orient. Akad. in Wien, pag. 137. n. 5., in scribendo auctoris nomine paululum tamen recedens ab eo, quod nos dedimus ad cod. LXXXVI., n. 1. Cf. praeterea Catal. Biblioth. Lugd., pag. 456. n. 1140. 1143. et 1147.

3. Sequitur denique fol. 9. v. lin. 4. *initium commentarii in G'emâl ed-dîni tractatum de operationibus cum quadrante circulorum ad horizontem parallelorum*, auctore *Jânus bin 'Abd el-qâdir bin 'Ahmed er-Reschedi*. In praefatione enim, quae incipit ab his verbis: الحمد لله الذي اعطا من شأ ما شاء، اما بعد فيقول العبد -- يونس ابن عبد القادر ابن احمد الرشدى الشافعى -- شرح لطيف على الرسالة العشرة فصول الموضوعة في العمل بالربع الموسوم بالمقتضرات تأليف الشيخ -- جمال الدين ابن الأخرى رحمة الله عليه، Ab-rumpitur commentarius in fine fol. 11. r., ultra prima tractatus illius verba non progrediens. Fol. 11. v. — 14. v. vacua sunt.

## LXXXVIII.

(N. 34. in 4to; olim N. 49. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 94. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Continet is *tabulas astronomico-chronologicas*, auctore *Ridhwân Efendi*. Fol.

1. r. inscriptus est titulus hoc modo: الأوجرة النامعة والنتيجة الجامعة لشخصنا العارف -- رضوان ائدى -- ، i. e. *Gemma splendens et summa comprehendens*. Juxta adscriptum est: نتيجة رضوان ائدى الكبرى sed supra titulum perperam scriptum legitur: هذه نتجة رضوان ائدى -- .

Infra adjectae sunt annotationes nonnullae astronomicae, Turcica manu exaratae. Fol. 1. v. praefatio legitur brevissima, cuius hoc est initium: الحمد لله الذى زين السما بزينة الكواكب وسيرها بقدرته رب المشارق والمغرب، Sequitur deinde usque ad finem fol. 3. r. tractatus introductorius, in tres sectiones divisus, quarum hi sunt indices: sectio I. في معرفة التواريخ العربى، في معرفة تحويل الشمس الى مقوم الشمس، روس البروج. Ipsae tabulae incipiunt fol. 3. v. et desinunt fol. 93. v.; computatae sunt ex horizonte urbis Qâhira. Primae tabulae (fol. 3. v. 4. r.) superscriptum est: جدول تقويم الشمس لتول مصم وهو تدته من ساحل البحر العربى على اصول انج بيك صاحب الرصد الجديد السمرقندى تحريم العبد الفقير رضوان عفى عنه، Quae deinde sequuntur tabulae, fol. 4. v. — 7. r., pertinent ad annos Arabum 1094 — 1402. sive Coptorum annos 1400 — 1699. In margine fol. 4. v. notatum est manu recentiore: أول التواريخ. — Ex inscriptionibus reliquarum tabularum hasce annotamus: fol. 7. v.: ومدخل السنين الرومية وشهورها، fol. 8. r.: ومدخل اشهور العربية، ibid.: مدخل أول جداول توسط: fol. 33. v.: أول جداول التحويل، الكوكب (الكواكب) الحركه لأول سنه ١٠٩٠ عريه لى Fol. 94. r. in superiore parte columnae primae recensentur signa coelestia (البروج الشمالية والبروج الجنوبية)، et subjiciuntur notulae nonnullae astronomicae, quae ad ipsum librum non videntur pertinere.

Codicem in Oriente comparatum Hauniam miserunt Niebuhrus ejusque in itinere comites; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, T. II. pag. 79. n. 8.

## LXXXIX.

(N. 35. in 4to; olim N. 47. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 26., char. Nescht satis bene scriptus, bene conservatus. Continet is *tabulas astronomico-chronologicas* cum tractatu introductorio, quibus in praefatione hunc titulum fecit auctor: بغية النفس في حل الشمس، ونبية النفس في حل الشمس. Librarius vero fol. 2. r. inscripsit titulum hoc modo: هذه نسخة (نتيجة) الافكار في اعمال الليل والنهار للعلامة محمد بن محمد اللادق تغمد الله برحمته ورسالته اللادق. Juxta quoque adscriptum est: رسالة اللادق. Propter quam discrepantiam in nomine libri fas erit dubitare, num vere Mu'hammed ille, fil. Mu'hammedis, Laodiceus, ejus auctor sit habendus. Fol. 2. r. praeter titulum inscriptae sunt annotationes nonnullae de longitudine urbis Qahirae et Meccae; item de anno vulgari et intercalari; ipse vero liber incipit fol. 2. v. Indices decem capitum tractatus introductorii hi sunt: cap. I. في ايام الاسبوع. وفي معرفة حساب الجمل، وفي حساب القلم الهندى، وعلاماتها، وفي معرفة التاريخ العربى واوابيل سنه وشهوره بالحساب، وفي معرفة التاريخ القبطى، وفي معرفة مقوم الشمس، والتاريخ الرومى، وفي نقل المقوم لبلد اخرى، وفي معرفة وقت، وفي نقل المقوم لبلد اخرى، وفي معرفة وقت الشمس لوقت ما، نقلان الشمس في البروج الاثنى عشر. Absolvuntur haec omnia cum coronide fol. 10. r. Deinde sequuntur tabulae computatae ex horizonte urbis Qahirae. Et primae quidem tabulae fol. 10. v. 11. r. inscriptum est: جدول تقويم الشمس على الرصد الجديد لنول ندى من ساحل البحر العربى. Fol. 11. v. Arabum anni 1169—1203. componuntur cum annis Coptorum 1473—1506. Fol. 12. r. destinatum erat tabulae, quam praetermisit librarius. Alias tabulas astronomicas exhibent foll. 12. v.—26. r.

Pertinet ad codices a Niebuhrō Hauniam missos; vid J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, T. II. pag. 80. n. 12.

## XC.

(N. 24. in fol.; olim N. 22. in fol.)

Codex in fol., foll. 75. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, bene conservatus. Continet hic codex *ephemerides anni solaris*, qui incipit a die 14to mensis Szafar a. h. 1057. (Chr. 1647.), condita a *Mu'hammede el-Maghrabi*. Fol. 1. r. in parte inferiore paginae prope marginem exteriorem transverse inscriptum est: تقويم السنة الشمسية الواجبة في 14 صفر العربيه حساب الفقير محمد الكنتى \* عفا عنه، وomissa, ut vides, anni Arabici nota, quam e praefatione ipsoque libro deprompsimus. Praefatio incipit fol. 1. v. his verbis: الحمد لله الملك العالم العالم بما كان وما يكون من غير تعليم، Compositum esse librum Qahirae concludere licebit ex inscriptione capituli introductorii, quod praefationem excipit, fol. 2. r. med.: الكلام على احوال مصر الخروسة صيبت من الضيم والخوسة، احكام ضائع حضرة مولانا سلطان. Sequuntur deinde fol. 3. r.: جدول معرفة: الاسلام ايده الله بالنصر انعام، صورة طوائع البلدان والاقليم والحكم علينا باقوال الحكماء المتقدمين، multaeque tabulae astronomico-chronologicae, orationi continuae intermixtae, usque ad medium fol. 75. v., ubi adjicitur clausula: حساب العبد الفقير الى الله تعالى شيخ محمد المغربى الحنفى عامه الله بلطفه الخفى،

## XCI.

(N. 36. in 4to; olim N. 77. in 4to.)

*Commentarius uberius, quo carmen suum astrologicum instruxit Abū 'Abd allāh Mu'hammed bin Sa'īd es-Sūsī*, in fol., foll. 76. chartae laevigatae, char. Neschi, sed Africana manu, eleganter magis quam accurate scriptus, bene conservatus. Auctoris nomen, quod dedimus, legitur fol. 1. v. in limine libri. Praefationis initium hoc est: الحمد لله الذى من علينا

\* Ita legendum videtur hoc cognomen, in ipso codice non distincte scriptum.

، ويسميت هذا الشرح الممتع في شرح Plinius exhibit ea nomen auctoris, fol. 2. r. lin. 5. 6.: محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن أحمد بن داود بن محمد بن بكر ابن يعزى السوسى المرغنى; quocum consentit Kraftius, die Handschriften der orient. Akad. zu Wien, p. 138. n. CCCXLV., nisi quod alterum cognomen effert: el-Merghischi. Ab ejusdem viri docti sententia in nomine quoque poematis efferendo recedimus, hoc commentario illustrati, legentes: الممتع في علم ائى مقرر. Incipit commentarius fol. 2. v. lin. 3., absolvitur fol. 75. v., ubi in fine paginae nomen demum commentario

imponit auctor: المقنع ومعناه انه يتعك اذا نظرت فيه مسایل من انعلم المقنع. Est igitur idem liber, quem descripsit Kraftius l. l. Commentarii brevioris, cui nomen المتلع على مسایل المقنع, notitiam supra dedimus sub N. LVI, 5. — Quae sequuntur fol. 76. r. et v., ad ipsum librum non pertinent; post precationem absolutae operae adjectam, ut videtur, a librario adduntur notulae nonnullae de variis ponderibus, de Romanorum mensibus cct., litterarum denique Syriacarum delineaturis.

## CODICES DE GEOGRAPHIA ET HISTORIA NATURALI IN UNIVERSUM.

### XCH.

(N. 25. in fol.; olim N. 39. in fol.)

*Compendium de rebus mundi mirabilibus*, cui nomen: تحفة الالباب وخبئة الاعجاب i. e. Donum cordibus oblatum et res mirabiles selectae, auctore *Abū 'Abd allāh Mu'hammed bin 'Abd er-Rā'him bin Suleimān bin Abi -rrebī' el-Qaisi el-Andalusī el-Gharnālī*; fol., foll. 30. chartae Europaeae, char. Africano recentiore manu satis bene scriptum. Praefatio incipit fol. 1. v.; capitulum index hic est: Fol. 2. v. cap. I.: في في صفة الدنيا وسكانها من انسها وجننها، fol. 5. r. cap. II.: في صفة عجائب البلدان وغرائب البنين، r. cap. III.: في صفة ابحار وعجائب حيواناتها وما يخرج منها من العنبر والغار وما في جزائرها من انواع النفط في صفة الحقايم والقبور. In fine codicis, fol. 29. r., librarius auctorem hunc librum conscripsisse narrat a. h. 420. (Chr. 1029.); sed id manifesto nititur errore, cum ipse profiteatur fol. 21. r. lin. 9., se in Aegypto versatum esse a. h. 512. (Chr. 1118.) Conf. praeterea *Hāg'i Chalfa*, vol. II. pag. 222. et

Herbelot s. v. *Tohfat alalbab u nokhbat alaa-giab.*\*) — Exaratus est codex noster a. h. 1187. (Chr. 1773.), mense ربيع الثنع. Foll. 29. v. 30. nihil habent scripti.

### XCH.

(N. 37. in 4to; olim N. 11. in 4to.)

*Compendium geographiae et historiae naturalis* notissimum, cui nomen: خريدة العجائب خريدة العجائب i. e. Margarita rerum mirabilium et unio rerum memoria dignarum; in 4to, foll. 213. chartae laevigatae, char. Neschi non male scriptum. Titulus libro praefixus, fol. 1. r., nomen auctoris hoc modo tradit: *Sirāg' ed-din Abū 'Hafs 'Omar bin Muzhaffar b. Mu'hammed b. 'Omar Abi -lfewāris Ibn el-Werdī el-Quraschī el-Bekrī*. Incipit praefatio fol. 1. v.; absolvitur liber fol. 213. r. Scriptus est mense Ramadhān a. h. 1031. (Chr. 1622.); librarii nomen منصور العطار. Conf. severum de hoc

\*) In Catal. Bibl. Goth. n. 304. corrigendum est الاحباب pro الالباب.

libro 'Häg'i Chalfae judicium, vol. III. pag. 132. sq. Vid. praeterea Wüstenfeld, Literatur der Erdbeschreibung bei den Arabern, in diario: Zeitschrift für vergleichende Erdkunde, herausgeg. von J. G. Lüdde, vol. I. pag. 55. sq.

### XCIV.

(N. 26. in fol.; olim N. 40. in fol.)

*Ejusdem libri apographum alterum*, fol., foll. 90. chartae Europaeae, char. Africano recentiore manu, eademque, ut videtur, qua codex noster XCII., satis bene scriptum. Praemittitur codici, fol. 2. r., notitia brevis, char. Rabbinico, sed lingua Hispanica scripta, quam h. l. char. Romano reddimus: "El nombre de este libro es el diamante bueno, onde esta el globo de todo el mundo, ciudades de tierra y de la mar, islas y todas cosas del mundo todo, bien claro, cosa por cosa." Subjungitur altera notitia, codicem XCII. spectans, olim cum hoc nostro uno volumine compactum, cujus haec fere sunt verba: "Tam bien esta en el otro libro, onde dice el auctor de dijo (?) se llama essech el fekih el imam Sidi Muhamed ben Abderechim ben Suleiman el Garnadi el Kaisi; Dios lo tenga en piedad! Amen." — Praefationi fol. 2. v. superscripta sunt haec: *هذه خريدة العجب (sic) في ذكر اقليم البلدان والبحور، والمخزور وغيرهم وبالله تعالى التوفيق*، Clauditur liber fol. 89. v.; absoluta est scriptio mense ربيع الثاني a. h. 1189. (Chr. 1775.)

### XCv.

(N. 38. in 4to; olim N. 53. in 4to.)

*Ejusdem libri apographum tertium*, ab initio mutilum; in 4to, foll. 225. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptum. Incipit codex, ut nunc est, fol. 2. r., ab his verbis, quae leguntur in editione Tornbergii\*)

\*) Fragmentum libri Margarita mirabilium auctore Ibn-el-Vardi, Prooemium, Caput II. III. IV. et V. continens. Pars prior, Upsal., 1835. 8vo.

fol. 5. lin. 7. a fine: ان الكتب الموضوعه، ita ut duo codicis folia intercideris videantur. In fine codicis, fol. 223. v.—225. r., post poëma illud de rebus ultimis, quod librum claudere solet\*), nonnulla adduntur, schahiludium spectantia, cum delineatione tabulae latrunculariae et poëmate, auctore انشريف بن الهبارية، de quo vid. 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 252. n. 5227.

### XCVI.

(N. 39. in 4to; olim N. 79. in 4to.)

*Flores selecti*, liber agens de rebus mirandis in terra marique; codex in 4to, foll. 158.\*\*) chartae Europaeae, char. Africano satis bene scriptus. Fol. 2. r. inscriptum legitur: "Ignoti auctoris epitome de admirandis maris et terrae. Arabice, ex Africa." Sed e catalogo libro, ex 'Häg'i Chalfa excerpto, auctorem esse discimus *Schems ed-d'num Mu'hammed bin Abi Talib el-Anszari*. Incipit libri praefatio fol. demum 11. v. et ab his quidem verbis: *الحمد لله فهذا كتاب سميته تخمة الزهر في عجائب المم والبحر يشتمل على علم هبسة الارض [واقليمها وتقاسيمها واختلاف القدماء في ذلك وعلاماتها ومعورها من البحار المتصلة والقائمة والنفصلة والجزاير والجمال والانهار* cet. Fol. 12. r.—16. r. indicatur libri divisio in novem capita et singulorum capitum in sectiones (فصول). Ipsi libro, incipienti fol. 16. r., passim additae sunt delineationes variae; interdum spatia, delineandis mappis geographicis destinata, vacua sunt relicta, ut fol. 25. v. 27. r. 32. r. et v. — Fol. 148. v. librarius negligens, vel potius fallax, a capitis septimi sectione septima saltu progreditur ad sectionem octavam capitis noni, quae est ultima libri. Fol. 151. r. adjicitur tabula mensium Arabicorum, Persicorum, Copti- corum, Syriacorum aliorumque; fol. 151. v. legitur clausula finalis tantum: انتهى الكتاب المبارك *حمد الله* cet. Folia, quae sequuntur, vacua sunt.

Aliud ejusdem libri exemplum recensetur in catal. Bibl. Richianæ, N. 308. (Fundgruben

\*) Conf. Fleischneri Catal. Bibl. Reg. Dresd. n. 102.

\*\*) Signata sunt codicis folia numeris 2—159.

des Orients, vol. IV. pag. 293.) Sed ibi impressum est: نخبة الدعر; mendose, ni fallimur. Ceterum catalogi ejus auctor lectorem ablegat ad Herbelotium; nobis vero non contigit reperire in Biblioth. orientali locum, ubi de scriptore nostro agatur. Susplicamur tamen ejusdem auctoris esse codicem Parisiensem illum, ex quo clar. Norberg exprompsit particulas nonnullas, de templis Solis, Lunae et Saturni apud Sabios; Lond. Goth., 1798. et 1799. 4to.

## XCVII.

(N. 40. in 4to; olim N. 42. in 4to.)

Auctoris anonymi *liber de geographia et historia naturali*, cui nomen: اندر المنصود في عجائب الوجود i. e. Margaritae bene ordinatae, liber agens de rebus mirabilibus mundi; codex in 4to, foll. 125.\*) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, ab initio et in fine mutilus; quamobrem fol. 1. r. superscriptum est: "Fragmentum operis geographici." Ab initio tamen unum tantummodo folium deesse videtur; ipsum certe fol. 1. et folii 2. initium in praefatione versantur, quae libri nomen, quod dedimus, exhibet et divisionem in sex capita indicat. Caputum recensensus hic est: cap. I. في ذكر المبدأ وشار الحليقة ووصف الارض وترتيبها وما في ذكر نurf cap. II. خص الله به كل جزو من اجزائها، مما على الارض من تسييد (تشبييد leg.) البنبان ومائير، والمعازات في سائر البلدان وعجائب الجبال والجزاير، cap. III. في ذكر الاحار وسعنتيا وتشعبينا من اصلها، في ذكر شى من عجائب انواع الحيوانات البريه والبحريه، cap. V. في ذكر نurf cap. VI. في ذكر الجوامع والاحجار، من عجائب الاشجار وخواصها، Subinde adjectae sunt figurae; alibi spatia reperiuntur vacua, illis delineandis destinata. Capitis sexti pars extrema desideratur, quae arbores plantasque, alphabetico ordine digestas, inde a littera ش

\*) Turbatus est a biblioepa foliorum ordo. Is post fol. 84. collocavit foll. 103—125; deinde foll. 95—102; tum foll. 87—94; denique foll. 85. 86.

complectebatur. Ultimum enim, quod adest, plantae nomen est شقايق النعجان.

## XCVIII.

(N. 41. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, cui titulus: تقويم البلدان لصاحب حماة، *Geographia Ismaël Abulfedae* etc.: descripsit ex autographo --, quod est in Bibl. Leidense, n. 57., Jo. Jac. Reiske. Mens. Sept. et Octobr. anni 1745. Leidae.\*) Notitias varias inscripsit Reiskius et margini hujus tituli et duobus foliis, numeris non signatis, quae titulum praecedunt. Sequitur deinde in dorso ejus folii, cui inscriptus est titulus, "Carmen ex cod. Seebischiano in Abulfedae geographiam." Innui videtur codex Biblioth. Reg. Dresd., n. 379. signatus. Folium sequens continet additamentum ad ipsius libri pag. 80. Textum Abulfedae Arabicum exhibent paginae sequentes 263., numeris signatae. In margine passim adjiciuntur notulae et collationes librorum MSS., maxime Parisiensis. Pag. 263. legitur in margine: "absolvi d. 23. Octobr. 1745. domi meae." Post interpositas paginas albas decem et paginam unam, ex Assemani Biblioth. orientali excerpta tenentem, sequuntur primum folia novem notarum marginalium, Arabice scriptarum, ad Abulfedae geogr. tabulas IX—XXIV. XXVII. XXVIII.; deinde initium indicis in Abulfedae geographiam, quod tamen ultra vocem جكل non procedit; folia denique nonnulla, annotationes varias continentia. — De hoc codice conf. Reiskens Lebensbeschreibung pag. 152. n. 1.

## XCIX. C.

(N. 42. et 43. in 4to; olim N. 3. et 4. in 4to.)

Volumina duo, in 4to, quibus continetur bona pars clarissimi *lexici geographici* معجم البلدان, auctore *Abū 'Abd allāh Jāqūt bin 'Abd allāh*.

\*) Vid. in Catal. Bibl. Lugd. impresso n. 1700.



Volumen prius est foll. 378. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non pulchre quidem, sed distincte scriptum. Fol. 2. r. haec legitur inscriptio male exarata: من معجم الأول من معجم البلدان لا -- (؟) ابي عبد الله ياقوت ابن عبد الله الرومي (sic) الاصل البغدادي المنشأ للمؤلف رحمه الله، Praefatio incipit fol. 2. v.; tractatus introductorius fol. 9. v. Dividitur is in quinque capita, quorum indicem hic subjungimus, e praefatione depromptum: cap. I. في ذكر صورة الارض، cap. II. في وصف اختلافهم في الاصطلاح على معنى الاقليم وكيفية واشتقاقه ودلائل القبلة في كل ناحية، الفاظ يكثر تكرار ذكرها فيه يحتاج الى معرفتها كالبريد في بيان. cap. IV. والفارسوخ والمبل والكورة وغير ذلك، حكم الارضين والبلاد المفتوحة في الاسلام وحكم قسمة الفقى في جمل من. cap. V. والفراج فيما فتح صلحا او عنوة، اخبار البلدان التي لا يختص ذكرها بموضع دون موضع لتكمل فوايد هذا الكتاب ويستغنى به عن غيره في الباب، Lexici pars prima, continens litteram Hamza, incipit fol. 34. v.; sed abrumpitur illa fol. 200. r. in descriptione urbis Antiochiae (انطاكية). Sequuntur deinde partes eae, quae continent litteram ذال (inde a fol. 201. v.), ر (206. v.), زاي (292. r.) et سين (fol. 326. r.); haec vero abrumpitur fol. 377. v., ubi ultimo loco agitur de السقى.

Volumen posterius, eadem manu scriptum, duabus partibus constat, quarum prior est foliorum 171., posterior foll. 216. Fol. 2. r. legitur titulus: المعجم الثاني من معجم البلدان تأليف الجيزي -- ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الاصل الحموي ف. a. المولى رحمة الله عليه، Fol. 2. v. incipit littera Lacuna exstat fol. 21. v., ubi interrupta est lin. 9. descriptio pagi فريبيط; initium vero fol. 22. r. versatur in describenda فرخشا. Fol. 57. r. sequitur littera قف, quae absolvitur fol. 171. v. Quam partem excipere debebat كتاب الكاف; sed praeter ipsam hanc inscriptionem nihil adest. Annotavit infra b. Adlerus: "Hic deest litera ك et initium litterae Mem." Adde, quod littera quoque لام omnino deest. — Alterius partis titulus, fol. 1. r., hic est: العاشم

et. من \*) كتاب معجم البلدان تأليف الاجل ياقوت Fol. 1. v. sequitur pars litterae ميم, incipiens a nomine مكا; deinde litterae نون (fol. 50. v.), و (126. r.), ها (164. r.) et يا (192. v.) integrae. Secundum subscriptionem finalem, fol. 216. r. et v., totum opus absolutum est Halebi die vicesimo mensis Szafar a. h. 621. (Chr. 1224.); sed haec ad nostrum codicem non referenda, verum ipsius auctoris sunt verba, a librario e codice, quem secutus est, huc translata. Obiit Jâqûtus a. h. 626. (Chr. 1229.)

## CI.

(N. 44. in 4to.)

Codiculus chartaceus, in 4to, paginarum 20., char. Neschi manu b. P. Lemmingii scriptus, *fragmenta nonnulla de Nigritia tenens*, excerpta e codice aliquo, ut videtur, Seetzeniano. In summa enim pag. 1. supra textum Arabicum legitur: "Kahira 1808. U. J. Seetzen." Quae nostrum apographum continet, haec sunt: primum index capitum XXVIII., de terra et rebus Nigritarum agentium; capiti primo inscriptum est: الباب الاول في ذكر من يتنسب اليه ، السودان، Deinde sequuntur excerpta breviora e capitibus I. II. IV—VI. VIII. IX. XII—XIV. X. et XI.; uberiora e capp. XVI—XIX. In media pag. 20. abrumpitur codex post inscriptionem capituli XX.: الباب العشرون في ذكر شعرائهم ، ومن تمثل منهم بشعر،

## CH.

(N. 45. in 4to.)

Codex chartaceus, in 4to, paginarum 55., char. Neschi manu ejusdem Lemmingii scriptus, excerpta tenens e codice Parisiensi *de geographia Africae septentrionalis*. Titulus, quem vernacula lingua libro praefixit vir doctus, hic est: "Om Nordafricas Geographie, udskrevet ved Doct. P. Lemming af N. 1635. i Pariser-

\*) Addita sunt a secunda manu verba: العاشم.

Bibliotheket. 1818—1819." Quae leguntur inde a pag. 3. usque ad finem pag. 44., respondent codicis Paris. foliis 28. v.—104. v., ubi is desinit. Initium est post Bismelam: ذكر بلاد افريقية وحدها ولم سميت افريقية. Sequuntur deinde pag. 45—53. excerpta e codicis Paris. foliis 9. v.—28. v.; pag. 53—55. e codicis foll. 1. r.—9. v. In fine pag. 55. Danice annotatur: "Cober i folio, moggrebiff Skrist, ilde medtaget af Tiden, Vand og Orme, etc. Uden Begyndelse og Ende. Bladetallet er 104. r. og v. Har nok hørt til Arias Montanus's Samling, efter Bindet at slutte" cetera. Annotationes quoque per multae Danice scriptae, codicis Paris. lectionem spectantes, textum comitantur. In fine voluminis adjectum est folium unum, quinque lineas tenens, quae scripturam codicis illius accurate imitantur.

### CHL.

(N. 46. in 4to.)

Codiculus chartaceus, in 4to, paginarum 25. praeter titulum et additamentum ad pag. 9., char. Neschi a b. Lemmingio scriptus, *descriptionem itineris per Africam septentrionalem* continens, ab homine, cujus nomen nos latet, a. h. 688. (Chr. 1289.) suscepti. Titulum praefixit Lemmingius, Danice scriptum: "En Reise fra Fes til Alexandrien, udskreven ved Doct. P. Lemming af No. 1738. i Escorial-Bibliotheket. A. 1819." Incipit pag. 1. his verbis: وحدها الرحلة بدات بتقيدها في تلمسان --- كان سفرنا --- في الخامس والعشرين من ذي قعدة عام ثمانية وثمانين وستماية ومبده (sic) من حاحة\*) صانها الله وكان طريقنا

\*) nomen est provinciae regni Maroccani; vid. Høst Efterretninger om Marokos, pag. 67. sq. (vers. Germ.

على بلاد القبلة cetera. Post absolutum librum, pag. 24. med., adicitur brevis descriptio codicis Escorialensis 1738., char. Africano scripti, unde deprompta sunt, quae praecedunt; sed non indicatur quo numero signetur ille in catalogo Casiri impresso. Pag. 25. denique habes excerpta e praefatione libri, quae tamen de auctore ejus certiores nos non faciunt. Fortasse suspicari fas est, codicem illum a Casirio describi vol. II. pag. 165. n. 1733., auctoremque esse ابو محمد العبدري البلسي.

### CIV.

(N. 27. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 12. in 4to.)

*Fragmentum descriptionis Hispaniae*, auctore ignoto; codex in fol., foll. 43. \*) chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi manu, ni fallimur, Michaëlis Szabbagh scriptus. Incipit fol. 1. r. a capite primo, cujus haec est inscriptio: انبأ الاول في وصف جزيرة الاندلس وحسن هوايبا واعتدال مزاجها ووفور خيراتها واستوايبا واشتمالها على كثير من الخاسن واحتوايبا وكرم بقعتها التي سقنتها سما انبركات بنافع انواعها وذكر بعض مآثرها الجلوة الصور وتعداد كثير ما لها من البلدان وانكور المستمدة من انواعها, Desinit codex fol. 45. v. in fine capitis illius. Adjecta sunt folia nonnulla alba, quorum ultimo inscripsit clar. Silvestre de Sacy: "Fragmens extraits d'une Description de l'Espagne. 6 cahiers."

pag. 70.); Graberg von Hemsö, das Sultanat Moghribul-Aksä, übers. von A. Reumont, pag. 6.

\*) Signata sunt ea numeris 1—30. 32—40. 42—45.

## CODICES DE HISTORIA ANIMALIUM.

## CV. CVI.

(N. 47. et 48. in 4to; olim N. 45. et 46. in 4to.)

*Ed-Demirî de vita animalium* opus majus, alphabetico ordine digestum; volumina duo, in 4to. Volumen prius est foliorum 402. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptum. Fol. 1. r. legitur titulus: الجزء الأول من حياة الحيوان الكبرى\* للشیخ الدمیری رحمه الله تعالى، Post praefationem (fol. 1. v.) incipit littera Hamza (fol. 2. r.) a descriptione leonis, quem honoris causa ceteris animalibus praeponendum duxit auctor. Pergit hoc volumen usque ad finem litterae Sin, fol. 401. v.\*\*)

Volumen posterius, foliorum 588. chartae laevigatae, multo melius scriptum est et incipit fol. 2. v. a littera Schîn; absolvitur fol. 585. v. Docet subscriptio totum opus ab auctore Muhammed bin Mûsa bin 'Isâ bin 'Alî ed-Demirî esse absolutum mense Reg'eb a. 773. (Chr. 1372.); apographum nostrum ad finem perductum a. 1142. (Chr. 1730.) ab A'hmede fil. Abû -lcheir.

\*) Vox الكبرى recentiore manu addita est, deprompta fortasse ex utriusque voluminis subscriptione finali.

\*\*) Non deest in exemplo nostro historia Chalifarum, s. v. أوز inserta; vid. P. de Gayaugos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. XXVII.

De Demirîo et utraque vitae animalium editione, majore et minore, vid. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 122. sq.; Wüstenfeld, Geschichte der arab. Aerzte und Naturforscher, pag. 154. sq. Conf. praeterea indicem omnium animalium, de quibus agit editio major, apud Hammerum, Wiener Jahrb., vol. LXVI. Anzeigebblatt, pag. 35. sqq., et quae idem vir doctus annotavit in ejusdem diarii vol. C. pag. 74.

## CVII.

(N. 49. in 4to.)

Codiculus chartaceus, in 4to, paginarum 16., manu b. Lemmingii scriptus. Titulus primae paginae inscriptus hic est: "1. *Liber camolorum* et 2. *Liber ovium*, auctore Adsmâi. (Om Kamelernes og Faarenes Naturhistorie.) Udskevne af N. 1700. i Escurial-Bibliotheket ved Doctor P. Lemming. A. 1819." Pag. 3. incipit: كتاب الابل عن ابي سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي، liber ovium, auctore *Aszma'e*; clauditur is pag. 7. — Sequitur pag. 8.: كتاب الابل عن ابي سعيد عبد الملك بن قريب الاصمعي، liber camolorum, auctore eodem, usque ad pag. 15. Adjiciuntur pag. 16. notulae nonnullae, a Lemmingio Danice scriptae, de reliquis libris Arabicis, quos continet idem codex Escurialensis. Cf. Casiri Biblioth. vol. II. pag. 157.

## CODICES DE MEDICINA.

## CVIII.

(N. 24. in 8vo; olim N. 28. in 8vo.)

*Libellus de sanatione prompta*, auctore clarissimo medico Abû Bekr Muhammed bin Zakarijjâ er-Râzî; in 8vo, foll. 13. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus. Fol. 1. r. inscriptus est titulus: كتاب بکرو ساعة للشیخ العارف بالله تعالى أبو بكر

محمد بن زکریا الرازی فی علم الطب رحم الله مولفه امین، Praefationis initium, fol. 1. v., hoc est: الحمد لله مستحق الحمد كما عوا اعله والصلاة cet. Dividitur libellus in XXV. capita, quorum primum incipit fol. 2. v. lin. 7. Sed codex in fine mutilus desinit in medio capite XXIV., fol. 13. v. Cf. Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte und Naturf., pag. 43. n. 9.

## CIX.

(N. 50. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, paginarum 368. Titulus paginae primae inscriptus hic est: "Liber medicus في كتاب زاد المسافر في علاج الادواء التي تعرض في الجسد، *Zad el Mosaferi seu 'Ephodia tou apodh-mouvtros* vel *Viaticum Peregrinantis*, auctore Abi Ga'far Ahmado, filio Ibrahim, filii Abi Chaledi, arabice ex codice msto Seebischiano, sed eo non optimae notae, foliorum 302., descripsi. Jo. Jac. Reiske." Incipit ipse liber pag. 3., absolvitur pag. 359. Subscriptionem adjecit Reiskius, quae sequitur: "Incepi Dresdae ineunte Augusto et absolvi Lipsiae d. 11. Sept. 1747. — In his desinebat codex Seebischianus fol. 303. p. 1. A fol. 303. p. 2. incipiebat liber Arabicus كتاب عمل العظريات liber de praeparatione odoramentorum, quem nolui describere. Continuabat is ad finem usq. codicis, id est ad pag. 2. fol. 339. adeoq. implebat fere fol. 37." — Sequitur pag. 360—362. index capitum, quem cl. Seebisch codici suo adjecerat; pag. 363—368. ejusdem Seebischii notae de hoc libro ejusque versione Graeca.

De ipso auctore, quem *Ibn el-G'ezsar* appellare solent, mortuo post a. h. 400. (Chr. 1099.), atque de ejus libro vid. Wüstenfeld, *Gesch. der arab. Aerzte und Naturf.*, pag. 60. sq.; *Häg'i Chalfa*, vol. III. pag. 528. Conf. *Fleischer Catal. codd. Bibl. Reg. Dresd. n. 209. Reiskens Lebensbeschr.* pag. 158.

## CX.

(N. 51. in 4to; olim N. 48. in 4to.)

Clarissimi medici *Davidis Antiocheni liber memorialis cordatorum et collectio mirandorum*, 4to, foll. 443. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, ab initio paululum laesus. Praefationis initium, fol. 2. v.: ساجانك مبدع مواد الكابيات بلا مثال سبق، نomen, quod libro imponit auctor, hoc est: تذكرة اوى، الالباب والجامع للحجب العجباب، Dividitur in intro-

ductionem, quattuor capita et coronidem; sed caput quartum, singulos morbos ordine alphabetico persequens, in hoc nostro codice, ut in aliis plerisque, ultra litteram ط non procedit; reliqua desunt. Incipit introductio fol. 3. v.; cap. I. fol. 8. r.; cap. II. fol. 17. r.; cap. III. fol. 31. r.; cap. IV. fol. 306. v. Absolvitur quod adest fol. 442. v. Vid. de hoc libro ejusque mutilatione *Häg'i Chalfa*, vol. II. pag. 260. sq. Cf. *Wüstenfeld*, l. I. pag. 158.

## CXI.

(N. 52. in 4to; olim N. 64. in 4to.)

Auctoris anonymi *tractatus de re medica*, qui vocatur *Quaestiones Schihäbicae*, 4to, foll. 78. chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Initium praefationis, fol. 1. v.: الحمد لله الذى خلق اخلوات بقدرته وعلم الانسان ما لم يعلم بحكمته، Narrat auctor, hunc tractatum, cui nomen: رسالة المسائل الشيبائية (sic) في الصناعة، compositum esse in gratiam bibliothecae domini Schihäb ed-din A'hmed bin 'Isä, Halebi dynastae; indeque procul dubio libri nomen repetendum est. Dividitur in octoginta capita, quorum index habetur fol. 1. v.—3. v. Absolvitur caput ultimum fol. 78. r.; additur subscriptio: فهر كتاب مسائل الرسالة الشيبائية، في علم الصناعة الخبيبة، Scriptum est apographum nostrum a. h. 1095. (Chr. 1684.) mense Rebi' priore.

## CXII.

(N. 28. in fol.; olim N. 20. in fol.)

*Ibn Gazlae liber pharmacologicus* clarissimus, cui nomen: منتهي النبين فيما يستعمله الانسان، i. e. *Via regia explicationis*, liber agens de iis, quibus uti solet homo; in fol., foll. 307. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi magno bene scriptus. Libri titulum exhibet fol. 1. r., sed subjungitur, quod ad rem non pertinet: وهو ايضا من مفردات ابن البيطار نفع الله به امين امين،

— Auctoris nomen in codice nostro non deprehendimus, notatur vero in altero, quod sequitur, ejusdem libri apographo. Integrum nomen, de quo dissentiunt viri docti, videtur fuisse: أبو علي يحيى بن عيسى ابن جزلة. Vid. Wüstenfeld, *Gesch. der arab. Aerzte und Naturf.*, pag. 84. sq. Conf. Silvestre de Sacy, *chrestom. Arabe*, 2e édit., vol. I. pag. 268. sq. — Praefationis initium idem est, quod ex 'Häg'i Chalfa dedit de Sacy. Recensus medicamentorum alphabeticus incipit fol. 15. v., absolvitur fol. 307. r., ubi adjicitur subscriptio finalis; scriptionis annus non indicatur. Folia 1—20. et ultimae tres paginae alia manu scripta sunt, atque reliqua libri pars.

### CXIII.

(N. 53. in 4to; olim N. 63. in 8vo.)

*Ejusdem libri apographum alterum*, in 4to, foll. 340. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Fol. 1. r. inscriptus est titulus: كتاب منہاج البیان\* لابن جزلة (sic) في منہاج البیان صناعة الطبيب الفاضل يحيى بن جزلة (sic). Praefatio incipit fol. 1. v.; recensur medicamentorum fol. 20. r.; absolvitur liber fol. 339. v. Subscriptio docet, scriptum esse hoc apographum in usum Mu'hammedis ejusdam, fil. Chalili, a librario أحمد النديميسي عمر بن أحمد, et ad finem perductum mense Schawwāl a. h. 1039. (Chr. 1630.) Fol. 340. annotata sunt nonnulla, e scriptis Rāzii excerpta.

### CXIV.

(N. 54. in 4to; olim N. 70. in 4to.)

*Tabulae pharmacologicae*, auctore, si librario fides habenda, *Ibn el-Beitār*; codex in 4to, foll. 116. chartae laevigatae, char. Neschi di-

stincte scriptus. Titulus inscriptus est fol. 2. r.: كتاب الطب لرئيس الحكماء للشیخ الفاضل بن البیتار فنعنا الله بعلمه وبركاته آمین. Praefatione hic liber caret; sequuntur enim inde a fol. 2. v. tabulae, quibus medicamentorum ratio et usus breviter exponuntur. Varii, quos quaeque tabula persequitur, tituli hi sunt: النوع، الماعية، الادوية، المنفعة في أعضاء الرأس، القوة، المزاج، الاختيار، منفعة في، منفعة في أعضاء الغدا، منفعة في آلات النفس، كمية ما يستعمل منه، كيفية استعماله، جميع البدن، عدد الادوية، بدنه، اصلاحه، مضرتة. Disponuntur varia medicamenta secundum ordinem alphabeticum, qui vocatur اجد. Primum, de quo agitur, est انرج، ultimum غالية، fol. 115. r. Pauca in fine desiderantur. Dispositione et tota ratione abhorrent hae tabulae a majore illo *Ibn el-Beitār* opere, quod vocatur: جامع مفردات، الادوية والاعذية، ideoque nobis quidem veri simile non videtur, utrumque librum ejusdem esse scriptoris.

### CXV.

(N. 55. in 4to; olim N. 38. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 79. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, usu aliquantum tritus. Continet is:

I. Librum, qui vocatur: اندرة المنخبة في الادوية الحبرية، i. e. *Margarita selecta*, liber agens *de medicamentis probatis*, laudatum ab 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 211. sq., et Naszro, fil. Naszri, auctori adscriptum. Ab ejus tamen sententia recedit is, qui codicem nostrum scripsit eique fol. 1. r. hunc titulum praefixit: كتاب الادوية (الندرة) المنخبة في الادوية الحبرية والصناعات المستغربة (المستغربة) (leg. المستغربة) والاعمال الحسنه المقربة (sic) تالیف القاضي العالمر العلامة الورع الزراعدي بكر محمد (cet. \*) Praefationis initium, fol. 1. v., idem est, quod dedit 'Häg'i Chalfa;

\*) Reposuit secunda manus البیان; antea scriptum erat: الدكان.

\*\*) Verba في الطب a secunda manu addita.

\*) Corrigendum videtur: ابن بكر بن محمد بن بكر. Infra hunc titulum annotatum est: "Ex bibliotheca Erici Rosencrantz."



Ex hoc apographo Reiskiano Eichhornius in libro, qui inscribitur: Monumenta antiquiss. hist. Arabum, edidit genealogias Arabum (p. 61—148. Eichh.), historiam regum Gassaniorum (p. 150—171.) et historiam regum Hirae (p. 178—203.); de quibus conf. Schnurreri Biblioth. Arab. pag. 160. sq. Aliam ejusdem apographi particulam (cod. nostri p. 297—303.) edidit J. L. Rasmusen in additamentis ad hist. Arabum ante Islamismum, p. <sup>va</sup>—<sup>af</sup>.

## CXVII.

(N. 56. in 4to.)

*Ejusdem libri apographum alterum*, in 4to, quod e Reiskiano accurate descripsit Joh. Bernh. Köhler, partim, ut annotavit in ipso titulo, pag. 1., Lipsiae a. 1763. mense Aprili, maximam vero partem, a pag. 100., Lubecae mensibus Augusto et Septembre a. 1780. Praemittuntur titulo eadem notitiae, quas suo apographo praefixerat Reiskius; ipse liber continetur paginis 3—319., ubi in fine legitur: "Absolvi ipse Lubecae d. 6. Octobr. 1780."

## CXVIII.

(N. 57. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, historici maxime argumenti. Continet enim:

I. *Excerpta e Mas'ûdii pratis aureis*, et capita quidem I—VIII. X. et XI. integra, capitum vero XII—XIV. partes; quae paginas occupant 104., notis passim auctas. Praecedit etiam Index in Mas'ûdium foliorum 16. De hac codicis parte conf. Reiskii Prodidagmata, pag. 235.; de cod. Lugdunensi n. 1730., quo videtur usus esse Reiskius, vid. Hamakeri Specimen Catal. Bibl. Lugd. pag. 46. Conf. praeterea quae annotavit Guil. Cureton in Catal. Codd. Orient. Musei Brit. parte II. pag. 142. Sequuntur:

### II. *Excerpta de rebus medicis*, foll. 12.

Pag. 1. in superiore parte marginis haec leguntur: في الطب النبوي "Collectanea medica Levini Warneri." Constant ea capitibus duobus, in sectiones LIX. divisiv; sed multa in fine omituntur, neque de auctore libri nobis constat. Multi enim sunt de medicina prophetica scriptores, ut videre licet apud Hâg'i Chalfam, vol. IV. pag. 131. sq., et in Catal. Bibl. Lugd. impresso liber ille, quem exscripsit Reiskius, non videtur recenseri. Excerpta de medicina prophetae alia excipiunt de simplicibus cet. Annotavit Reiskius in fine, fol. 12. r.: "d. 21. April. 1746."

III. Claudunt volumen *Excerpta e libro: طبقات الشافعية* i. e. *Classes Schâfi'itarum*, auctore Tâg' ed-dîn 'Abd el-Wahhâb Ibn es-Subkî, quae Reiskius descripsit e cod. Lugdunensi duorum voluminum, n. 1860. catalogi impressi; vid. ejus Prodidagmata, pag. 237. Conf. praeter Hâg'i Chalfam, vol. IV. pag. 139—143., Hamakeri specimen catal. Bibl. Lugd. pag. 173. not. 605.

Reiskius excerptis suis inscripsit: "Particula exigua ex as-Sabakeo. Obiit anno 755;" sed erravit vir doctissimus et in efferendo hujus scriptoris nomine, et in indicando mortis anno. Diem enim obiit Ibn es-Subkî a. h. 771. (Chr. 1370 $\frac{2}{3}$ .); anno vero 756., aut fortasse 755., pater ejus; vid. Hâg'i Chalfa, vol. I. pag. 143. n. 19. F. Wüstenfeld, die Academien der Araber, pag. 40. sq. Post titulum sequitur in apographo nostro Reiskiano Index "auctorum, quos citat as-Sabakensis," nomina 47 enumerans. Deinde in foliorum 38. parte anteriore scripta sunt excerpta e primo volumine operis Ibn es-Subkî; pars posterior versioni adjiciendae fortasse erat destinata. Post interposita nonnulla folia alba incipiunt excerpta e tomo secundo, sed ultra tertiam paginam non continuantur. — Ceterum de hoc codice nostro vid. Reiskens Lebensbeschr., pag. 160. n. 16.

## CXIX.

(N. 26. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, cui hunc titulum praefixit Reiskius: كتاب فيه تاريخ الامم تاليف حمزة بن الحسن الاصمعياني *Hamzah Ispahanensis Rationarium Temporum*, quo successiones regum Persarum, Romanorum, Graecorum, Judaeorum, Aegyptiorum, Lachmitarum, Gassanidarum, Kenditarum, Koreischitarum, Chorasanicorum etc. traduntur; e codice msto Bibliothecae Leidensis n. 767. legati Warneriani descripsit Jo. Jacob Reiske." Infra scriptum est: "Codex pro principe quodam videbatur scriptus fuisse, tam grandi, pulchro et magnifico caractere erat exaratus. Modo aequae bene et accurate fuisse scriptus, quam pulchre fuit. Multum etiam ab aqua et putredine passus erat;" et e regione tituli vir doctissimus annotavit: "Hunc librum is demum recte intelliget, qui Persice callet. Mihi in multis obscurus ideo est, quod non calleo." — Non tamen integrum hic habes illius libri apographum, sed excerpta tantum, quae paginas implent 157. Adsunt post praefationem capitis primi pars maxima, secundi pars exigua; capita VI. VII. et IX. integra; decimi partes. Conf. Reiskii Prodidagmata, pag. 230. sq. In fine libri legitur: "Absolvi Leidae d. 14. Septembr. 1745." Adjicitur "Index in Ibn Hamzah Ispahanensem"; sic enim per errorem scripsit Reiskius. Ceterum vid. Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 41.

Ex apographo Reiskiano capita VI. VII. IX. et decimi sectiones I. et II. publici juris fecit J. L. Rasmussen in libro, qui inscribitur: *Historia praecipuorum Arabum regnorum ante Islamismum*. Haun., 1817. 4to. Integrum librum e codd. Lugdunensi et Habichtiano edidit I. M. E. Gottwaldt. Petrop. et Lips., 1844. 8vo.

## CXX.

(N. 27. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, continens:

I. *Excerpta e clarissimo libro* *مراة الزمان*

auctore *Schems ed-din Abū -Imuzhaffar Jūsuf bin Qara 'Alī sibt G'emāl ed-dīn Abī -Ifereg' ibn el-G'ausī*. Reiskius inscripsit pag. 1.: "Excerpta ex libro *Abil Muthaffari Jusuf el Gjuzi* *مراة الزمان* seu *Speculum Temporum* dicto, spectantia historiam Muhammedis maxime. Ex codice Leidense Warneriano n. 973. (Catalogi p. 480. n. 1750.)" Haec excerpta paginas tenent 3—81.; vid. Reiskii Prodidagmata, pag. 234. Conf. praeterea Mölleri Catal. Bibl. Goth. n. 239. Curetoni Catal. Codd. Orientt. Musci Brit., P. II. pag. 145. — Adjiciuntur recensensus scriptorum, ab auctore libri laudatorum, et "Index in *الجزى*".

II. Posteriorem codicis partem occupat *apographum partis lexici geographici*, auctore *ez-Zamachscharī*. Titulum inscripsit Reiskius pag. 1.: *كتاب الجبال والامكنة (sic) والامياه تصنيف الشيخ الامام ابي اسحق \** *القاسم محمد بن عمر الزمخشري رحمه الله*, Postmodum addidit: "Est liber non magni momenti aut usus. Habui a cl. Abraham Gronovio." Incipit textus Arabicus pag. 3.; abruptitur pag. 51., ubi agitur de *شاجب*. De hoc libro vid. Hamakeri Specimen catal. Bibl. Lugd., pag. 113. sqq. Wüstenfeld, *Literatur der Erdbeschr. bei den Arabern*, in diario: *Zeitschrift für vergl. Erdkunde*. Vol. I. pag. 40. — Praecedunt apographum Reiskianum et recensensus auctorum vel poetarum, quos citat Zamachscharius, et index geographicus. — Codicis nostri fit mentio in libro: *Reiskens Lebensbeschr.* pag. 165. n. 35.

## CXXI.

(N. 29. in fol.; olim N. 8. in fol.)

*Compendium historiae dynastiarum*, auctore Gregorio, filio Aharonis, Primate Orientis, quem Arabes vocant *Abū -Ifereg'*; fol., foll. 169. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Folio, numero non signato, quod codici praemittitur, inscriptum est: *تاريخ مختصر*

\* Super vocem *أصحق* Reiskius scripsit: "delendum".



الدول. Fol. 1. v. incipit ab ipsis praefationis verbis primis: الحمد لله (leg. لله) الاول بلا بدايه ، Clauditur liber fol. 169. r., ubi habes subscriptionem librarii, حسين بن حسن القسطلوني بلاد (بلدا) الرومي مختدا (sic) المقيم بدار الغربية والخيرة ، والكربة بمنزل الموني حسن افندي ، qui operam absolvit mense G'umâda priore a. h. 1074. (Chr. 1663.), eodem anno, quo prodiit Pocockiana hujus libri editio. In margine ejusdem paginae alia manû adscripta est brevis notitia vitae Gregorii, cui haec praemittuntur verba: وجد في بعض النسخ من هذا الكتاب بخط الشيخ الامام خاتمة الحفاظ قاضي القضاة شمس الدين بن خلکان ما صورته . Quibuscum comparanda sunt quae de codice suo narrat Pocockius in praefatione, pag. 2. sq., et quae contra eum monuit J. S. Assemanus in Bibl. orient. vol. II. pag. 266. not. Pocockium, quae in codice repererat, fideliter retulisse, jam quidem certum est; sed num jure notitia illa de vita Gregorii tribuatur Ibn Challikâno valde dubium esse videtur. Is enim mortem obiit a. h. 681. (Chr. 1282.), Gregorius vero librum suum ad finem non perduxit ante a. 683.; unde concludere licebit, annotationem illam biographorum Arabicorum clarissimo temere adscribi. — Ceterum de Gregorio vid. Assemani Bibl. orient. vol. II. cap. XLII., ubi de historia nostra dynastiarum maxime agitur pag. 309—311.

Hunc codicem Qâhiraë emit b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, Th. II. pag. 43. n. 31.

## CXXII.

(N. 58. in 4to)

Codex Reiskianus, in 4to, continens Reiskii apographum ejus partis *Annalium Abulfedae*, quae versatur in *historia Islamismi*. Paginae 1. superscriptum est: "Abulfedae Annales Moslemici"; quae verba excipit textus Arabicus, qualem ex hoc ipso apographo \*) edidit b. Ad-

\*) Dissecta sunt codicis folia in commodiorem typographi usum.

lerus. Occupat is paginas 1029.; in fine legitur: "absolvi d. 29. Maji 1749." Adjiciuntur notae marginales, criticae maxime et ab Adlero partim e codicis nostri appendice huc translatae, cui Reiskius inscripsit: "J. J. R. Notae Criticae ad textum Arabicum Abulfedae". — Conf. de hoc codice Reiskens Lebensbeschr. pag. 152. sq. n. 4. \*) et Adleri praefatio in Annales Muslemicos.

## CXXIII.

(N. 30. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 9. in fol.)

Codex in fol., foll. 33. chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi manu, ni fallimur, Michaëlis Szabbâgh scriptus, continens *Excerpta e Prolegomenis historicis Ibn Chaldâni*. Praemittuntur folia duo, numeris non signata, quorum alteri inscripsit b. Silvestre de Sacy: "Extraits des Prologomènes historiques d'Ebn Khaldoun. 4 cahiers. fol." Textus Arabicus incipit fol. 1. v. ab ipso praefationis initio: يقول العبد الفقير بسم الله الح , يقول العبد الفقير --- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي وفقه الله تعالى ، الحمد لله الذي له العزة والجبروت وبيده الملك ، cet. Fol. 3. r. incipit tractatus introductorius: المقدمة في فضل علم التاريخ ; fol. 11. v. liber primus: في طبيعة العمران ; cet. Hujus libri sectio prima (انفصل الاول في العمران البشري على الجملة ) ، sex مقدمات complectens, maximam codicis partem occupat, usque ad finem fol. 30. \*\*) Quae sequuntur fol. 31. 32. tres exhibent sectiones (فصول) , quae pertinent ad ejusdem libri primi sectionem (majorem) quintam \*\*\*). —

\*) Alterum ejusdem libri apographum Reiskianum, anno 1745. scriptum, cujus mentio fit ibidem, n. 3., Adlero concesserat Ill. Suhmius et jam asservatur in Bibliotheca Univ. Kiliensis. — Reiskii Notae philologicae, Index Arabicus et versio Latina adsunt in Bibl. Reg.

\*\*) Respondent haec iis, quae apud clar. de Hammer (Journ. Asiatique, Tom. I. 1822. pag. 270.) sunt partis primae libri primi capita sex.

\*\*\*) Apud Hammerum (l. l. pag. 276.) capita 24—26. libri quinti.

Conf. clar. de Hammer in Wiener Jahrb. vol. LXVIII. Anzeigbl. pag. 39. sq. Catal. Codd. Orient. Mus. Brit. Pars II. pag. 144. sq.

### CXXIV.

(N. 31. in fol; olim N. 23. in fol.)

Notissimum *Ibn Schihnae opus historicum*, in fol., foll. 154. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب روضة المناظر في علم الاوابيل والاواخر تأليف الشيخ الامام العار العلامه ابو (sic) الوليد محمد بن النديين ابن محمد ابن الشحنة الحنفى الذى رحمه الله تعالى، "Chronicon Ibn Schechna, e Codice msto DOrvilliano descripsit Jo. Jacobus Reiske. Leidae, mense Januario 1745. Collatus cum cod. msto Bibl. Leidensis." Textus Arabicus occupat folia 1—344., ita tamen, ut in parte anteriore tantum uniuscujusque folii scriptus, pars aversa vero collationi codicis Bibl. Lugd. destinata sit. Adjicitur fol. 354—368. "Appendix seu supplementa longiora e Codice Leidense, quae suis locis commode inseri nequibant." — Conf. Reiskii Prodidagmata pag. 230. n. 3. Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 34.

محب الدين; quocum consentire videntur codices Parisiensis 617., Vindobonensis (apud Kraffium, Handschriften der orient. Akad., n. CCXLIII.) et Hammeri (Wiener Jahrb. vol. LXVIII. Anzeigbl. pag. 52. sq.); apud Hâg'i Chalfam vero vol. III. pag. 491. sq., ipse vocatur زين الدين, filius autem ejus محب الدين; idemque pro روضة المناظر habet روض المناظر. De divisione libri vid. quae recte docuerunt Hâg'i Chalfa et Herbelotius s. v. Schohnah, a quibus recedens doctissimus Kraffius verendum ne inciderit in errorem. — Secundum subscriptionem finalem, fol. 154. v., absolutus est codex noster die Veneris, 12mo mensis G'umâda posterioris a. 833. (Chr. 1430.), h. e. duodevicesimo post mortem auctoris anno\*); scriptus برسم العبد الفقير - - زين الدين خصم بن شرف الدين موسى المستوفى بالملكه الخويمة بدولة ملك الامرا جلجان الاسنى\*\*) ووالده كان لطف الله به. — De hoc libro conf. quae congescit clar. Guil. Cureton in Catal. Codd. Orient. Mus. Brit. Part. II. pag. 146. sq.

Codicem nostrum Qâhirae emit b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, Th. II. pag. 41. n. 23.

\* Errant Herbelotius, de Gayangos alique, mortem ejus referentes ad a. h. 883.

\*\* De lectione vocabuli الاسنى certi non sumus.

### CXXV.

(N. 28. in 8vo.)

*Ejusdem libri apographum* Reiskianum, in 8vo, char. Neschi bene scriptum, sed ita, ut libri initium sit more Europaeo ad sinistram. Praemittitur codici post folium unum, variis notitiis impletum, titulus: كتاب روضة المناظر في علم الاوابيل والاواخر للعلامه قاضى القضاة ابى انوليد محب الدين ابن محمد ابن الشحنة الحنفى الذى رحمه الله تعالى، "Chronicon Ibn Schechna, e Codice msto DOrvilliano descripsit Jo. Jacobus Reiske. Leidae, mense Januario 1745. Collatus cum cod. msto Bibl. Leidensis." Textus Arabicus occupat folia 1—344., ita tamen, ut in parte anteriore tantum uniuscujusque folii scriptus, pars aversa vero collationi codicis Bibl. Lugd. destinata sit. Adjicitur fol. 354—368. "Appendix seu supplementa longiora e Codice Leidense, quae suis locis commode inseri nequibant." — Conf. Reiskii Prodidagmata pag. 230. n. 3. Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 34.

### CXXVI.

(N. 59. in 4to; olim N. 13. in 8vo)

Liber historiarum, cui nomen: كتاب الجمان في مختصر اخبار الزمان, i. e. *Liber margaritarum, compendium historiarum* auctore *Schihâb ed-dîn Ahmed el-Maqarrî el-Fâsi*; in 4to, foll. 232. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Titulus fol. 1. r. inscriptus hic est: كتاب تاريخ الجمان في مختصر اخبار الزمان تأليف العلامة محقق الزمان وفريد العصر والاوان مولانا الشيخ شيبان الدين امقرى\*) انغاسى نغمده الله برحمته امين.

\*) Sic h. l. scribitur cum duplici Râ; quod confirmat pronuntiandi modum, quem secuti sunt clarissimi viri Steph. Quatremère et J. de Hammer. Derivandum hoc cognomen, a nomine loci Arabico مقرة. Conf. tamen quae disputavit Pascualis de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. 301. sq., a nomine Barbarico Maqra vel Maq-

piunt praefatio et sectio prima fol. 1. v.; sectio secunda fol. 71. r.; tertia fol. 138. r. Subscriptio, quae legitur fol. 232. r., docet, scriptum esse codicem nostrum manu محمد بن حاج درويش بن الشيخ فتح الله بن السبائي a. h. 1054. (Chr. 1644.) Vid. de hoc libro praeter Herbelotium s. v. Giumman et Möllerum in Catal. Bibl. Goth. n. 319., notitiam uberiorem, quam dedit Ill. Silvestre de Sacy, Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblioth. du Roi, vol. II. pag. 124—163.\*)

Codex Qahirae emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, Th. II. pag. 41. n. 22., ubi tamen perperam clarissimo scriptori historiae Nûr ed-dini et Szalâ'h ed-dini, Abû Schâme Damasceno, hic liber adscribitur.

## CXXVII.

(N. 60. in 4to; olim N. 50. in 8vo.)

*Ejusdem libri sectio prima*, in 4to, foll. 118. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Neschi recentiore et ad Africanum accedente, in regno Maroccano, ni fallimur, sed parum accurate exarata. Incipit praefatio fol. 1. v., sectio prima fol. 2. r.; clauditur eadem fol. 118. r., ubi legitur: كمل بحمد الله - وهو مختصر أبي (sic) الفضل الاول (sic) شقرة cet. Unde hauserit librarius nomen ابن شقرة, nobis non liquet, neque magis, quemnam significet anni mensem, adjiciens codicem esse absolutum die 27mo ببيع من النبوي a. h. 1175. (Chr. 176½.)

qara deducens cognomen el-Maqri vel *el-Maqqari*. Alii scriptorem nostrum vocant الشاطبي المغربي; vid. Mölleri Catal. Bibl. Goth. n. 319.; Hammer in Wiener Jahrb. vol. XCIX. pag. 19., et quae annotavit P. de Gayangos, the Hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. XXIV.

\*) In libri titulo ibi pro مختصر في legitur مختصر من; nomen auctoris de Sacyus pronuntiabat *Almokri*. Vixit is secundum eundem medio saeculo nono a fuga, quod verius nobis videtur, quam quod legitur in Catal. Codd. Musei Brit. Part. II. pag. 163., obiisse eum a. h. 1041. (Chr. 163½.)

## CXXVIII.

(N. 61. in 4to; olim N. 9. in 8vo.)

Liber historicus, cui nomen: اخبار الدول، i. e. *Historia dynastiarum et monumenta rerum priorum*, auctore Abû -l'Abbâs *A'hmed bin Jusuf bin A'hmed ed-Dimaschqi*; codex in 4to, foll. 300.\*) chartae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, optimae condicionis. Fol. 1. r. legitur titulus, notitiam hujus libri exhibens, ex Hâg'i Chalfa petitam; vid. edit. Flüg. vol. I. pag. 186. Tradit is e G'enâbii (الجنابي) libro excerptum esse hunc nostrum, significans sine dubio amplissimum illud opus: البحر الزخار والعيلم التنيار, quod ipse recenset vol. II. pag. 18. — Praefationis initium, fol. 2. v.: الحمد لله على تصارييف العبر عند سماع التواريخ والسير، Tractatus introductorius incipit fol. 3. r.; caput I. fol. 12. r. Caput recensum dedit J. L. Rasmussen in Annalium Islamismi praefatione pag. IV. sqq.; versionem capitum XLV—LIII. Latinam, in eodem libro pag. 61—134. Capituli ultimi sectio ultima (fol. 240. r.—299. r.) compendium lexici geographici continet. Secundum epilogum auctoris (fol. 299. r. v.) ad finem perductus est hic liber primo die mensis Mu'harrem a. h. 1008.\*\*\*) (Chr. 1599.) Exemplum nostrum absolutum est mense Schawwâl a. 1169. (Chr. 1756.), et a b. von Haven Qahirae emtum; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 40. n. 15. — Ex his, quae diximus, corrigendus ex parte Herbelotius s. v. Akhbar al doval u athar al oval et s. v. Damaschk. Conf. praeterea Mölleri Catal. Bibl.

\*) Signata sunt ea numeris 1—9. 9b. 10—299.

\*\*) Eundem annum exhibent codices Bodlejanus n. 771. et Musei Brit. n. 284., similiterque Hâg'i Chalfa auctorem tradit hunc librum composuisse a. 1007., mortuum esse a. 1009. Sed cum liber ipse referat res gestas a. h. 1018., errorem subesse suspicamus, ita ut pro 1008. (1007.) scribebendum sit 1018. (1017.), quod habet Rasmussen, et pro 1009. similiter 1019., quod dedit Curetoa.

Goth. n. 318. Cureton in Catal. Codd. Orient. Musei Brit. Part. II. pag. 147.

## CXXIX.

(N. 62. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, *Excerpta historica* continens e *Nuweirii Encyclopaedia Arabica*, cujus notitiam uberiorem dedit Reiskius in Prodidagmatis, pag. 232. sqq. Titulus libro a Reiskio praefixus hic est: "Caput quartum sectionis quartae tomi quinti magni operis نهاية الآداب في فنون الآداب *Nuweirii*, agens *de rebus gestis Arabum ante Muhammedem*. Descripsi Lugduni Batavorum mense Julio anni 1741." Attamen plus continet codex, quam quod promittit inscriptio. Adsunt enim et caput IV. et V., quod utrumque ipse Reiskius a se exscriptum profitetur in conspectu Encyclopaediae Nuweirii, I. I. pag. 234. Textus Arabicus occupat paginas 106. Incipit cap. V. (في أيام العرب) pag. 35. — Adjiciuntur "Index in Nuweirii Historiam Arabiae" et notitiae nonnullae, Reiskii manu scriptae.

Capitis quarti eam partem, quae agit de ruptura catarrhactae Marebensis publici juris fecit Reiskius in libro, quem edidit de Arabum Epocha vetustissima Sail ol arem. Lips., 1748. 4to. — Idem capitis quinti partem Latine vertit et inseruit libro suo, qui inscribitur: "Primae lineae historiae regnorum Arabicorum", qui in Bibliotheca nostra asservatur, manu auctoris scriptus.\*) Eam versionem in usum suum convertit J. L. Rasmussen in conscribendo libro de historia praecipuorum Arabum regnorum ante Islamismum, pag. 81—100., ut ipse professus est in praefat. pag. V. sq.

\*) Errat enim doctissimus F. Wüstenfeld, qui hunc librum ex apographo Gottingensi nuper edidit, autmans in Biblioth. Regia non ipsum librum inveniri, sed collectanea tantum, quibus in componendo illo usus sit Reiskius. Est idem omaino liber, quem hic habemus, et quem edidit Wüstenfeldus; sed qualis erat, Reiskius eum edere volebat.

## CXXX. CXXXI.

(N. 32. et 33. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. n. 1. et 2. in fol.)

Opus historicum, *de vita maxime Mu'hammedis Prophetae* agens, adjecta tamen brevi de successoribus ejus narratione, auctore 'Husein bin Mu'hammed b. el-Hasan ed-Dijarbekri; volumina duo, in fol. Volumen prius foliorum est 257. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum. Fol. 1. r. legitur: الجلد الاول من الخميس في احوال نفس نفيس للدياربكري، الحمد لله الذي خلق. Praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذي خلق. نور نبية قبل كل اوايل. De divisione libri vid. 'Hag'i Chalfa, vol. III. pag. 177.\*) Subsistit volumen prius fol. 257. v. in fine capitis tertii partis tertiae (الموضع الثالث من الركن الثالث), i. e. in fine anni tertii a fuga Mu'hammedis; incipit ab anno quarto volumen secundum, quod est foliorum 357., alia manu, minus eleganter, sed magis distincte scriptum. In fine fol. 357. v. legitur subscriptio: انتهى الى هنا تأليف شيخنا مولانا حسين الدياربكري الخفي نزيل بلد الله الحرام — وهو الجز [و] اثنا من سير النبي صلعم واسمه كتاب الخميس، — Conf. de hoc libro doctissimus Weil, in praefatione libri: Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre, pag. X. sqq.

\*) 'Hag'i Chalfa in libri titulo pro نفس نفيس habet: النفس النفيس، contra codicum, ut videtur, omnium auctoritatem. Idem pro الخميس alios pronuntiare tradit خميس، quod ipsum Möllerus dedit in Catal. Bibl. Goth. e codice 279. — Auctorem librum suum absolvisse contendit H. Chalfa a. h. 940. (Chr. 1534.), mortuum esse circa a. 966. (Chr. 1558.); quod si verum est, succinctae successorum Prophetae Historiae pars extrema, quae usque ad mortem Sultani 'Usmânicî Selimi II., a. h. 932. (Chr. 1574.), pertinet, ut ipse H. Chalfa commemorat, ab alio scriptore adjecta est; conf. O. de Platea in praefatione libri: Geschichte der Tödtung des Chalifen Omar, (Berl., 1837. 8vo.) pag. IX. — Exstat opus nostrum in Bibl. Reg. Paris. n. 635.; pars extrema videtur contineri in cod. Goth. n. 326. Corruptus est titulus apud P. de Gayangos, the Hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. XXIV.

## CXXXII.

(N. 34. in fol.; olim N. 15. in fol.)

*Ejusdem operis volumen prius*, in fol., foll. 373. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptum. Fol. 1. r. legitur: تاريخ للميسى الذى اشتريته من تركة اسماعيل بيك في -- (\*). Infra possessoris alicujus nomen inscriptum est, similiterque fol. 2. r. Praefatio incipit fol. 2. v., omisso tamen initio, ejus partem dedimus e codice praecedente, ita ut h. l. prima verba sint: اما بعد فيقول -- حسين بن محمد الح. Desinit codex fol. 373. v. in medio capite quinto partis tertiae, quod enarrat res gestas a. h. 5. Ultima codicis verba haec sunt: مروياتها في الكتب المتداوله سبعة احاديث منها في البخارى حديث وفي مسلم حديثان والباقيه في سائر الكتب, Subscriptae erant lineae nonnullae, nunc erasae, quarum loco aliam subscriptionem adjecit eadem manus, qua docemur exaratum esse codicem nostrum mense Ramadhân a. h. 1009. (Chr. 1601.) ab على بن عمر العاملى بلدا الصكرأوى وطننا الشافعى مذهباً.

## CXXXIII.

(N. 35. in fol.; olim N. 12. in fol.)

*Pars historiae Islamismi*, auctore ed-Dehebi; codex in fol., foll. 262. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi magno et distincto scriptus. Hujus operis amplissimi, duodecim volumina complectentis, quod in enarrandis virorum Islamismi illustrium vitis versatur, haec est, ut non dubitamus, pars prima. Integrum libri nomen exhibere videtur inscriptio fol. 1. r.: للجزء ال -- (\*\*). من تحفة الانام في تاريخ الاسلام, للعلامه الذهبى نفعنا. Quod in ejusdem paginae superiore parte ad sinistram legitur: تاريخ الاسلام vel تاريخ الذهبى. Vulgo tamen hic liber vocatur vel تاريخ الاسلام. — Quod in ejusdem paginae superiore parte ad sinistram legitur: الجزء الاول, id non totius operis partem primam indicare debet, sed quinternionem primum, cujus

tamen maxima pars interiit, superest exterior tantum, codicis, ut nunc est, fol. 1. et 2., octo foliis interpositis olim separata, cum quibus ipsum libri initium periiit. Folio tamen 1. v. alia manu, mediocriter exercitata, postmodum praefationis pars suppleta est. Incipit ea ab his verbis: الحمد لله الغنى الشكور القوى الصبور, Sed finis paginae non cohaeret cum iis quae sequuntur fol. 2. r., ad vitam 'Omari Chalifae pertinentibus. Fol. 3. primum est quinternionis secundi (الجزء الثانى). Fol. 6. r. sequitur vita 'Uthmâni Chalifae, quam excipiunt fol. 12. v.: حديثاً; fol. 13. v.: الزبير ابن العوام; 16. v.: طلحة ابن عبيد الله; 20. r.: سلمان الفارسى; 25. v.: وأويس ابن عامر, et sic porro. Ultima, quae hoc volumine continentur, vitae sunt: fol. 256. r.: ابو الوليد عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن ابي العاص ابن ابو عثمان; 261. v.: أمية ابو العباس الاموى النهدى البصرى. Fol. 262. r. finis voluminis notatur his verbis: تم الجزء من \* تاريخ الاسلام. Ab-solvit codicem nostrum librarius بن عيسى البابلى بلدا الشافعى مذهباً (\*\*), mense Scha'bân a. h. 998. (Chr. 1590.)

Auctoris nomen integrum est: شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز التركمانى الفارقى الدمشقى (\*\*\*) natus est a. h. 673. (Chr. 127 $\frac{1}{2}$ ), mortuus a. 748. (Chr. 134 $\frac{1}{2}$ .) Vitam ejus ex Ibn Schuhbae طبقات edidit Ferd. Wüstenfeld in libri Clasi-sium virorum, qui Korani et traditionum cognitione excelluerunt, Part. II. in dorso tituli; alteram, a scriptore anonymo concinnatam, in ejusdem libri Part. III. pag. 68. sq. Conf. praeterea 'Häg'i Chalfa, vol. II. pag. 131. sq. et quae con-gessit Guil. Cureton in Catal. codd. Musei Brit. Part. II. pag. 171., ubi tamen mortis annus videtur corrigendus.

\*) Non contigit eruere quae proxime sequuntur.

\*\*) Deletus est numerus, qui h. l. scriptus erat, ut faleretur emtor libri mutili.

\*) Erasae sunt quae antea scriptae erant, ubi nunc leguntur verba: تم الجزء من.

\*\*) Non liquet quid h. l. scriptum sit.

\*\*\*) Apud 'Häg'i Chalfam legitur المصرى.

## CXXXIV.

(N. 36. in fol.; olim N. 2. in fol)

*Ibn Challikāni de vitis virorum illustrium* opus clarissimum, in fol., foll. 442. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptum. Praemittitur codici fol. 1. r.—6. r. index alphabeticus virorum, quorum vitae sequuntur.

Titulus, fol. 6. r. inscriptus, hic est: كتاب وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان تأليف الشيخ — قاضي القضاة شمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلکان النشافي رحمه الله تعالى. Praefatio incipit fol. 6. v., littera Hamza fol. 7. r. Singula virorum illustrium nomina in margine quoque notantur, passimque notae adjiciuntur. Folia 174. et 175. supplementa duo continent, non eadem manu scripta, ad vitam Weziri ابو القضاة الحسن على — بن فرات (apud Tydemanum, in conspectu operis Ibn Chalicani, n. 498.), fol. 173. v. Folia 389—395., quae non sunt compacta, supplementum exhibent ad fol. 397., ubi agitur de vita clarissimi ابواليث يعقوب بن ابي يوسف الصغار. Scripta sunt haec eadem manu, qua fol. 175. Folio 396. nihil est inscriptum. In fine fol. 441. r. notatur, apographum nostrum absolutum esse mense Scha'bān a. h. 1018. (Chr. 1699.), manu محمد انور بن محمد بن ابي بكر بن خلکان اصلًا لى مولدا ومنشأ. Adjecit deinde, fol. 441. r.—442. v., eadem manus, quae exaravit foll. 175. et 389—395., vitam Ibn Challikāni. — A dispositione editionis, quam curavit Ill. Mac Guckin de Slane, codex noster haud raro recedit; finem voluminis primi ejus editionis habes in codicis fol. 242. r. lin. 9. a fine. Aliam editionem paravit cl. Wüstenfeld Goettingensis, qui idem de fontibus Ibn Challikāni docte disputavit in diario: Göttinger gelehrte Anzeigen, a. 1837. St. 110—115. Conf. praeterea de Hammer in Wiener Jahrb., vol. LXXII. Anzeigeb. pag.

\*) Sic recte, ut nobis quidem videtur, in margine hoc cognomen notatur vocali Fa'lu.

1. sqq.; Cureton in Catal. Codd. Musei Brit. Part. II. pag. 172. sqq.

Codex Qāhirae emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis liter. Briefwechsel, Th. II. pag. 39. n. 7.

## CXXXV.

(N. 37. in fol.; olim N. 32. in fol.)

*Compendium historiae Chalifarum*, auctore Abū Muḥammed Isma'il bin 'Alī bin Isma'il el-Chuṭabī; in fol., foll. 58. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi antiquo haud male exaratum. In ligaturae parte interiore scriptum est: "Compendium historiae Calipharum, Auctore Abi Mohamed Ismael Ebn Ali Ismael II Chutbi\*) seu Praedicatorum." Fol. 1. r. legitur titulus, recentiore manu exaratus: تأليف سيد محمد أبى محمد اسمعيل بن على ابن سيد احمد ابن سيد باددش (sic) الزنبيلى\*\*). Et priora quidem verba auctoris nomen indicant, decurtatum ex inscriptionibus, singulis libri partibus praefixis; posteriora vero nomen ejus, qui codicis archetypum exaravit, truncatum et corruptum exhibent. Inscriptio partis primae fol. 2. r. haec est: [و] الاول من كتاب مختصر تاريخ الخلفاء تأليف ابى محمد اسمعيل بن على بن اسمعيل الخنطى، quibus deinde subjunguntur haec verba: روايه ابى انقسم عبيد الله بن عثمان بن جبى بن حنيفة (جنيقا leg.: عنه روايه ابى الحسين محمد بن احمد بن محمد بن على الابنوسى عنه روايه ابى غائب احمد بن الحسن بن احمد بن عبد الله بن ابنا عنه روايه ابى انور عبد والمعبث بن زهير بن زهير الخرنى عنه، قرأه على نحو سماع على الشيخ ابى غائب احمد بن الحسن ابنا الشيخ اذليل النعام ابو محمد ابراهيم بن الشيخ اذليل انقبيه ابى الحسن على بن

\*) Legendum est el-Chuṭabī; vid. librum Lubb el-lubāb, ed. Veth, s. v. Et sic quoque scriptum est codicis fol. 19. r. in inscriptione partis secundae, et fol. 58. v. in testimonio adjecto.

\*\*) Ita scriptum esse videtur; sed fortasse legendum est: الزنبيلى.

محمد بن المبارك بن بكرس "بلغه الله محابه وكتب عبد المغيث بن زهير بن زعيم عفا الله عنه قرا الكتاب جميعه واجزت له ان يروى عنى جميع ما يجوز روايته من ساير العلوم وما اجازنى اسماخى (استنادى?) على الشرح المعروف بين اهل العلم في ذلك الحمد لله وصلوته على سيدنا محمد واله ابدا والكتاب من نسخته اربعة اجزا وفي من الاصل جزان ،

Inscriptiones similes praefixae sunt reliquis libri partibus, fol. 19. r. 36. r. 52. r. In his tamen series doctorum, qui discipulis suis hanc historiam tradiderunt, augetur nomine Ibrahimī b. 'Alī b. Mu'hammed b. el-Mubārek b. A'hmed b. Bekrūs, cujus manu codicis nostri archetypum scriptum erat, ut e subscriptionibus singulis libri partibus adjectis elucet. De consilio, quod secutus est in scribendo hoc compendio, auctor el-Chuṭabī in praefatione fol. 2. v. profitetur haec:

هذا كتاب مختصر من كتاب الخلفاء وتاريخ اوقانيم ومدممهم واعمارهم وانسابهم وصفاتهم مجرّدا دون سيرهم واخبارهم واعوانيم فان ذلك في الكتاب الكبير مرسوما واسقننه حاجنا ليقرب متناولوه ويسهل حفظه وقد ذكرت في اخره ولاة العبود الذين لم يلوا الامم ومن يجرى مجراهم ممن رشح الامم ولم يبلغه ، Divisus erat hic liber in archetypo in duas partes, in codice vero nostro complectitur partes quattuor, quarum prima, fol. 2. v.—18. r., proedit a nativitate Prophetae usque ad Chalifam 'Abd el-Melik b. Merwān; secunda, fol. 19. v.—35. r., ab el-Welid b. 'Abd el-Melik usque ad Chalifam el-Mu'tamid 'alā-llāh. Pars tertia continet historiam Chalifarum ab el-Mu'tadhīd billāh usque ad a. h. 339., regnante Chalifa el-Muti' lillāh, fol. 36. v.—41. v., et caput de ولادة العبود quod promiserat praefatio, fol. 41. v.—51. r. Et hoc quidem caput in archetypo primum fuerat partis secundae. Pars quarta denique, fol. 52. v.—58. r., uno constat capite, cui inscribitur: باب

ذكر من ظهر من الطالبيين ويومع له بالخلافة في دولة العباسيين ،

Scriptum erat archetypum Ibrahimī b. 'Alī mensibus Schawwāl et Āl-lqā'de a. h. 580. (Chr. 1185.) eidemque adjuncta erant testimo-

nia varia de collationibus cum aliis libri exemplis institutis, partim a. h. 582. et 648. scripta, et in codice nostro accurate reddita.

## CXXXVI.

(N. 63. in 4to; olim N. 22. in 4to.)

*Historia Chalifarum*, auctore *G'elāl ed-dīn 'Abd er-Rāḥmān bin Abi Bekr es-Sujātī*; codex in 4to, foll. 323. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Fol. 2. r. librarius inscripsit libri titulum: كتاب تاريخ الخلفاء تصنيف الشيخ -- جلال الدين ابى الفضل عبد الرحمن ابن الشيخ -- كمال الدين السيوطى انشأفى -- ، بسم الله ، اما بعد حمد الله الذى وعد فوقى واوعد فعفى ، Sequitur introductio in historiam Chalifarum, ubi agitur de successione, ab ipso Propheta non constituta; de Imāmīs e gente Qureischidarum, eorumque Chalifatu; de dictis Prophetae gentes Umajjadarum et 'Abbāsidarum spectantibus; de pallio Prophetae cet. Deinde fol. 16. v.—317. r. Chalifarum historiam persequitur auctor ab Abū Bekro usque ad Chalifam el-Mutevekkil 'alā-llāh, mortuum a. h. 903. Subjunguntur indicatio fontium, e quibus plurima hausit\*), carmen auctoris de historia Chalifarum et compendium historiae Umajjadarum in Hispania, 'Ubeididarum, dynastiae 'Alidicae Ṭabāṭabā et dynastiae Ṭaberistanensis. Post adjectam annotationem bonae frugis (فائدة) absolvitur liber fol. 322. r., scriptus mense Āl-lqā'de a. 1015. (Chr. 1607.) Addita est fol. 322. v. 323. r., alia manu exarata, de Sulṭāno 'Uṯmānīco Selīm Schāh notitia discipuli Sujātīi nostri, cui nomen جبرامرد الناصرى الحنفى ،

Vitam Sujātīi, ab ipso conscriptam, publici juris fecit Alb. Meursinge in Prolegomenis ad

\*) Hunc fontium indicem Hammerus dedit in Catal. Codd. Biblioth. Ambros. (Bibliot. Italiana Tom. 94.) pag. 37. sq.

Sojuttii librum de interpretibus Korani, Lugd. Bat. 1839. 4o., pag. 4. sqq. Praeterea de hoc libro conf. 'Häg'i Chalfa, vol. II. pag. 128.; Cureton in Catal. Codd. Orientt. Musei Brit. Part. II. pag. 151. sq.

## CXXXVII.

(N. 64. in 4to; olim N. 93. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 145. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptus, continens narrationem expugnationis Mesopotamiae, Armeniae et regni Persici, aliarumque rerum, regnantibus Chalifis 'Omar et 'Uṣmān a Muhammedanis gestarum, quam vetustissimo scriptori *el-Wāqidi* adscribere solent Orientis eruditi. Idem fit in codice nostro, ubi non solum in folio, numero non signato, quod ipsi libro praemittitur, annotatum est: فتوحات عراق للواقدي، verum etiam in limine libri, fol. 1. v., post Besmelam legitur: قال الواقدي رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه جماعة أئمة سنة ثمانمائة وعشرين من الهجرة\*) cet. Hujus codicis pars haud exigua, fol. 1. v.—66. r., Germanice prodiit Hamburgi, a. 1847., et prior quidem sectio, quae versatur in enarranda expugnatione provinciae *Diāriyya*, usque ad codicis fol. 44. r., versa a viro immortalis B. G. Niebuhr, C. F.; altera de expugnatione provinciae *Diāriyya*, usque ad fol. 66. r., opera editoris doctissimi A. D. Mordtmann, Hamburgensis. Is quoque notitiam codicis uberiorem et indicem eorum, quae continet, praefationi inseruit, pag. IX. sq. Ultima codicis verba, fol. 145. r. et v. haec sunt: وثي تلك السنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقر الفتح بحمد الله ومته الخ،

\*) Insigni errore *el-Wāqidi* h. l. dicitur usus esse magistro Jūnus bin 'Abd el-'Alā a. h. 28. Jūnus enim ille, ipso *Wāqidio* junior, mortuo circa a. 207., natus est a. h. 170., diem obiit supremum a. 264 Adde, quod oppidum *er-Remle* sub finem demum saeculi post fugam primi conditum est.

Arabice e cod. Goettingensi particulam narrationis de expugnatione Mesopotamiae, codicis nostri foliis 1. v.—16. r. respondentem, edidit clar. G. H. A. Ewald, Gott., 1827. 4o. Conf. praeterea de *Wāqidio* librisque, qui sub ejus nomine feruntur, Hamakerum in praefatione libri, cui titulus: Incerti auctoris liber de expugnatione Memphidis et Alexandriae, vulgo adscriptus *Abou Abdallae Mohammedi Omari filio, Wakidaeo, Medimensi*. Lugd. Bat., 1825. 4o.; Curetonum in Catal. Codd. Orientt. Musei Brit. Part. II. pag. 148. sqq.)\*

Codex noster *Qāhira* emtus est a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 29. (30.)

## CXXXVIII.

(N. 65. in 4to; olim N. 12<sup>a</sup>. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 118. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet is narrationem de expugnatione oppidi *Behnesa et superioris Aegypti*, cujus auctor esse dicitur *Abū 'Abd allāh Muḥammed el-Muqri\*\*)*. Titulus libro praefixus fol. 1. r. hic est: كتاب فتوح بينسا وما وقع له من الحروب مع النجاشية لابن عبد الله محمد المقرئ غفر الله له. Initium libri, fol. 1. v., post Besmelam: الحديث في فضائل بينسا ذكر بعض المفسرين أن الله cet. Subscriptio finalis legitur fol. 117. r. atque docet scriptum esse hoc apographum a. h. 1106. (Chr. 169 $\frac{1}{2}$ .) Ad-jicitur fol. 117. v. 118. r. carmen, cui inscri-

\*) Eadem, quae codex noster complectitur, in codice Musei Brit. 287. reperiri videntur inde a fol. 49. v. usque ad finem codicis, et in cod. 302. extremis verbis atque codicibus 303—305.

\*\*) Sic enim vulgo pronuntiant; num recte, dubitare fas est. Ill. Cureton in Catal. Musei Brit. dedit: al-Maccari; eos tamen homines omnes, qui vocantur *المقرئ*, ab eodem Africae oppidulo originem ducere, quod nomine Barbarico appellari dicitur *Maq-qara*, vix veri simile videtur.



bitur: ، استغفار إلى مدين رحمہ اللہ تعالیٰ ، in fine notatur: تمت تجید ،

De hoc libro conf. Hamaker in praefatione libri de expugnatione Memphidis et Alexandriae, pag. X.; Cureton in Catal. Codd. orient. Musei Brit., Part. II. pag. 150. codd. 209—302.; Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 814. 815.; Catal. Bibl. Goth. n. 355, 2. 405.; de Hammer in Catal. Bibl. Ambros. (Bibliot. Ital. Tom. 94.) pag. 36. sq.

Codicem nostrum Qahirae comparavit b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 25.\*)

### CXXXIX.

(N. 66. in 4to; olim N. 17. in 4to.)

*Historia urbis Mekkae*, cui nomen: تحفة الكرام باخبار البلد الحرام، i. e. Historia urbis sanctae, munus hominibus generosis oblatum, auctore Taqijj ed-din Muhammed bin A'hmed b. 'Alī el-Hasani el-Fāsi el-Mekki; codex in 4to, foll. 172. chartae orientalis laevigatae, scriptus char. Neschi antiquo et punctis diacriticis plerumque destituto. Fol. 1. r. in superiore parte paginae annotatum est: ، تاريخ مكة ، infra legitur: كتاب تحفة الكرام باخبار البلد الحرام ، تصنيف الشيخ الامام العالم العلامة --\*\*-- مفتى المساعير [المشاهد؟] قاضي القضاة السيد الشريف تقى الدين الى --\*\*-- محمد بن احمد ابن على الحسنى القاسى الملكى الملكى (†) هكذا ، اداہ اللہ بنفع بقوايدہ امين ، مكتوب في نسخته المؤلف بخط الحافظ ولى الدين الى زرعہ . — Narrat auctor in praefatione, cujus initium fol. 1. v. aliquid damni perpersum est, condidisse se amplissimum de

historia urbis sanctae opus, quattuor volumina complectens, cui titulus: العقد الثمين ، في تاريخ البلد الامين ، quod, cum nimiae molis esse videretur, ad dimidium fere ambitus se reduxisse, novoque libro nomen dedisse: عجالة ، انقرا للراغب في تاريخ ام القرى ، e tractatu denique introductorio libri majoris ipsum hoc compendium se collegisse in modum historiae urbis Mekkae, editae ab Imāmo Abū -l-Welid Mu'hammed bin 'Abd allāh b. A'hmed b. Mu'hammed el-Azraqi el-Mekki. Dividitur compendium nostrum in XXIV. capita, quorum primum incipit fol. 3. v. Subscriptio finalis, fol. 172. v., narrat librum ab auctore ad finem esse perductum a. h. 812.\* (Chr. 1409.), ita tamen, ut ad limandum per annum eundem atque insequentem incubuerit. Codex noster exaratus est a. 851. (Chr. 1447.)

Cum iis, quae e praefatione deprompsimus de origine et divisione hujus libri, non consentit 'Hāg'i Chalfa, vol. II. pag. 237. IV. pag. 55. Conturbasse videtur, quae legerat in eadem praefatione; divisionem tamen in capita XL. Casirius quoque profert e cod. Escorial. n. 1763. Veriora videntur, quae tradit 'Hāg'i Chalfa vol. IV. pag. 228. sq., s. v. العقد الثمين, nisi quod es-Sachāwium, ibi laudatum, in aestimando voluminum numero erravisse manifestum est. Vid. etiam vol. IV. pag. 184. s. v. عجالة القرى. 'Hāg'i Chalfam maxime secutus est Herbelotius s. vv. Tohfat alkeram beakhbar balad alharam et Schafa algaram fi tarikh alharam. Conf. praeterea Uri in Cat. Bibl. Bodl. n. 748. et Hamaker in specimine Catal. Bibl. Lugd. pag. 192. not. 641.

### CXL.

(N. 67. in 4to; olim N. 2. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 226. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptus, con-

\*) Liber ille, qui codici nostro annexus esse dicitur in hoc catalogo librorum, a b. von Haven coëntorum, nunc ab eo sejunctus, infra describetur sub N. CXLIX.

\*\*) A tineis erosum est, quod h. l. scriptum erat.

\*\*\*) Nobis non constat, quomodo legendum sit nomen, quod hic scriptum est.

†) Ita legendum videtur, sed scriptio non est perspicua.

\*) Apud Casirium legitur a. 817., vol. II. pag. 172.

tinens *historiam expugnationis terrae Jemen* per 'Uṣmānidas. Praemittuntur folia duo, numeris non signata, quorum priori inscriptum est: كتاب البرق اليماني والغتج العثماني للقطنى, "Historia Regni Jemen". De hoc libro vid. 'Hāg'i Chalfa vol. II. pag. 44. sq. et notitia uberior, quam dedit clar. Silvestre de Sacy (Notices et Extraits des MSS. de la Biblioth. nat. vol. IV. p. 412—521.) Et haec quidem editio prior est, Sultāno Selim II. inscripta. Auctoris nomen secundum 'Hāg'i Chalfae editionem Flūgelianam et Curetonum in Catal. Codd. Orient. Musei Brit. Part. II. pag. 158. est: Qutb ed-din Muḥammed bin 'Almed el-Mekki; secundum Silvestre de Sacy vero: Qutb ed-din Muḥammed bin Muḥammed el-Mekki. Mortuum esse tradit 'Hāg'i Chalfa a. 988.\* (Chr. 1580.) Praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذى ، الحمد لله الذى نصر الدين الحنيفى (sic) بصرام و سنان (\*\*). Nomen libri in praefatione fol. 3. r. eodem modo exhibetur, ut supra dedimus; apud 'Hāg'i Chalfam et Silvestre de Sacy legitur: البرق اليماني فى الغتج العثماني. Caput primum incipit fol. 5. v. In fine, fol. 225. r., adjicitur subscriptio, quae hunc cōdicem absolutum esse docet mense G'umādā priore a. 1004. (Chr. 1596.) ab أحمد بن على بن علم الدين البوصيرى بلدا الأزهرى و سنان الشافعى ، مذهبها. — Subjunguntur fol. 225. v. 226. r. et v. char. Nesta'liq et alia manu scriptae litterae ad Sultānum Selim datae, quae in fronte gerunt haec verba: عذة صورة كتاب السيد مطهر (?). — Ceterum conf. Catal. Bibl. Goth. n. 246. et Rasmussen in praefatione ad Annales Islamismi pag. VIII. sq.

\*) Curetonus l. I. mortem Qutb ed-dini refert ad a. 998., et in MS. 'Hāg'i Chalfae, quod in Museo Brit. asservatur, a. 979. reperisse se annotat.

\*\*) Significatur nomen clarissimi Sinān Pāschā, expugnantoris terrae Jemen, qui ad scribandam hujus belli historiam Qutb ed-dinum excitavit.

## CXLI.

(N. 68. in 4to; olim N. 63. in 4to.)

*Historia urbis Zebid*, auctore Weg'ih ed-din 'Abd er-Rāhmān bin 'Alī, vulgo *Ibn er-Rebi* dicto, mortuo a. h. 944. (Chr. 1533.); codex in 4to, foll. 89. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi punctis diacriticis saepe destituto mediocriter exaratus. Fol. 1. r. legitur: بغية المستفيد فى اخبار مدينة زيد لشيوخ الامام : العلامة انهمام حافظ اليمين وعلمه اقتدار سيف بن ذى بزن "Historia urbis Sabid." De hoc libro vid. 'Hāg'i Chalfa vol. II. pag. 61. E codicis nostri apographo, quod transcripserat clar. Freytag, b. C. T. Johannsen composuit librum suum, cui titulus: *Historia Jemanae*. Bonn., 1828. 8vo.\* Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله رب العالمين ، العالمين الذى علمنا ما لم نكن به عالمين ، Caput primum incipit fol. 3. v. Subscriptio finalis, fol. 87. r., absolutum esse docet codicem nostrum mense Rebi' priore a. 1063. (Chr. 1653). Subjungitur fol. 87. v. 88. r. poēma, cui inscribitur: هذه القصيدة من كلام عمرو بن العاص ، Alia adjiciuntur, alia manu scripta, fol. 88. v. — 89. v., quae non magis huc pertinent: بيان عدد جميع حديث الكتاب الجامع الصحاح من تاليف ابي عبد الله محمد بن اسمعيل البخارى رحمة الله عليه ،

## CXLII.

(N. 69. in 4to; olim N. 88. in 4to.)

*Historia regni Halebensis*, cui nomen: اندر i. e. Margaritae selectae, liber agens de historia regni Halebensis, auctore Abū-lḥasan 'Alī bin Muḥammed el-G'ibrinī, vulgo *Ibn Chatib en-Nāszirijje* dicto et mortuo a. h. 843. (Chr. 1439.); codex in 4to, foll. 178. chartae laevigatae, char. Neschi recentiore manu scriptus, aqua nonnihil laesus.

\*) Incidit in errorem gravem vir doctus, hujus libri pag. 3. e codicis titulo nomen auctoris eruens, quod sic constituit: Seifolislamus ben Dsi Jezen Alfakih Abdorrahman Arrebi'.



Uberiorem hujus libri notitiam dederunt de Guignes, Notices et Extraits des MSS. de la Bibl. du Roi, vol. III. pag. 610—616. et P. Lemmingius in libro, cui titulus: Commentatio philologica, exhibens specimen libri اتخاف الاخصما, Haun., 1817. 4o., ubi ex ipso hoc codice caput nonum typis exprimi curavit.

Codex a Niebuhrio ejusque in itinere comitibus Hauniam missus a. 1761.; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel Th. II. pag. 39. n. 3., ubi tamen libri nomen misere corruptum est.

### CXLIV.

(N. 71. in 4to; olim N. 36. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 177. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens librum compositum in honorem numeri septenarii, sed historiam maxime Aegypti spectantem, cui nomen: كتاب سُكْرَدَانْ (\*) مولانا, i. e. *Saccharotheca Domini nostri Sulṭāni*, auctore *Schihāb ed-dīn Abū -l-Abbās Ahmed bin Jahjā b. Abi Bekr et-Tilimsāni*, vulgo *Ibn Abi Haḡala* dicto, mortuo a. h. 776. (Chr. 137 $\frac{1}{2}$ .) Praemittuntur codici folia duo, numeris non signata, quorum posteriori in pagina prima inscriptus est index rerum (فهرست) in librum sequentem. Fol. 1. r. legitur libri titulus; incipit praefatio fol. 1. v. Absolvitur codex fol. 177. r., exaratus manu Ḥabib allāhi. fil. Nūr allāhi.

De hoc opere vid. Ḥaḡ'i Chalfa vol. III. pag. 604.; Alex. Nicoll in Catal. Bibl. Bodl. Codd. Orient. pag. 140., ubi totius operis rationem exposuit ejusque capita recensuit; F. Wüstenfeld in diario: *Zeitschrift für die vergl. Erdkunde*, vol. I. pag. 57.; Cureton in Cat. Codd. Orient. Musei Brit. Part. II. pag. 156. Conf. Catal. Bibl. Goth. n. 379—382.

\*) Sequimur in scribendis vocalibus hujus vocis auctoritatem et hujus codicis fol. 1. r. et sequentis fol. 3. r.

### CXLV.

(N. 72. in 4to.)

*Ejusdem libri apographum* alterum, in 4to, foll. 162. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum, sed madore aliquid damni perpressum et in fine mutilum. Fol. 1. v. supra praefationem recentiore manu scriptus est libri titulus: كِتَابُ سَكْرَدَانِ الْمَلِكِ; sed verior est illa nominis forma, quae legitur et in codice praecedente, et in hujus codicis praefatione. In fine, fol. 162. v., pauca desiderantur ex ultimo capite conclusionis (النتيجة).

### CXLVI.

(N. 38. in fol.; olim N. 36. in fol.)

Codex in fol., foll. 23. chartae Europaeae, char. Neschi manu viri alicujus docti in Gallia scriptus. Continet is *particulam e* clarissimo *Maqrizii opere*, quod versatur in *descriptione historica et topographica Aegypti et Qahirae*: كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخلف والائلاف, et extremam quidem libri ultimi partem, ut apparet ex iis, quae docuit Hamakerus in specimine Catal. Bibl. Lugd. pag. 199. sq. Conf. Langlès in Notices et Extraits, vol. VI. pag. 320. sqq.: Möller in Cat. Bibl. Goth. n. 253.

Fol. 1. r. incipit narratio de monasteriis Christianorum: ذَكَرَ دِيَارَاتِ الْمَنْصَرِي (leg.: المنصاري); quam excipit fol. 12. v. narratio de ecclesiis Christianorum: ذَكَرَ كِتَابِيسِ الْمَنْصَرِي. Ultima codicis verba sunt: (leg.: يُوْحَنَّا) ونَيْسَه صَرْبُوْحِنَّا. Subscriptio finalis legitur fol. 23. v.: "Finis. Copiés 20 feuillets in 4o du livre de Maqrizi cotté 3679. de la bibl. de M. J. Colbert. 6<sup>e</sup> 9<sup>bre</sup> 1696. Ve Me ---\*)." Alia manu adjicitur: "Enumeratio ecclesiarum et monasteriorum Aegypti." — Excerpta videtur haec particula e cod. biblioth. Reg. Paris. n. 801., olim Colbertino. Typis expressa legitur in libro: *Maqrizi's Gesch. der Copten*. von F. Wüstenfeld; pag. ٣٣١-٣٣.

\*) Nomen, quod hic videtur scriptum esse, enucleare nobis non contigit.

## CXLVII.

(N. 73. in 4to; olim N. 83. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 39. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi minuto bene scriptus. Fol. 1. r. inscriptum est: كتاب فضائل مصر، et alia manu: وفيه ترتيب المملكة المصرية. Continet enim codex haec:

I. Libellum de historia Aegypti ejusque praestantia, auctore 'Omar bin Mu'hammed bin Jusuf el-Kindi. Profitetur ille in praefatione, fol. 1. v., se narraturum esse historiam Aegypti et expositurum, quibus virtutibus Aegyptum prae aliis terris ornaverit Deus O.M.; secutorum maxime aestimatissimos scriptores Jezid bin Abi 'Habib, 'Abd allah bin Abi G'a'fer, aliosque, quos recenset.\*) Breviter deinde percurrit Corani effata, Aegypti praestantiam spectantia, antiquitates, geographiam et historiam ejus terrae, cui tum temporis praefuisse Sultānum Qānszūh el-Ghauri apparet e fol. 16. r. Regnavit is ab a. h. 906. usque ad a. 922. (Chr. 1500—1516.) Inde a fol. 17. v. scriptor persequitur descriptionem geographicam Syriae, quae Sultāno Aegypti tunc parebat, eujusque recensentur oppida centum et arces (قلع) centum et decem, usque ad finem libri, fol. 25. r., ubi subscriptio finalis hoc apographum absolutum esse testatur primo die mensis Mu'harrem a. 973. (Chr. 1565.), manu Ibrahimī bin G'a'fer el-Muzhafferī. — Sequitur:

\*) Nomen libri num vere sit: كتاب فضائل مصر، ut inscriptum est fol. 1. r., nobis non constat. Diversum certe est compendium hoc ab illo libro, quem memorat Herbelotius s. v. Amrou ben Amrou et s. v. Fadhail Mesr, et a fratre scriptoris nostri compositum esse suspicamur. Laudatur enim codicis fol. 1. v. inter scriptores, quos secutus est noster, Abū 'Amr bin Mu'hammed b. Jusuf el-Kindi, cujus nomen ad illud, quod legitur apud Herbelotium, propius accedit, nostrique fratrem arguit. A Sujūtio tamen in codicis sequentis praefatione, fol. 1. v., auctor libri فضائل مصر etiam appellatur Ibn 'Amr el-Kindi, non Abū 'Amr.

II. Tractatus de administratione regni Aegyptiaci, qui vocatur in praefatione: عِدْيَةُ الْعَبْدِ الْقَاصِرِ إِلَى الْمَلِكِ الْنَاصِرِ, i. e. Munus servi tenuis, oblatum el-Melik en-Nāsziro, auctore 'Abd esz-Szamad bin Jāhjá b. A'hmed b. Jāhjá esz-Szālīhi. Fol. 26. r. legitur: كتاب فيه ترتيب مصالغ المملكة المصرية فيما تعتمدده الملوك في مصالغ المسلمين على التمام والكمال.

Praefatio, incipiens fol. 26. v., maximam partem versatur in celebranda laude principis el-Melik el-Nāszir Abū -sSe'adāt Mu'hammed et patris ejus el-Melik el-Eschref Abū -nNaszr Qāitbāj, qui Aegyptum tenuit ab a. h. 872. usque ad a. 901. (Chr. 1467—1496.), et successorem habuit filium, quindecim tum temporis annos natum, eundem, in cujus usum scriptus est hic tractatus, quinque sectionibus (فصول) constans. Sectio prima, incipiens fol. 31. r., est: في النظر في الجواب عن القصص التي؛ احوال العربية، في اعتبار احوال من يقوض اليه؛ تقدم الى الملك، ولاية من الولايات وكيفية العلامة على كل ولاية بحسبها، في النظر في امر المساجد والجوامع والقلع والخصوم والنغور والجسور وكسوة الكعبة واصلاح طريق الحجاز وترتيب سير الحاج واقامته وما فيه مصالح المسلمين، في ضبط اموال بيت ائمال على اختلاف؛ انواعها وبيان مصارفيها. — Quae omnia absolvuntur usque ad fol. 36. r., ubi subscriptio finalis docet, hunc tractatum ab auctore esse compositum mense G'umadá posteriore a. 930. (Chr. 1524.), apographum nostrum exaratum mense Mu'harrem a. 973. (Chr. 1565.), ab eodem Ibrahimō, qui priorem codicis partem scripsit. Sed verum vix esse poterit, quod de tempore compositionis libri ibi traditum est; el-Melik en Nāszir enim, a. h. 901. ad summum in Aegypto imperium evectus, anno jam 904. interemtus est. Fortasse exemplar illud, quod secutus est Ibrahimus, a. 930. erat exaratum, sed non autographum auctoris.

III. Accedunt notitiae variae, maximam partem eadem manu scriptae, qua reliqua pars codicis; ut fol. 37. r. de linguis et litteris di-

versis, quarum fit mentio apud historicos. Linguae LXXII. distribuuntur secundum gentes a tribus Noachi filiis oriundas; filiorum Semi sunt linguae XXV., litterarum genera octo: عربى سريانى اعجمى عبرانى فارسى كلدانى هندى، filiorum Hami linguae XXXII., litterarum genera sex: قبطى حبشى نوبى قبطى قبطى، filiorum denique Japheti linguae XV., litterarum genera (اقلام) sex: يونانى رومى ارمنى (اقلام) sex: افريجى حزوانى (خروانى?) اندلسى، de prophetis Arabicis Nū'h, Szālī'h, Schu'eib, Mu'hammed, Lāt et Hūd. — Fol. 38. r. alia manu, ni fallimur, scripta sunt haec: قال بعض الحكماء واعل ان تجارب ذكروا ان من اتم ببغداد سنة وجد في علمه زيادة ومن اتم بالموصل سنة وجد في نفسه وعقله زيادة ومن اتم بحلب سنة وجد في نفسه شجها ومن اتم بدمشق سنة وجد في ثبته غلظا ومن اتم بمصر سنة وجد في اخلاقه رقة وحسنا ومن اتم بحمص سنة لم تفقد عقله وجده نقص ومن اتم بغزة وجد في نفسه فاقد، قال بعض الحكماء لا تكمل مروة الرجل حتى يكون فيه ثلاث خصال من خصال الديك وثلاثه (sic) من الغراب وثلاثه من الحمام فاما الديك فالعبرة والايثار ومعرفة الوقت واما الغراب فالتبكر في المعاش واخفاء الجماع والحدوث من الناس واما الحمام فالالفة والحبة والصبر على المصيبة، — Fol. 38. nihil habet scripti; fol. 39. r. catalogus mansionum lunae (منازل القمر) char. Nesta'liq negligenter exaratus est.

### CXLVIII.

(N. 74. in 4to; olim N. 54. in 4to.)

*G'elal ed-dini es-Sujuti* liber, qui vocatur: i. e. *Sua- vitas confabulationis*, liber agens de historia *Aegypti et Qāhiraē*; codex in 4to, foll. 370. chartae orientalis laevigatae, partim char. Neschi, partim char. Nesta'liq mediocriter neque eadem, ut videtur, manu exaratus. Praefixus est titulus fol. 1. r.; praefationis initium fol. 1. v.: الحمد لله الذي فأت (\* بين العبد، وفضل بعض، الخلقه على بعض حتى في الامكنة والبلاد، Absolutus est codex secundum subscriptionem finalem,

\* In cod. Musei Brit. legitur فارق.

fol. 370. r., mense Reg'eb a. 1002. (Chr. 1594.)

De hoc libro vid. Hāg'i Chalfa vol. III. pag. 69. Totius operis conspectum dederunt Rasmussen in praefat. ad Annales Islamismi, pag. VII. sq., et de Hammer, Wiener Jahrb., vol. LXX. Anzeigbl. pag. 85. Conf. praeterea Möller in Catal. Bibl. Goth. n. 255.; Wüstenfeld, Zeitschrift für vergl. Erdkunde, Th. I. pag. 63. sq.; Cureton in Catal. Codd. Orr. Musei Brit. Part. II. pag. 157. Fragmenta quaedam ex hoc libro edidit C. J. Tornberg, Upsal. 1834. sq. 4to; vitam auctoris ex eodem Alb. Meursinge, in Prolegomenis ad Sojuti librum de interpretibus Korani, Lugd. Bat. 1839. 4o, pag. 4. sqq., quocum conf. G. Flügel, Sojuti's Leben und Schriften, Wiener Jahrb. vol. LVIII—LX. Anzeigbl.

Codicem nostrum Qāhiraē comparavit b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel Th. II. pag. 39. n. 1.

### CXLIX.

(N. 75. in 4to; olim N. 129. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 65. chartae laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus et eadem, ni fallimur, manu, qua cod. CXXXVIII., quocum eodem antea volumine continebatur. Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب جواهر البحور ووقايح الامور وعجيب الالهور واخبار (في اخبار) الاديار المصرية وما ورد فيها من الايات العظيمة والاحاديث الشريفة وما خصت به دون غيرها من انبرك ومن الجبابرة والفرعنة وغيرهم بالتمام. De nomine libri, quod hic est: *Margaritae marium et ecentus rerum et mirabilia temporum*, a codice nostro et Herbelotio s.v. *Gia-vaher al bohour* dissentit nonnihil Hāg'i Chalfa vol. II. pag. 641. Versatur hic liber in enarranda historia *Aegypti* antiquiore, subjuncta enumeratione Sultānorum recentiorum usque ad Suleimānum, fil. Selimi, 'Uṣmānidam, qui regnum adeptus est a. h. 926. (Chr. 1520.) Adscribitur vulgo, et ab ipso quoque Hāg'i

Chalfa, *Ibrâhîmo Ibn Waszîf Schâh*\*) ; num recte, dubitasse jam videtur Ill. Silvestre de Sacy, Chrestom. Arabe, 2e édit. Tom. II. pag. 237. not. 18. In codice nostro nomen quidem Ibrâhîmi saepius occurrit, sed ita ut ab ipso scriptore omnino diversus esse videatur. Exaratum est exemplar nostrum secundum subscriptionem finalem, fol. 63. r., a. h. 1104. (Chr. 1692 $\frac{2}{3}$ .) Fol. 63. v.—65. v. nihil scriptum est. — Conf. Möller Catal. Bibl. Goth. n. 375.; de Hammer, Wiener Jahrbh. vol. LXX. Anzeigeb. pag. 87.

Codex Qâhîrae emtus cum cod. CXXXVIII. a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 25.

## CL.

(N. 76. in 4to; olim N. 8. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 242. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter et festinanter scriptus. Continet is *partem primam libri*: جواهر السلوك فيمن ملك مصر من الملوك. i. e. *Margaritae filis junctae*, liber agens de iis, qui regnum tenuerunt in Aegypto, auctore nobis ignoto. Hunc, quem dedimus, titulum praefatio exhibet, quacum non concordat quod inscriptum est fol. 1. r.: كتاب تاريخ الامم واخبار ملوك العرب. وانجم ويسمى جواهر السلوك في اخبار الناس والملوك. neque quod legitur in fine codicis: جواهر السلوك، في حوادث الايام والسلوك، sed his minus fidei habendum. Initium praefationis fol. 1. v.: الحمد لله. Auctoris nomen in praefatione exprimi debebat; legitur enim ibi: فقد قال النقيب الى ربه الغنى الاجل --- بلدا والشافعي، مدعبا والغاذري حسبا\*\*، quod minio sine dubio erat exarandum, omissum est. Fol. 3. v. incipit introductio (مقدمة), quinque

partibus constans, quae in praefatione vocantur ابواب, in ipso vero libro اقسام, aguntque de originibus generis humani, de divisione terrae post diluivium, de dimensione terrae, de septem climatibus et climate Aegypti, de praestantia denique Aegypti rebusque maxime in ea memorandis. Ipse liber secundum praefationem dividitur in septem partes (اقسام), quae enarrant historiam regum Aegypti e dynastiis 'Amaleqitarum, Pharaonum, Coptorum, Persarum, Graecorum, Romanorum et Muhammedanorum; et haec quidem ultima pars iterum dividitur in octo sectiones (فصول), quae agunt de Chalifis rectae fidei (الراشديين), Umajjadis, 'Abbâsidis, Fâtimidis, de dynastiis Kurdorum, Turcarum, Cerkesiorum et 'Uthmânidarum (الرومية). Sed in ipso libro partes illae vocantur ابواب, neque omnino capitum dispositio concordat cum ea, quam profitetur praefatio. Primo enim capite agitur de Pharaonibus; secundo de 'Amaleqitis; caput tertium\*) reges Persarum persequitur; quartum reges Graecorum; quintum Romanorum; sextum denique Chalifarum res enarrat et dynastiae Kurdorum. Perducitur historia in hac parte prima usque ad proelium ad vicum Hattin et expugnationem Hierosolymorum a. h. 583. (Chr. 1187.). Docet subscriptio finalis, fol. 240. r., scriptam esse hanc partem primam (الجزء الاول) a. h. 990. (Chr. 1582.). — Adjiciuntur varia, ad ipsum librum non pertinentia, ut fol. 240. v. de clarorum hominum proprietatibus, quae in proverbialia abierunt, cum inscriptione Turcica: السنه ناسده اولان ضرور امتاندر، annotationes chronologicae variae; fol. 241. r.—242. v. versus Turcici, Persici, Arabici.

Codex Qâhîrae emtus a b. von Haven; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel Th. II. pag. 39. n. 2.

\*) Errant in efferendo hoc nomine Herbelotius l. l. et Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 781.

\*\* ) Legendum erit نسبا.

\*) In codice iterum vocatur caput secundum, et sic quae sequuntur capita III—V.

## CLL.

(N. 77. in 4to; olim N. 13. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 66. chartae laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Continet is *historiam principum Aegypti*, auctore Mar'i\*) *bin Jūsuf el-Muqaddesi*. Fol. 1. r. legitur recentiore manu negligenter scriptum: كتاب نزرعة المناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين تصنيف يونس الخنبلي المقدسى عفى الله عنه أمين، et eadem verba repetuntur in fine codicis, fol. 65. v. Sed in limine praefationis, fol. 1. v., auctoris nomen rectius scribitur: قلى العبد -- مرمى بن. يوسف الخنبلى المقدسى -- الحمد لله الباقى الخ. Recensetur hic liber in catalogo librorum, ex Hāg'i Chalfa excerpto, qui servatur in Bibliotheca nostra: كتاب نزرعة المناظر (المناظرين) في تاريخ من تولى مصر بعد التصحابة الى دولة العثمانية مختصر للشيخ مرمى بن يوسف الخنبلى انه لعزى زاده، Auctor, ut ipse tradit in enarrandis rebus gestis a. 698., professor erat juris Hanbalitici ad templum Tālūnicum Qāhiraē. Historiam Aegypti persequitur usque ad inaugurationem Sultāni 'Uṯmānīdāe 'Uṯmān II., a. h. 1027. (Chr. 1618.), et ita quidem, ut eorum maxime res enarret, qui inter Aegypti principes Sultānorum titulo gaudebant.

Majorem libri partem et quae maximi momenti ei visa est, Germanice vertit J. J. Reiske et publici juris fecit in Būschingii Magazin für die neue Hist. und Geogr., vol. V. pag. 367—454. Conf. praeterea Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 786.; Repertorium für bibl. und morgenl. Litt., vol. III. pag. 275. sqq.; Möller Cat. Bibl. Goth. n. 373.

## CLII.

(N. 29. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, char. Neschi bene scriptus. Post folia duo, quibus notitiae variae inscriptae sunt, legitur titulus, Reiskii

\*) Derivandum est nomen: مرمى a verbo رمى.

Manu exaratus: كتاب نزرعة المناظرين الخ. *Mor'z ben Juseph Hambelitae, Hierosolymitani, Historia Aegypti Principum*, sive Chaliphae illi fuerint, sive Sulthani, sive Praefecti eorum; e Codice msto Dorvilliano transscriptis Jo. Jac. Reiske." In margine annotatur: "vel Mara'i, ut habet d'Herbelot p. 554. b. cf. 667. b. p. 866. a. Fadhajel Mera'i." Ipsum apographum continetur paginis 1—109., ubi in fine libri legitur: "Absolvi d. 20. Martii 1745."— Conf. quae annotavimus ad codicem praecedentem.

## CLIII.

(N. 78. in 4to; olim N. 17. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 257. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens librum, cui nomen: كتاب نسايف اخبار الاول كتاب نسايف اخبار الاول i. e. *Jucmditates historiae majorum*, liber agens de dynastiis, quae Aegyptum tenuerunt, auctore *Mu'hammed bin 'Abd el-Mu'fi (عبد المعزى) b. Abi-lfa'h b. Ahmed el-Menüfi el-Is'häqf*. Dividitur hic liber in codice nostro in partes duas, quarum utrique suis praefigitur titulus, fol. 1. r. et 146. r. Initium praefationis, fol. 1. v.: الحمد لله الملك العزيز في ملكه واقتداره، الذى ملك الوجود بقوته واوجده بارادته واختياره. Inscriptus est liber Sultāno 'Uṯmānīdāe Muszāfā, qui bis regnum adeptus est, a. h. 1026. (Chr. 1617.) et a. 1031. (Chr. 1622.), et res Aegypti persequitur usque ad a. 1032. (Chr. 1623.) Constat e tractatu introductorio, decem capitibus et epilogo. Pars altera codicis incipit a cap. IV. et ad finem producta est, teste subscriptione finali, fol. 257. v., mense Szafar a. 1093. (Chr. 1682.)— Capitulum indicem dederunt Ras-mussen in praefatione ad Annales Islamismi, pag. VI. sq., et Kraftius, Handschriften der K. K. Akad. zu Wien, n. 257. Conf. praeterea Herbelot s. v. Lathäif; Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 787.

Codex a Niebuhrio in Oriente comparatus.



## CLIV—CLVI.

(N. 79—81. in 4to; olim N. 5—7. in 4to.)

*Historia clarissimorum principum Nûr ed-dîn et Szalâh ed-dîn*, quae vocatur: *أزهار الدولتين* في أخبار الدولتين، i. e. Flores hortorum duorum, liber agens de historia duorum regnorum, auctore *Schihâb ed-dîn 'Abd er-Râh-mân bin Isma'îl b. Ibrahim b. 'Uymân b. Abi Bekr b. Ibrahim b. Mu'hammed b. el-Muqaddesî esch-Schâfi'î*, vulgo *Abû Schâme* dicto et mortuo a. h. 665. (Chr. 1265.), cum appendice; tribus voluminibus constans, in 4to. Volumen primum foliorum est 218. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi antiquo, sed festinantius scriptum, punctis diacriticis plerumque omissis, optime conservatum. Fol. 2. r. in superiore parte paginae ad sinistram inscriptum est: في (leg.: الروضتين) *الجزء الأول من تاريخ الروضتين (الدولتين) لابي شامه*, In initium praefationis, fol. 2. v., hoc est: الحمد لله الذي بطنقه تصلح *الجزء الثاني من تاريخ الروضتين (الدولتين) لابي شامه*. Folia 30—32. 212. 213. recentiore manu suppleta sunt. Pergit hoc volumen usque ad finem a. h. 573. Subscriptio finalis, fol. 218. v.: *آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه الذي هو خط المؤلف رحمه الله تعالى يتلوه أن شاء الله في الجزء الثاني فر دخلت سنة أربع وسبعين وخمس مائة قال العباد وكان شمس الدين بن المقدم من أكابر الأمراء*. Additur, absolutum esse hoc volumen mense *أبـ l-hig'g'e* a. 676. (Chr. 1278.)

Volumen secundum foll. est 273., formae paulo minoris, sed eadem manu scriptum, qua volumen primum. Fol. 1. r. similis quoque inscriptio legitur, ac vol. I. fol. 2. r. In initium vero hujus voluminis, fol. 2. v., non concordat cum iis, quae promittit voluminis praecedentis subscriptio, sed incipit a sectione, agente de morte principis *el-Melik esz-Szâlîh Isma'îl*, fil. *Nûr ed-dîni*, in medio a. 577., ita ut lacuna appareat, tres amplius annos complectens. Post fol. 122. iterum lacuna est duorum foliorum. Pergit hoc volumen usque ad mortem *Szalâh ed-dîni* a. 589., subjuncta brevi narratione de rebus gestis

*filiorum ejus*, usque ad a. 597. In fine legitur, fol. 273. r.: *آخر الكتاب الحج*; in margine annotatur, apographum hoc collatum esse cum autographo.

Appendicem continet volumen tertium, quod est foliorum 187., eadem fortasse manu, sed multo accuratius scriptum, quam volumina praecedentia. Fol. 1. r. legitur: *ذيل تاريخ روضه*, Praefationis initium, fol. 2. v.: *الحمد لله الذي انفرذ بالبقاء وكتب على غيره الروال*. Aggreditur *Abû Schâme* in hoc libro enarrare res gestas inde a morte *Szalâh ed-dîni*, vel potius ab a. 591. usque ad vitae suae terminum. Vitam quoque suam persequitur ad a. 599., quo natus est Damasci, die Veneris, vicesimo tertio mensis *Rebî* posterioris. Ex hac codicis parte, fol. 27. r., genealogiam ejus supra dedimus, dubitantes tamen de vera lectione in verbis illis: "bin el-Muqaddesi." Ipse quidem tradit, atavum suum *Abû Bekr Hierosolymis fuisse orundum*; sed errore fortasse irrepsit vox "bin" ante "el-Muqaddesi". Originem etiam cognominis *Abû Schâme* explicat; naevo erat notatus supra supercilium sinistrum. Pergit haec appendix usque ad a. 665. (Chr. 1265.) Fol. 187. r. subscriptio finalis docet, absolutum esse codicem nostrum a. 728. (Chr. 1328.)

De *Abû Schâmae* historia *Nûr ed-dîni* et *Szalâh ed-dîni* vid. *Hâg'î Chalfa*, vol. I. pag. 262.; *Reinaud* in praefatione libri: *Extraits des historiens Arabes relatifs aux guerres des croisades*, pag. XX. sq.; *Cureton* in *Catal. Codd. Orr. Musei Brit. Part. II.* pag. 153.; appendicis vero nostrae hi viri docti mentionem non faciunt.

Codex *Qâhirae* emtus a b. von Haven; vid. *J. D. Michaelis* lit. *Briefwechsel Th. II.* pag. 41. n. 19—21.

## CLVII.

(N. 82. in 4to; olim in *Bibl. Univ. Haun.* N. 17. in 8vo.)

Codicillus quattuor foliorum chartae Europaeae laevigatae, manu *Michaelis Szabbagh*,

ni fallimur, exaratus, continens fragmentum nescimus cujus libri historici. Suspiciari licet e Maqrizii aliquo opere esse excerptum. Praemisit notitiam b. Silvestre de Sacy, quae sic se habet: "Acte ou contrat de mariage d'Almêlic alsaid Mohammed Bêrêkê-khan, fils d'Almêlic aldhaher Bibars, avec la Princesse Gaziêh khatoun, fille de l'émir Seif-eddin Ke-laoum Alfî." Fol. 1. r. in limine libri scriptum est: ذكّر عقد الملك السعيد على بنت الأمير سيف الدين، قلاوون الألفى، في يوم الخميس ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنة اجتمع القضاة والنوّر وأعيان الأمر آيين يدي الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحى بقلعة الجبل وعقد عقد الملك السعيد بن الملك الظاهر على الستم الرقيب، غازية خاتون ابنة الأمير الخ، Contractus matrimonialis incipit fol. 1. v.; clauditur codex fol. 4. r. his verbis: وما جرى العقد --- قرأ القاضي محبى الدين بن عبد الظاهر مؤلف سيرة الملك الظاهر الصدانى فى المجلس فخلع السلطان عليه وأعطى ولاية دينار وألهم،

### CLVIII.

(N. 83. in 4to; olim N. 23. in 4to.)

*Historia Aegypti, ab 'Uṯmānidis expugnatae, cui nomen: المصحف النبوية فى ملك آل عثمان* i. e. Donum splendens, liber agens de occupatione Aegypti per 'Uṯmānidas, auctore *Schems ed-dīn Muḥammed bin Abī -ssurūr b. Muḥammed b. Abī -ssurūr el-Bekri esz-Sziddiqi*\*) codex in 4to, foll. 101. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Fol. 1. v. legitur tabula chronologica, cui inscribitur: تواريخ باشايان مصر حمية

\*) Haec vera nominis forma nobis visa est; vario tamen modo ab ea recedere videmus alios. Ill. Silvestre de Sacy, ubi de hoc scriptore uberius egit, Notices et Extr. des MSS. de la Bibl. du Roi, T. I. pag. 165. sqq., pro el-Bekri esz-Sziddiqi dedit: albakeri alsadiki, i. e. الباقرى الصادق, nescimus qua auctoritate nisus. Verum hujus libri nomen quoque ignorasse videtur vir clarissimus, substituens ei titulum: Alfotouhât alothmaniat lildiar almsriat.

عن البلية والاصم عن ابتدائه فتح خازنى كه در سنه ٩٣٣ واقع شده. Sed ea ultra a. h. 943. non progreditur; videtur vero post fol. 1. excidisse folium unum. Fol. 2. r. inscriptus est titulus, quem dedimus supra et repetit praefatio, adjecto auctoris nomine: شمس الدين محمد بن شيخ الاسلام، محمد ابى السرور البكرى الصديقى، ubi omissa videtur nomen patris Abū -ssurūr et vocula ab ante nomen proavi Abū -ssurūr. Initium praefationis fol. 2. v.: الحمد لله مصرف امور العالم. بقدرته فى ساير الاكوان، Dividitur totus liber in tres partes (فروع)، quarum prima enarrat expugnationem Aegypti per Sultānum Selim; secunda persequitur Beglerbegos, Aegyptio praefectos, ab a. h. 923. usque ad a. 1015. (Chr. 1517—1636.); tertia recenset iudices (القضاة) ejusdem temporis spatii. Subscriptio finalis, fol. 101. r., duplex est; prior: هذا اخر ما وجد تمت نساخه ما كان ناقصا؛ من هذا الكتاب الخ، altera: adjecto scriptionis anno et mense, Scha'bān a. 1164. (Chr. 1751.) — Conf. de hoc scriptore F. Wüstenfeld, Zeitschrift für vergl. Erdkunde, Th. I. pag. 66.

### CLIX.

(N. 84. in 4to; olim N. 10. in 4to.)

*Historia rerum in Aegyptio gestarum* ab a. h. 1100. (Chr. 1688 $\frac{2}{3}$ .) usque ad a. 1152. (Chr. 1730 $\frac{9}{10}$ .), imperantibus Sultānis 'Uṯmānidis Suleimān II., Aḥmed II., Musztafā II., Aḥmed III. et Maḥmūd I., auctore *Musztafā bin Ibrahim*, rerum, quas narrat, magnam partem teste oculato; codex in 4to, foll. 216. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Hic liber inscriptione caret, sed capsula inclusus est, in qua legitur: كتاب تاريخ مصر خط. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الكريم الرحيم، غافر الذنب يشوب على من تاب، اما بعد قد سال العبد الفقير --- الحاج مصطفى، ابن الحاج ابراهيم تابع المرحوم حسن اغا عزبان دمر داشى كن (sic) عن رقيب مصر القاهرة كنانة الله تعالى فى ارضه من عزبان السلطان محمد خان والسلطان سليمان خان

والسلطان احمد خان والسلطان مصطفى خان والسلطان احمد خان والسلطان محمود خان نصره الله تعالى من سنة ما به بعد الالف الى تاريخ اخر المجموع والباشاوات على الترتيب ما قد حصل في مدنتهم من الوقائع بين عسكر مصر والسناجق والاغاوات cet. Sed ad finem non perductus esse videtur hic codex, desinens fol. 216. r.

## CLX.

(N. 39. in fol.; olim N. 45. et 46. in fol.)\*

Codex in fol., foll. 120. chartae laevigatae, char. Africano recentiore bene scriptus. Continent *historiam regni Maroccani et urbis Fās*, notissimam sub nomine: القرقطاس الصغير، *el-Qartās minus*, auctore *Abū-lḥasan 'Alī bin 'Abd allāh bin Abī Zar'* (بن ابى زرع) *el-Fāsī*, cujus nomen legitur in limine codicis fol. 1. v.\*\*) Praefationis initium: الحمد لله مصرف الامور بمشيتته . وتدابيره ، الانيس المظرب القرقطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينته فاس. A qua nominis forma vario modo recedunt cum alii scriptores, tum 'Hāg'i Chalfa, vol. I. pag. 489. Sed unice vera sunt, quae de ea re praecepit P. de Gayangos, the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. II. pag. 516., hoc modo restituens libri titulum: كتاب الانيس المظرب بروح القرقطاس في اخبار الملوك ، (sito prope urbem Fās.) liber agens de rebus gestis regum Mauritaniae et historia urbis Fās. Incipit pars prima fol. 2. v. a dynastia Idrisidarum, qui a. h. 172. summa rerum potiti sunt, desinit fol. 58. r. in morte principis 'Abd el-Mumin, a. h. 558. — Pars posterior incipit fol. 62. v. ab 'Abd el-Mumini filio, Abū Ja'qūb Jūsuf, et desinit fol.

\*) Duae partes, quibus constat hic liber, antea separatae, nunc uno volumine continentur.

\*\*) Alii rectius fortasse auctorem vocant: Abū 'Abd allāh 'Alī bin Muḥammed b. Aḥmed b. 'Omar Ibn Abi Zar'.

118. v. in a. h. 726., imperante Abū Sa'īd 'Uṭmān bin Abī-rrebi' Suleimān Merinida.\*\*) Editionem hujus libri paravit C. J. Tornberg: *Annales regum Mauritaniae a condito Idrisidarum imperio ad a. f. 726.*, ab Abul-Hassan Ali ben Abdallah ibn Abi-Zera Fesano, vel ut alii malunt, Abu Muhammed Salih ibn Abd-elhalim Granadensi conscripti. Upsal., 1843. 4to. Interpretationes ediderunt, Germanicam Franc. de Dombay: *Geschichte der mauritanischen Könige cet. T. I. II. Agram, 1794. 1797. 8vo*; Lusitanicam Fr. J. de Sto Antonio Moura: *Historia dos Soberanos Mohametanos cet.*, escripta em Arabe por Abu Mohammed As-saleh.\*\*) Lisb., 1828. 4to. Conf. C. T. Johannsen in diario: *Hermes*, vol. XXXV. pag. 287. sqq.; Kraft, *Handschriften der K. K. Akad.* in Wien, n. 253.; de Hammer, *Wiener Jahrbücher*, vol. LXX. pag. 2. sqq. et vol. CII. pag. 75.

Codicem nostrum comparavit b. G. Höst, teste Rasmussen in praefat. ad *Annales Islamismi*, pag. IX.

## CLXI.

(N. 40. in fol.; olim N. 44. in fol.)

Codex in fol., foll. 66. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Africano bene scriptus. Continent is:

I. Fol. 1—13. *Compendium historiae principum Idrisidarum* in Mauritania ab a. h. 172—375., auctore ignoto. Fol. 1. r. Hispanice, sed char. Rabbinico inscriptum est: "El nombre de este libro es onde declara todos los reynados de Fes, hijos de Sidi Muley Idris." Fol. 1. v. legitur: هذا تاليف مبارك في ذكر الملوك ، الادريسيه رحيم الله امين ، اعلم ان ملوك الادريسيه اوليم

\*) Narrat 'Hāg'i Chalfa auctorem hunc librum composuisse ante a. 726.; verius est eum non esse mortuum ante hunc annum.

\*\*) Eidem scriptori hic liber adscribitur in cod. Escur. n. 1706. Goth. n. 262. Conf. P. de Gayangos, l. l.

، سيدنا ومولانا ادريس الحسنى ،  
 ابو محمد عبد الملك : Laudatur inter scrip-  
 tores, quos secutus est auctor : ابن محمود الوراق في كتاب المقياس ،  
 Explicit liber fol. 13. v. — Sequitur:

II. Fol. 14—66. *Tractatus de mysterio*  
 maxime *litterarum*, qui excerptus esse dicitur  
*ex ed-Demirri vita animalium*. Fol. 14. r.  
 legitur titulus : كتاب كشف رمز الحروف منقول من كتاب  
 حياة الحيوان للامام سيدى محمد الدميرى رحمه الله ،

In margine Hispanice annotatur, sed char. Rab-  
 binico: "Declaracion de todas las letras con  
 que leen los moros en sus leyes de diferen-  
 tes suertes, y declaro de todos los numeros,  
 che si usan en todo el mundo. Tambien let-  
 ras gechas (?), como usan en la India; tam-  
 bien letras dela suerte, que gablaba Adam;  
 tambien declaro sobre los naturales de las  
 personas, que es (?) del fuego, de la tierra,  
 del viento y dela agua." Titulum excipit trac-  
 tatus initium: الحمد لله الذى علم الانسان ما لم يعلم  
 cet. من انواع العلم والحكمة من اصل رمز الحروف المرسومة  
 Exponuntur deinde Arabum litterae XXVIII.  
 earumque valor numericus; dividuntur in lit-  
 teras igneas, terrenas, aërias et aquosas, et  
 quae sunt nugae ejusmodi. Fol. 39. v. Indorum  
 litteras vel potius numerorum signa apud Indos  
 usitata explicare aggreditur, similiterque fol.  
 42. r. Syriacas litteras exponit (الحروف السريانية)  
 i. e. numerorum signa, quae Syris adscribit,  
 nobis plane ignota et quae typis reddere non  
 possumus. Adjiciuntur tabulae, ut Arabicorum  
 numerorum, ita et Indicorum et Syriacorum.  
 Inde a fol. 49. r. de mensibus agitur tam Eu-  
 ropaeorum, quam Arabum, et variis aliis in-  
 terpositis, fol. denique 62. v.—66. v. astrono-  
 mica nonnulla finem faciunt hujus compila-  
 tionis.

## CLXII.

(N. 85. in 4to; olim N. 76. in 4to.)

*Fragmentum libri de historia regum Mau-  
 ritaniae*, qui adscribitur *Ibn Bessâmo*, in 4to,

fol. 180. chartae, ni fallimur, Europaeae, char.  
 Africano bene scriptum. Fol. 1. v. post Ham-  
 dalam legitur: هذا كتاب التواريخ المعروف بلبن بسام في  
 اختيار ملوك الحضرة المراكشبية وما جريا لهم في الجياد مع  
 انصارى في فتوح بلاد الاندلس وافريقية وغيرها من  
 النداين. Quam inscriptionem excipit fragmenti  
 initium: وفي هذه السنة المورخة وصل وفد اجل الغيروان  
 . واقفياً تونس وافريقية الى مدينة اشبيلية.  
 Agitur h. l. de a. h. 566. et pergit codex usque ad a. 662.  
 (Chr. 1261.) Subscriptio finalis fol. 180. v.  
 haec est: كمل الكتاب بحمد الله وحسن عونه في علم  
 انتاريخ من ملوك المتقدمة وما جرى لهم من الجياد  
 والفتوحات والقتال والجياد وغيرها (في 21 من جمادى  
 الاول 1175م) ،

Num recte hoc fragmentum Ibn Bessâmo  
 adscribitur, et quisnam sit ille Ibn Bessâm,  
 nobis non liquet. Notissimum hujus nominis  
 historicum Abû l'hasan Ali Ibn Bessâm, quem  
 confudit Hâg'i Chalfa\*) cum poëta cognomine,  
 mortuum esse constat a. h. 542. (Chr. 1147.)

Comparavit codicem b. G. Höst, teste Ras-  
 mussen in praefatione ad Annales Islamismi,  
 pag. IX.

## CLXIII.

(N. 86. in 4to; olim N. 90. in 4to.)

Codex in 4to, in Hispania scriptus, con-  
 tinens *particulam libri*: كتاب بغيبة الملتمس في تاريخ  
 كتاب بغيبة الملتمس في تاريخ ، رجال اهل الاندلس ،  
 i. e. *Desiderium petentis*,  
 liber agens de *historia virorum illustrium An-  
 dalusiae*, auctore *Ahmed bin Jahja bin Ahmed*  
*b. 'Amira edh-Dhabbi\*\**), de quo libro uberius  
 egit Casiri in Bibl. Escur. T. II. n. 1671. pag.  
 133—140. Duplex praemittitur titulus, prior  
 ab ipso libro prorsus alienus et recentiore  
 manu exaratus: "De la egira ó era de los  
 Arabes y su Principio": posterior eadem, qua

\*) Vol. I. pag. 184. n. 180. et vol. III. pag. 331. n. 5799.  
 Videtur excidisse nomen Mu'hammed post vocem  
 ابن in vol. III. l. 1.

\*\*) Conf. Sujütii Lubb el-lubâb, ed. Veth, pag. 165.

totus codex, manu scriptus: "Capitulo Primero del Libro intitulado: Varones de Andalucia, que escribió en Lengua Arabe أحمد بن يحيى بن أحمد Ben Ajmed Ben Jajia Ben Ajmed Ben Ahamiret el Dhabi, traducido de uno de los codices de la R<sup>a</sup> Libreria de el Escorial por Don ---\*), Antiquario Universal y traductor de Lengua Arabe." Infra eadem manu, quae exaravit titulum priorem, annotatum est: "Para el tomo 3. de la Llave de Babel Parte 2.": quem quidem librum ejusdem antiquarii esse discimus e prooemii pag. XVI. sq. — Sequitur pag. I—XXI.: "Proemio del Traductor," فتححة الترجمان. Proferuntur in hoc prooemio, Hispanice scripto, pag. VII. sq., alphabeta nonnulla Cufica et alphabetum magicum e libro quodam de amuletis, quae dicuntur, de nummis et alphabetis Arabicis, cujus auctorem vocat noster: علي محمد بن علي النميس الجدى بن موسى, deinde pag. X. XII., duae inscriptiones Cuficae brevissimae, altera, "que copiò un erudito Antiquario de una de las ventanas del Palacio Arzobispal de Toledo", cujus explicationem proponit auctor, approbatione indignam; altera reperta in loco "Miramtel Pueblo de Alcarria", nullius momenti. Commendat in fine librum, cujus interpretationem offert, "por ser unico en el asunto y complemento del Libro de Abi Ahabd Allah Mjamed Ben Abi-Nasar el Jamidi." — Sequuntur, pag. 1—54., textus Arabicus et interpretatio Hispanica initii ejus libri, quem indicavimus, ita ut paginas ad sinistram Arabicam occupent, ad dextram interpretatio. Inscriptio pag. 1.: كتاب بغية الملتبس في رجال اهل الاندلس وعلمائها وامرائيها وشعرايها وذوى النباغة فيها من دخل

\*) Deletum est nomen, quod h. l. scriptum erat; dignoscitur tamen etiam nunc nomen Faustini de Muscat y Gusman, de quo vid. P. de Gayangos in praefatione libri: the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. IX. sq. not. 4.

اليها او خرج عنها ما نشى به نصر الحميدى وتم واحم سداه وتم احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة الضبي ، وفيه الله ، quibus pag. 2. respondent haec: "Libro de perfecta satisfaccion de los Varones de Andalucia, sus sabios, Governadores, Poetas, los de la profecia sobre ella de quien entrò en ella, ò saliò de ella, de quien vagò en ella; de Nasar el Jameidi fue perfecto y logrò fama su industria. Le perfeccionò Ajmed Ben Jajia Ben Ajmed Ben Ahamiret el Dabi: concuendele Dios." Quae quidem doctum interpretem non produunt. Initium libri pag. 3. hoc est: أما بعد حمد الله تعالى الذى لا يعرف الخبير الا من ، ذبيبه الكريم ، Laudibus extollitur in praefatione inter eos, qui antea de iisdem rebus egerant, Abù 'Abd allâh Mu'hammed bin Abi Naszr el-'Humeidi, cujus tamen liber subsistere dicitur circa a. 450.\*\*) Versantur, quae adsunt in primis occupatae Hispaniae temporibus. Hic illic lacunae reperiuntur, ubi Arabica legere non potuit scriptor; passim adjectae sunt notae.

## CLXIV.

(N. 30. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, paginarum 29., cui inscriptum est pag. 1.: "Ahmed Ibn Arab-scha[h] خاتمة s. oratio finalis Historiae Timuri subjuncta. E Cod. MS. Ludovici Piques, qui in Bibl. Regia Paris. asseruat, Arabicè descripsit Sigismund Gottlob Seewisch, Bibl. Reg. Dresdens. E cuius demum απογραφω Arabicè descripsi et latine verti. Joh. Jac. Reiske. Dresdae, 1736. Mens. Nov. d. 28. et 29." Arabica incipiunt pag. 3., interpretatio Latina, e regione textus collocata, pag. 4. Sed initium et finis non sunt translata. Explicit textus pag. 29.

\*) De 'Humeidio ejusque libro vid. P. de Gayangos, l. I. vol. I. pag. XX. et pag. 473. Excerpta ex eo dedit idem in appendice, vol. II. pag. VIII—XXII.

## CODICES DE GENEALOGIA ET EPONOMASTICE.

## CLXV.

(N. 87. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, continens *Ibn Dureidi lexicon genealogicum*, et quidem integrum, quamquam priorem tantum partem indicat titulus libro praefixus: *المجزء الأول من كتاب الاشتقاق كامل\** تصنيف الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدى، "Opus Grammatico-Historicum optimaе notae." In margine adjicitur: "Ibn Doreid Kitab ol Eschtekaki seu Etymologicum Genealogiarum Arabicarum, descriptit ex cod. msto Arab. Bibl. Leidensis (n. 362.) Jo. Jac. Reiske; mens. Nov. et Dec. 1739." De quo libro vid. quae monuit Reiskius in Prodidagmatis ad Hagji Chalifae tabulas, in libro: *Abulfedae tab. Syriae*, ed. J. B. Köhler, pag. 231. n. 7. Titulum excipit in codice nostro folium unum, quod exhibet notitiam de Ibn Dureido, in titulo codicis Lugdunensis nomini auctoris adscriptam. Ipse liber occupat pagg. 1—513. Notae marginales passim adsparguntur. Subscriptio finalis e cod. Lugd. adjicitur pag. 515.; infra Reiskius annotavit: "Et ego finem imposui d. 10. Decembr. 1739. die Jovis." — Tabulae genealogicae et indices Reiskii cum hoc codice asservantur.

Ibn Dureidi vitam scripserunt Ibn Challikân (vid. edit. clar. Mac Guckin de Slane, vol. I., pag. 698. sqq. et Hamakeri spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 35—46.) et Ibn Hischâm in limine commentarii in carmen laudatissimum, *Maqsûra dictum*; vid. edit. L. N. Boisen. Havn., 1828. 4to. — De codice nostro conf. Reiskens *Lebensbeschr.* pag. 156. sq.

\* Sic Reiskius scripsit, codicem Lugd. accurate secutus; vid. Hamakeri spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 33.

## CLXVI.

(N. 88. in 4to.)

Codiculus in 4to, paginarum 14., Lemmingii manu scriptus, qui hunc praefixit titulum (pag. 1.): "*Stemma Adnani et Cahthani* (vigtig til Arabernes Genealogie og Historie för Mohamed) udskrevet af Cod. 1700. i Escorial-Bibliotheket ved Doct. P. Lemming. A. 1819." Pag. 3. superscriptum est: *كتاب فيه نسب عدنان وقحطان عن أبي العباس محمد بن يزيد رتبة الله عليه رواية أبي الحسن علي --- سماع لموتوب بن احمد --- للجوابيقي*. Explicit libellus pag. 13. lin. 2. Accedit usque ad finem pag. 14. *tractatus de genere masculino et feminino partium corporis humani et vestimentorum*: *ما يذكّر ويؤنث من الإنسان ومن* ، secundum praecepta grammatici *Abû Mâsâ Suleimân bin Muhammed*. Duplex adest subscriptio, altera Danica Lemmingii, de cod. Escorialensi, quem secutus est, altera Rasmus-seni, ad Casirii cod. MDCC. n. 5. (Tom. II. pag. 157.) lectorem ablegantis.

## CLXVII.

(N. 89. in 4to; olim N. 21. in 4to.)

Codex in 4to, bipartitus, char. Neschi bene scriptus et capsula inclusus.

I. Pars prior foliorum est 178. chartae orientalis laevigatae, et continet *es-Sujûti librum de nominibus relativis*, qui vocatur: *كتاب نُبّ اللباب في تحريم الانساب*, i. e. *Medulla libri el-Lubâb*, liber agens de orthographia nominaum relativorum. Fol. 2. r. inscriptus est titulus; sed errore librarii pro اللباب ibi legitur الالباب, idemque mendum videmus repetitum non solum in capsulae operculo, verum etiam in ipsa praefatione. Annotatur praeterea infra titulum: *ويليه ذيله للعامة احمد العجمي عفى عنه وكرمه*

، امين; quae verba codicis partem alteram spectant. Praefationem librique initium habemus fol. 2. v.; finem fol. 176. r. Absolvit eum mense Ramadhân a. 1145. (Chr. 1733.) Mu'hammed quidam, fil. 'Alii, Schâfi'ita.

Hunc librum publici juris fecit doct. P. J. Veth, Lugd. Bat., 1840. 1842. 4o.

II. Pars posterior folia habet 60. et continet *appendicem ad librum Lubb el-lubâb*, conscriptam ab *A'hmede bin A'hmed el-'Ajenî*, partim vestigia premente *Mu'hammedis bin 'Ali bin A'hmed ed-Daûdi el-Mâlikî*. Fol. 2. r. legitur titulus: هذا ذيل لب اللباب للشيخ العلامة: احمد العجمي رحمه الله تعالى امين. Praefationem, fol. 2. v., scripsit *'Abd er-Rahmân el-Ushmûni*, cujus haec sunt verba: هذا ما جردته من خط شيخنا -- احمد العجمي من هامش نسخته لب اللباب

للسيوطي بعد اذن تجله مولانا شيخ الاسلام الشيخ محمد بن العر العجمي. Nomina relativa, ut in libro *Lubb el-lubâb*, secundum ordinem alphabeticum digesta sunt. Subscriptio finalis, fol. 58. v., haec est: هذا اخر ما وجد بخط شيخنا -- احمد العجمي الوفاى الوفاى رحمه الله -- وذلك ما يهاشم نسخته لب اللباب في تحريم الانساب للامام السيوطى وكتب خطه في اخر نسخته المرقومة نقل ذلك من خط الشيخ محمد بن علي ابن احمد الداودى المالكي رحمه الله تعالى وغالب ما يهاشم هذا النسخته من خطه ايضا ثم تلقت اكثر ما نقل من خط الداودى و لله الحمد Adjicitur, scriptum esse hoc apographum mense Schawwâl a. 1145. (Chr. 1733.) ab eodem Mu'hammed bin 'Ali, qui exaravit partem priorem. Foliis 59. 60. nihil est inscriptum.

## CODICES DE HISTORIA LITTERARUM ET BIBLIOGRAPHIA.

### CLXVIII.

(N. 41. in fol.; olim N. 28. in fol.)

Clarissimi *Cantilenarum libri* (كتاب الاغانى) *pars extrema*; optimae notae codex, in fol., foll. 240. chartae hombycinæ firmæ laevigatae, char. Neschi magno et robusto eleganter et accuratissime scriptus, adjectis per totum librum vocalibus, in margine inferiore madore paululum laesus. Fol. 1. r. pictura occupat, splendidissima olim, sed nunc contaminata, equitis imaginem sistens, falconem album in sinistra gestantis, quem angeli utrinque comitari videntur. De ipso libro ejusque auctore, *Abû Iferej 'Alî bin el-Husein bin Mu'hammed el-Iszbahânî*, mortuo a. h. 356. (Chr. 967.), vid. quae disputaverunt clarissimi viri J. G. L. Kosegarten in prooemio editionis, quam inchoavit Gryphisvaldiae, a. 1840., et Steph. Quatremère in libro: *Nouveau Journal Asiat.*, vol. XVI. pag. 385—419. 397—545. et in: *Journal Asiat.*, 3e

série, vol. VI. pag. 465—526. — Incipit textus Arabicus in codice nostro fol. 1. v. post Besmelam, desinit fol. 240. v. Index poetarum, quorum vitae et carmina hoc volumine continentur, hic est:

، النيم بن تولى: fol. 1. v.

، 7. v. - مالك بن الربيع

، 15. r. - عبيد بن السخاس

، 23. v. - مروة بن حكان

، 25. v. - العدييل

، 36. v. - خدر انعى

، 35. v. \*) - عمرو ذو الكلب

، 38. v. \*\*) - تقيط

\*) Turbatus est a bibliopega foliorum ordo, ita restituendus, ut folium 27. excipiant quae nunc sunt folia 29. 30. 28. 32. 33. 31. 36. 34. 35. 37. 38. cet.

\*\*) Post fol. 38. lacuna est, unius folii aut duorum, ut suspicamur.

- fol. 41. v. : محمد بن عبد الملك الزيات  
 54. v. - : أبو حشيشة ،  
 59. v. - : عنان ، (poëtria)  
 63. v. - : الحسن بن وهب ،  
 75. r. - : أحمد بن يوسف ،  
 77. r. - : العنقوي ،  
 80. v. - : مرة ،  
 82. r. - : علي بن أبي أمية ،  
 85. v. - : عمر الميذاني ،  
 86. v. - : سليمان بن وهب ،  
 92. v. - : أبان بن عبد الحميد ،  
 98. v. - : ترويت ،  
 103. v. - : ماني ،  
 107. r. - : بكر بن خازجة ،  
 110. v. - : نصيب ،  
 120. r. - : أبو شراة ،  
 128. r. - : ابن أنبواب ،  
 129. r. - : اسمعيل القرظيسي ،  
 130. r. - : أبو العيص ،  
 134. r. - : مروان بن أبي حفصة ،  
 140. v. - : عبد الله بن يحيى ،  
 157. v. - : عبد الله بن أبي العلاء ،  
 159. r. - : عبد الله بن أبي معقل ،  
 161. v. - : وئعة ذي قر ، (De proelio ad Aū Qâr)  
 170. r. - : القحيف ،  
 173. r. - : القند ،  
 174. r. - : عبد الله بن دحمان ،  
 175. r. - : أئنتنخل ،  
 177. v. - : أبو عخر ،  
 184. v. - : يحيى بن طالع ،  
 187. r. - : عمرو بن حزام ،  
 194. v. - : القتال ،  
 203. v. - : الراعي ،

- fol. 209. r. : جندل بن الراي ،  
 209. v. - : عمار ذو كيار ،  
 215. v. - : عبد الله بن متعيب ،  
 218. v. - : أبو انعبال الهند ،  
 221. r. - : عبيد ،  
 225. r. - : عمرو بن سعيد وخاند بن المضلل ،  
 227. v. - : القضايمي ،  
 234. v. - : عمارة ،

هذا آخر كتاب ، fol. 240. r. : Subscriptio finalis

الأغاني الكبير للجامع من تصنيف أبي الفرج علي بن الحسين  
 من محمد الأصمباني cet. Absoluta est scriptio codicis  
 mense Ramadhân a. 616. (Chr. 1219.); exaravit  
 eum Mu'hammed bin Abi Tâlib el-Bedri.\*)

## CLXIX.

(N. 90. in 4to; olim Nr. 43. in 8vo.)

*Imâd ed-dini Mu'hammed bin Mu'hammed  
 el-Isfahâni*, clarissimi Sultânorum Nûr ed-dini  
 et Szalâh ed-dini scribae, *appendix ad librum  
 suum*: خريدة القصر وخريدة العصر ، *e. Margari-  
 ritam palatii et palmam saeculi, vitas poëtarum  
 illustrium saeculi a fuga Prophetæ sexti con-  
 tinentem*; codex in 4to, foll. 89. chartae orien-  
 talis laevigatae, char. Neschi bene scriptus.  
 Fol. 1. r. inscriptum est: هذا الذيل على خريدة  
 انقصر للعبد انقلب رحمه الله امين ،  
 حمد الله الذي اطلع بوجود محمد ،  
 Praefationis  
 initium, fol. 1. v.: صلعم شموسا وانارا ،  
 Narrantur in hoc libro vitae  
 poëtarum CXCIV. ejusdem saeculi sexti,  
 breviter plerumque, interdum uberius et adjectis variis  
 eorum carminibus. Clauditur codex fol. 89. r.

Titulum libri خريدة القصر ، quem supra dedi-  
 mus e praefatione codicis nostri, codices quo-  
 que Lugdunenses 1609. et 1690. exhibent et  
 Herbelotius s. v. Kheridat alcassar \*\*); paululum

\*) In hoc codice Nânatio Dhammae (تنوين الضم)  
 semper indicatur copulatione signorum vocalium  
 Dhamma et Fa'ha.

\*\*) Ex quo loco corrigenda sunt quae tradidit idem  
 s. v. Emad al-Kateb et s. v. Gerid.



vero ab eo recedit 'Hāg'i Chalfa, vol. III. pag. 133. sq. De auctore conf. Abulfedae Ann. Musl. vol. IV. pag. 190. sq. cum annotationibus Reiskii, et clar. Reinaud, Extraits des hist. Arabes, relatifs aux guerres des croisades, pag. XVII. sq.

## CLXX.

(N. 91. in 4to; olim N. 37. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 154. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus. Continetur hoc volumine *Mu'hammedis el-Emini el-Mu'hibbi appendix ad librum suum*: كتاب

i. e. Odorem suavem ocimi et guttam sanguinis tabernae, agentem de iis, qui facundia gloriam adepti sunt, a *Mu'hammede bin Ma'hmad b. Ma'hmad es-Salati el-Hanafi el-U'mani* edita et eloquentiae specimina varia cum prosaica tum poetica exhibens\*). Fol. 2. r. inscriptum est:

قد ظفرت . ذيل النفحة . Praefatio editoris legitur fol. 2. v., ubi de origine libri haec proferuntur:

يبدى بدر في مسودات المرحوم من عجتت زينته بما العلوم خاتمة البلغا --- السيد محمد الامين الحلي --- قد نظم تلك الدرر وترجم بها شذمة م من الادب محل الغرر طرز بها ذيل كتابه نفحة الرجانه ورشحه طلاب (طلاء: leg.) للانه ورام للافها بها فنعها الدهر عن مرامه وخاله --- فالتقطت تلك الدرر والعقيان --- ورتبتها هذا الترتيب النصير معتمدا cet. في ذلك على قطعة خط المرحوم الى ذلك نشير (خطبة) الفصل الاول فيمن : fol. 4. r. sectio prima : انتشا من بلغا دمشق الشام , fol. 102. r. sectio secunda : فيمن انتشا من بلغا المدينة المنورة , fol. 113. r. sectio tertia : في ذبها حلب الشهبان عن جلو ابرقة اشعارم . Explicit liber fol. 145. v.; sed subjungitur usque ad fol. 153. r. notitia de auctore, quem mortuum esse constat Damasci a. h. 1111.\*\*\*) (Chr. 1699.),

\*) Conf. Flügel, Wiener Jahrb. vol. XCVII. Anzeigeb. pag. 20. Sed pro تحفة الرجانه ibi legendum est: نفحة الرجانه.

\*\*) In codice quidem nostro librarius expressit a. 1011, sed id error factum esse, certissimum est; vid. Flügel, l. 1.

cum carminibus poetarum nonnullorum in obitum ejus. Subscriptio finalis, fol. 153. r. et v., haec est: وهذا ما افاض الله به على عبده . ومخه من . واعلمه ورفده . وهو جامعه الفقير الى رحمة مولاه . الغنى به عمدة سواه . محمد بن محمود السلواتي الحنفي العثماني --- وقد يسر الله جمع ما وجد في مسودات المرحوم المؤلف cet. ونشره في اواخر شوال سنة احدى عشر ومائة وائف . Annotatur praeterea, exaratum esse apographum nostrum mense Rebi' secundo a. 1144. (Chr. 1731.), manu عبد الله الضنبولي (? الازعري ,

## CLXXI

(N. 31. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, continens *Excerpta ex Ibn Abi Uszeibi'ae historia medicorum illustrium*. Post praemissa folia duo, notitiis variis et tabulis genealogicis repleta, legitur titulus, Reiskii manu scriptus: عيون . Excerpta ex Abi Oseibah vitis celebrium Medicorum. Jo. Jac. Reiske scripsit Leidae mense Martio et Aprili 1746. Inter varias annotationes, titulo adjectas, haec quoque reperiuntur: "Librum hunc Latine verti, sed tumultuarie. Eam versionem secum habet Joh. Stephanus Bernard, medicus Amstelodamensis." Incipiunt excerpta a capite VII., desinunt in cap. XV., et occupant paginas 1—325., ubi legitur: "Absolvi d. 9. April. 1746. ipsis vigiliis Paschatis." Annotat Reiskius, annum quo exaratus sit codex, quem descripsit, Lugdunensis, non constare; esse "annum 977. aut 777., vel 797. vel 997." Subjungitur denique pag. 326. sq. "Excerptum ex praefatione", quod XV. libri capitum conspectum complectitur.

De hoc libro ejusque auctore vid. Reiskii miscellanea medica ex Arabum monumentis in Reiskii et Fabri opusculis medicis, ed. C. G. Gruner, pag. 41—63.; Nicoll in Catal. Bibl. Bodl. pag. 126. 131.; Wüstenfeld, Gesch. der arab. Aerzte und Naturf., pag. 132—144.; Cureton, Catal. Codd. Orient. Musei Brit., Part. II. pag. 179.; ex quibus locis corrigenda sunt et supplenda, quae tradit 'Hāg'i Chalfa vol. IV. pag. 258. sq.

Conf. praeterea Reiskens Lebensbeschr. pag. 163. n. 26. \*)

## CLXXII.

(N. 42. in fol.; olim N. 13. in fol.)

*Catalogus librorum, ex 'Häg'i Chalfa excerptus; codex in fol., foll. 372. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi festinanter quidem, sed satis distincte scriptus, optime conservatus. Solos librorum titulos et auctorum nomina persequitur hic liber, adjecta plerumque*

\*) Reiskii interpretatio Latina, laudata *ibid.*, n. 27., in Biblioth. Regia non reperitur; errore enim nituntur, quae de ea tradidit Wüstenfeldius in praef. libri: *Gesch. der arab. Aertzte*, pag. IV.

annorum notatione, quibus mortui sint scriptores. Simillimus est ejus libri, quem descripsit b. Silvestre de Sacy in *Notices et Extr. des MSS. de la bibl. impériale*, Tom. VIII. pag. 200—219., et capsulae, qua inclusus est codex, ut codici Parisiensi, inscriptum est: دفتر الكتب في جامع الأزهر. Incipit catalogus post Besmelam fol. 2. v., explicit fol. 372. v., ubi legitur subscriptio finalis: وبه تم كتاب كشف الضنون عن أسماء الكتب والغنون والحمد لله على هذا ملخصاً منه (sic) المذكور بعد حذف الكثير. Absolutus est codex mense Mu'harrem a. 1176. (Chr. 1762.) manu محمد عيسى العشماني (?) المالكي الأزهرى.

De codice nostro, a Niebuhrio ex Oriente advecto, conf. clar. Flügel in praefatione ad *'Häg'i Chalfae vol. I. pag. III.*

## CODEX DE POLITICA.

### CLXXIII.

(N. 43. in fol.; olim N. 5. in fol.)

Codex in fol., foll. 183. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non pulchre, sed distincte scriptus, continens librum: كتاب سراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والامراء، *Lucerna regum et Chalifarum et via regia praefectorum et Emirorum*, agentem de administratione rei publicae, auctore *Abâ Behr Mu'hammed bin el-Welid el-Qaraschi el-Fihri et-Tartüschi*, vulgo *Ibn Abi Rendaqa* dicto, mortuo a. h. 520. (Chr. 1126.) Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب سراج الملوك تأليف الشيخ -- ابي بكر محمد بن الوليد الفهري انطروشوى رحمه الله -- وهو المسمى بسراج الملوك والخلفاء ومنهاج الولاة والامراء في تدبير الملك والدول مقتضب من كتاب الله العزيز واخبار الانبياء عليهم السلام وسياسات ملوك العرب والعجم والفرس والهند والسند عند مستحسن اخبارهم واخلاقهم ونوادح حكمايتهم وتواقيع رؤسائهم رحم الله مؤلفه وكاتبه وقاربه وجميع المسلمين امين.

Praefationis initium, fol. 1. v., idem est, quod dedit *'Häg'i Chalfa*, vol. III. pag. 589. \*) Dividitur totus liber in capita LXIV., quorum indicem dedit Hammerus, *Wiener Jahrb.* vol. LXXXI. *Anzeigbl.* p. 33. sq. Subscriptio, fol. 183. r., docet absolutum esse librum ab auctore Fustâti, mense Reg'eb a. 516. (Chr. 1122.), apographum vero nostrum scriptum a. 840. (Chr. 1436.) a Mu'hammede bin Mu'hammed bin Ibrahim el-Maghribi ed-Dahhân. Adjiciuntur fol. 183. v. carmen poëtae anonymi et alia nonnulla, quae ad ipsum librum non pertinent.

Vitam auctoris narrat Ibn Challikân, edit. de Slane, vol. I. pag. 671. sq. Errat Herbelotius s. v. Serag' al-Molouk, confundens nostrum cum Averroë, qui vocari solet, clarissimo medico Cordubensi. Conf. *Catal. Bibl. Lugd.* n. 996; *Uri in Catal. Bibl. Bodl.* n. 293. 305. 308.

\*) Reponendum est in edit. Flügeliana *el-Tartüschi pro et-Tarsûsi.*

## CODEX DE LOGICA.

## CLXXIV.

(N. 92. in 4to.)

*Commentarius*, qui vocatur *المطلع*, in *Aḥīr ed-dīni Mufadhhal bin 'Omar el-Abheri*\*) *librum Īsāghūg'i*, auctore *Abū Jāhja Zakarijjā el-Anszāri esch-Schāfi'i*; codex in 4to, foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Africano elegantissime scriptus. Fol. 1. r. char. Nesta'liq inscriptum est: شرح القاضى زكريا . على متن ايساغوجى فى المنطق. Cui libro quondam junctos fuisse alios libros nonnullos, docent, quae infra annotantur pagina eadem: اشتمل

\*) Vid. Lubb el-lubāb, ed. Veth, s. v.; Jacut's Mosch-tarik, ed. Wüstenfeld, pag. 11.; sed conf. Fleischer in Catal. Bibl. Sen. Lips., pag. 349. not.

هذا المجموع على شرح شيخ الاسلام القاضى زكريا على ايساغوجى وشرح السلم للنظام\* والذبيصى على (التبذيب\*\* والقطب على الشمسية\*\*\*), quae scripta versantur omnia in exponenda logica, sed in bibliotheca Regia non reperiuntur. In limine libri, fol. 1. v., commentatoris nomen legitur, quod dedimus supra. Clauditur codex fol. 16. v., exaratus a. h. 1176. (Chr. 176 $\frac{3}{4}$ .) — De *Aḥīr ed-dīni el-Abheri* (vel el-Abahri) *Isagoge* vid. *Hāg'i Chalfa*, vol. I. pag. 502.; de commentario nostro ibidem agitur pag. 504. extr.

\*) Vid. *Hāg'i Chalfa*, vol. III. pag. 610. n. 7225.

\*\*) Vid. *Hāg'i Chalfa*, vol. II. pag. 479. n. 3786.

\*\*\*) Vid. *Hāg'i Chalfa*, vol. IV. pag. 76. n. 7667.

## CODICES GRAMMATICI.

## CLXXV.

(N. 93. in 4to; olim N. 77b. in 8vo.)

Codiculus in 4to, foll. 7. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens librum notissimum, qui vulgo vocatur: مائة عامل i. e. *Centum regentes*, auctore *Abū Bekr 'Abd el-Qāhir bin 'Abd er-Rāhmān el-Gurgāni*, mortuo a. h. vel 471. vel 474. (Chr. 107 $\frac{3}{4}$ . vel 108 $\frac{1}{2}$ .); dissentiunt enim viri docti de hac re, et ipse *Hāg'i Chalfa* non sibi constare videtur; vid. vol. I. pag. 280. n. 644. pag. 512. lin. 2. vol. IV. pag. 278. n. 8419. Conf. praeterea *Silvestre de Sacy*, *Anthol. grammaticale*, pag. 233.; *Krafft*, *Handschriften der orient. Akad.*, n. L. — Fol. 1. r. inscripta sunt disticha nonnulla et alia, quae ad ipsum librum non pertinent, qui incipit fol. 1. v. et absolvitur fol. 6. r. Subjungitur fol. 6. v.—7. v. observatio utilis (فايد) de الاستغنا et الافتقار, in-

clusis in formula: لا اله الا الله. In fine notatur: من تعبير الشيخ عبد الله الشبراوى et adjicitur: انتهى.

## CLXXVI.

(N. 44. in fol; olim N. 34. in fol.)

*Commentarius*, qui vocatur *الايضاح*, *Expositio*, in *Zamachscharii librum* notissimum *المفصل* i. e. uberius exponentem, aut ut malebat *III. Silvestre de Sacy*: *المفصل* i. e. librum uberiorem; codex in fol. oblongo angusto, foll. 206. chartae orientalis laevigatae, variis manibus partim char. Nesta'liq, partim char. Neschi, festinanter et maximam partem pessime exaratus, annotationibus multis in margine auctus. Duo sunt ejusdem nominis *الايضاح* commentarii in *Zamachscharium*, quorum meminit *Hāg'i Chalfa*, vol. I. pag. 516. n. 1573., alter *Ibn el-'Hāg'ibi*, alter *Abū -lbaqāi el-'Ukberi*; uter vero sit

scriptor noster, definire non audemus, cum nominis indicatio nusquam appareat. Praefationis initium, fol. 1. v. pessime scriptum, videtur esse hoc: زف نسر الله اجنبر على طريفة ايك نعبد ، تقدما للامم ، . Quattuor sunt libri partes: de nomine usque ad fol. 106. v.; de verbo, usque ad fol. 132. v.; de particulis, usque ad fol. 160. v; quarta denique, المشتك a Zamach-schario appellata, de variis rebus, ut sunt انتقاء الساكنين ، تخفيف الهمزة ، الوقف ، الامالة ، et alia. Subsistit codex fol. 206. v. in capite de الادغام ، quod ad finem non est perductum. Infra notatur: "Desunt nonnulla."

### CLXXVII.

(N. 94. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 3. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 158. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Praemittitur folium unum, numero non signatum, cui inscripta sunt in pagina anteriore distichon Turcicum, annotationes grammaticae Arabice et infra nomen Joannis Sev. Schelderup, et Arabicis litteris expressum et Latinis, cum designatione anni 1696.; in pagina aversa leguntur notae nonnullae, Turcice scriptae, et excerpta e libro فنون نامه . Continetur hoc volumine:

I. *Commentarius*, qui vocatur الافتتاح *Aper-tio*, in *librum* notissimum المصباح i. e. *Lucernam*, de syntaxi linguae Arabicae conscriptum ab Imâmo *Burhân ed-dîn Abû -lfa'h Nâsîr el-Mutarrizî*, mortuo a. h. 610. (Chr. 1213.) *Com-mentarium* composuit *Hasan Pâschâ*, fil. 'Alâ ed-dîni el-Eswed. Fol. 1. r. legitur titulus: كتاب شرح المصباح المسمى بالافتتاح آفة المولى حسن پاشا ، ابن المولى علاء الدين الاسود ، subjunguntur infra annotationes nonnullae, grammatici argumenti. Incipit praefatio, fol. 1. v., ab iisdem verbis, quae indicavit *Krafftius*, *Handschriften der orient. Akad.*, n. XLIX. Subscriptio finalis, fol. 85. v., docet *librum* esse exaratum في شهر سرامى ، mense

Reg'eb a. 1077. (Chr. 1667.), manu بن على سليمان عن قصبه شند (?) ،

II. Altera pars codicis, fol. 86—158., primum observationes varias exhibet, partim Turcice scriptas, partim Arabicæ; in his analysin grammaticam formularum: رضى الله ، et اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ؛ تعالى عنكم ، ، بسم الله الح ، fol. 87. r.—88. r. Deinde vero sequuntur fol. 88. v.—158. r.: *Ja'qûbi bin Seïd 'Alî annotationes ad commentarium super prae-fationem ejusdem libri المصباح*; de quibus conf. *Krafftius*, l. I. n. XLVIII.; *Fleischer in Catal. Bibl. Senat. Lips.* pag. 343. n. XXVII, 1. et pag. 344. n. XXVIII. Initium libri hoc est: الحمد لله الذى اعرب الكائنات من خرج كاف فون ، -- وبعد فيقول العبد -- يعقوب بن سيد على -- حذو فوايد قيدتبا على شرح ديياجة المصباح حين ما فرأ على ، . Scripta est haec codicis pars eadem manu, qua prior, et eodem loco.

### CLXXVIII.

(N. 32. in 8vo; olim N. 53. in 8vo.)

Codex in 12o, foll. 69. chartae orientalis laevigatae, char. Nestsaliq bene scriptus. Continet is:

I. *Ibn el-'Hâg'ibi* notissimum *librum de syntaxi Arabica*, qui vocatur: النحوية ، *Sufficiens*; de quo conf. *Krafft*, *Handschriften der orient. Akad.*, n. XXXVIII. Incipit liber fol. 1. v., explicit fol. 35. r., notis marginalibus ubique stipatus. — Sequitur:

II. Liber *المصباح*, de *syntaxi*, auctore *el-Mutarrizî*; de quo vid. *Krafftias*, l. I. n. XLVI. In limine libri, fol. 36. v., legitur: مصباح في النحو . Explicit fol. 61. r.; annotationibus item in margine auctus est, et eadem manu scriptus, qua praecedens tractatus. — Subjungitur denique:

III. *Liber centum regentium*, auctore *el-Gurgâni*, de quo egimus ad cod. CLXXV., fol. 61. v.—69. v. Eadem manu scriptus, qua priora, et notis marginalibus instructus.

## CLXXIX.

(N. 95. in 4to; olim N. 71. in 4to.)

Codex in 4to minore, foll. 120. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi ita scriptus, ut quaternas tantum lineas teneant singulae paginae, spatio, quod superest, notis inter lineas adscribendis et adscriptis relicto. Continet *el-Kāfijae Ibn el-Hāg'ibi exemplum alterum*. Perit totum paene primum codicis folium, cui in parte aversa pauca verba introductionis causa fuerunt inscripta; quod nunc est fol. 1., incipit ab ipso auctoris nomine: *قال الشيخ الحج*. Explicit liber fol. 120. v., sed desunt in fine lineae nonnullae.

## CLXXX.

(N. 96. in 4to.)

*Fragmenta duo commentarii in Ibn el-Hāg'ibi Kāfijam*, in 4to, foll. 37. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scripta. 1. Fol. 1—22. 22<sup>b</sup>. 23—26. eam partem Kāfijae illustrant, quae legitur in editione clar. Baillie, (An entire and correct edition of the five books upon Arabic grammar, Part. III. Calc. 1803. 4to.) a pag. 11. lin. 3. usque ad finem pag. 25. — 2. Foll. 27—36. pertinent ad ejusdem editionis pag. 32. lin. 4.—38. lin. 6. Nomen auctoris hujus commentarii ignoramus.

## CLXXXI.

(N. 97. in 4to.)

*Ejusdem commentarii in Kāfijam fragmenta tria*, in 4to, foll. 121. chartae orientalis laevigatae, char. Nesta'liq satis bene scripta. Multae adscriptae sunt notae marginales. 1. Foll. 1—3. pertinent ad editionis Calcuttensis pag. 21. lin. 2.—22. lin. 1. 2. Foll. 4—114. ad ejusdem editionis pag. 22. lin. antepaen. — 77. lin. 2. — 3. Foll. 115—121. ad pag. 78. lin. 1. — 82. lin. 2.

## CLXXXII.

(N. 98. in 4to.)

*Fragmentum alius commentarii in librum eundem*, in 4to, foll. 16. chartae orientalis laevigatae, char. Nesta'liq mediocriter exaratum. Passim adjectae sunt notae. Quod adest, pertinet ad edit. Calc. pag. 76. lin. 2.—84. lin. 4.

## CLXXXIII.

(N. 33. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 125. chartae laevigatae, Turcica manu scriptus. Exhibet is post praemissa, fol. 1. r.—2. r., excerpta varia et Turcica et Arabica, e libris juridicis maxime et traditione prophetica:

I. *Partem libri الفوائد العلية في تأييد الفوائد الصبائية*, auctore *Mu'hammed bin Mu'harrem\**) *et-Tekūni* (محمد بن محرم التكويني). Continet hic liber *annotationes ad glossas marginales*, quae vocantur: *الحاشية للجليلية على الفوائد الصبائية*, conscriptas ab *'Iszām ed-dīn 'Alī*, cujus nomini h. l. subjiciuntur epitheta honorifica: *الناقد العلي*, *والمرشد العلي* (\*\* *الفركي*), et destinatas ad *illustrandum G'āmii*, clarissimi poëtae Persici, *commentarium in Ibn el-Hāg'ibi Kāfijam*, cui titulus: *الفوائد الصبائية\*\*\**. Praefationis initium, fol. 2. v.: *حمدًا لمن جعلنا غير*

\*) Si modo ita pronuntiandum hoc nomen; cognomen quoque *et-Tekūni* nobis ex hoc solo codice notum. — Illum librum, a. Chr. 1811. Constantinopoli impressum, quem laudant cl. de Hammer, *Gesch. des osman. Reichs*, vol. VII. pag. 590. n. 53. et ill. de Rosenzweig in libro *Biogr. Nachrichten über Mewlana Abdurrahman Dschami: كتاب المحرم في حاشية*, a nostro scriptore omnino alienum esse suspicamus.

\*\*) De voce *الفركي* conf. *Sujātii Lubb el-lubāb*, edit. Veth., s. v.

\*\*\*) De commentario *G'āmii* vid. Kraft, *Handschriften der orient. Akad.* n. XXXIX.; v. Rosenzweig, l. l., in *Catal. scriptorum G'āmii*, n. 27.

، منصرفين عن نحو الخ. Abrumpitur oratio fol. 35. r. — Fol. 35. v.—41. r. diversissima occupant excerpta, maximam partem Arabica, juridica, chronologica, magica, poëtica cet., quorum partem fol. 39. r. sua manu scripsisse dicitur clar. Mufti Abû -ssu'ûd; sed id intelligendum de codice, e quo haec ipsa deprompta sunt. Sequuntur deinde:

II. Fol. 41. v.—53. r. scriptoris anonymi *glossae in librum de logica* agentem, cujus nomen et auctorem ignoramus. Ab initio aliquid deesse videtur, et lacunae exstant duae, fol. 51. r. et v. Adjecta sunt in margine excerpta ex aliis commentariis. Finis indicatur formula: تمت الكتاب الخ. — Post interpositas fol. 53. v. 54. r. annotationes nonnullas argumenti iudicii subjungitur:

III. Fol. 54. v.—88. r. *Commentarius Mu'hji ed-dini in 'Husâm ed-dini commentarium ad Aðir ed-dini el-Abherî Isagogen* seu compendium Logices. Idem liber exstat in Bibl. Reg. Dresd. n. 32. et 203, 1.; exaravit eum 'Abd el-'Aziz, regnante in Chersoneso Taurica Qaplân Girâi Chân, qui ter imperium tenuit a. Chr. 1707., 1713—1716. et 1730—1736; et codex quidem noster ante annum 1730. exaratus est, cum inter notas marginales fol. 124. et 125. sint, quae a. h. 1138. et 1139. (Chr. 1725—1727.) scripta sunt. — Fol. 88. v.—93. v. denuo sequuntur excerpta Arabica et Turcica, quae excipit:

IV. Fol. 94. r.—123. r. *Qutb ed-dini Commentarius in Logicam Negm ed-dini 'Ali bin 'Omar el-Qazwini*, quae vocatur *esch-Schemsijje*. De utroque libro vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 76., ubi tamen pro 'Ali bin 'Omar legitur 'Omar bin 'Ali; Fleischer in Catal. Bibl. Senat. Lips. n. XXXIII, 1—3. XXXIV, 1. XXXV. Commentarium Qutb ed-dini in Bibl. quoque Reg. Dresd. asservari sub n. 243, 2., edocemur a clar. Fleischero. In annotationibus, margini codicis nostri adscriptis, laudantur et G'urg'anii commentarius in Schemsijjam, cujus meminit

'Hâg'i Chalfa, et 'Imâd ed-dini commentarius in G'urg'anium, de quo Fleischerus egit, l. I., ad n. XXXV, 2. — Claudunt codicem fol. 123. v.—125. v. annotationes et excerpta ejusdem generis, quod supra indicavimus.

## CLXXXIV.

(N. 99. n 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 4. in 8vo.)

*Ibn el-'Hâg'ibi Tractatus de flexione grammatica et orthographia*, qui vocatur الشافية, Sanans; codex in 4to, foll. 122. chartae orientalis laevigatae, char. Nestsaliq mediocriter scriptus. Neque libri neque auctoris nomen in hoc codice apparet; initium vero, fol. 1. v., post 'Hamdalam hoc est: وبعد فقد سألى من لا يسعنى مضايقته ولا يوافقنى مخالفته أن ألقى بمقدمتى فى الأعراب مقدمة فى التصريف على نحوها ومقدمة فى الخط فاجبتة . . . التصريف علم بأصول يعرف بها أحوال ابينة . . . cet.; quibuscum conf. excerpta Fleischeri e cod. Lips. VI. Clauditur liber fol. 122. v.; sed post fol. 120. lacuna exstat, quae unius videtur esse folii. — Pertinebat codex ad spolia in expugnatione Budae reportata, ut videre licet ex inscriptione ligaturae in fine libri: "Aus der Bibliothek von Dffen."

Ceterum de hoc libro vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 3. sqq.; Fleischer in Cat. Bibl. Dresd. n. 222.; Kraft, Handschriften der orient. Akad., n. XXXVII.

## CLXXXV.

(N. 100. in 4to.)

*Ibn Mâliki grammatica Arabica*, quae vocatur *el-Alfijje*; codex in 4to, foll. 43. chartae orientalis laevigatae, char. Africano optime scriptus. In limine libri, fol. 1. v., legitur auctoris nomen: قال الشيخ الامام العارف الحوى جمال الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك القضاء النسب الأندلسى الاقليم الجبلى المُنشأ (sic) الدمشقى اندارته الله ورضى عنه وفع ببركاته آمين . Sub-

scriptio finalis, fol. 43. r.: كملت الغيبة ابن مالك  
 بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه وبمئنه (sic) ،  
 De auctore ejusque libro conf. praeter editionem clar.  
 Silvestre de Sacy, 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag.  
 407.; Kraft, Handschriften der orient. Akad.,  
 n. XXXII.

### CLXXXVI.

(N. 101. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 543. chartae orientalis  
 laevigatae, char. Neschi distincte quidem, sed  
 minus accurate scriptus, continens *Commenta-*  
*rium in Ibn Mäliki Alfijjam*, qui vocatur: كتاب  
 منتهج المسالك الى الغيبة ابن مالك ،  
 i. e. Via regia via-  
 torem ducens ad millenarium Ibn Mäliki, con-  
 scriptum a *Taqijj ed-dino A'hmed bin Mu'ham-*  
*med esch-Schumunni\**), mortuo a. h. 872. (Chr.  
 1467.) Vid. 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag. 409.  
 extr., ubi impressum est: منتهج المسالك ، quod  
 non probamus; conf. editionem Alfijjae Pari-  
 siensem, pag. 2. Titulus fol. 1. r. codici prae-  
 figuratur: عذا كتاب منتهج المسالك الى الغيبة ابن مالك  
 .تاليف العلامة الشيخ الأشموني رحمه الله تعالى الخ ،  
 Subest error in cognomine الأشموني; confudisse videtur  
 librarius scriptorem nostrum cum illo, cujus  
 mentionem faciunt 'Häg'i Chalfa, l. I. pag. 411.  
 lin. 2. et Silvestre de Sacy, l. I. pag. 3. Prae-  
 fationem\*\*) habes et ipsius commentarii ini-  
 tium fol. 1. v.; finem libri fol. 543. v. Scriptus  
 est codex mense Ramadhân a. 1138. (Chr.  
 1726.), manu Mu'hammedis b. Mu'hammed es-  
 Sûdâni el-Mäliki, qui librum concessit A'hmedii  
 fil. el-'Häg'g' 'Alî Schu'eib.

\*) Vid. Meursinge in prolegg. ad Sojtii librum de  
 interpret. Korani, pag. 16. not. 30., conf. Lubb el-  
 lubâb, edit. Veth., pag. 156. Silvestre de Sacy in  
 commentario ad edit. suam perperam expressit: es-  
 Semeni.

\*\*) Scriptum erat in praefatione المنتهج المسالك ، sed  
 restituitur secunda manus المسالك . — In limine libri  
 mortuus esse dicitur Ibn Mälîk a. h. 672., annos  
 natus 75.

### CLXXXVII.

(N. 45. in fol.; olim N. 16. in fol.)

Codex in fol., foll. 116. chartae orientalis  
 laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus.  
 Continet is librum, qui vocatur: كتاب فرائد  
 في مختصر شرح الشواهد ،  
 i. e. *Uniones mon-*  
*nilium*, liber exhibens *compendium commentarii*  
*in dicta probantia*, auctore *Bedr ed-dino Abû*  
*Mu'hammed Mâ'hmûd bin A'hmed el-'Aini*, mor-  
 tuo a. h. 855. (Chr. 1451.) Sunt vero dicta  
 probantia, quae in hoc compendio explicantur,  
 ea quae in praestantissimis super Alfijjam com-  
 mentariis ad illustranda praecepta Ibn Mäliki  
 allegantur; totus autem liber e majore ejusdem  
 scriptoris opere excerptus est, cui nomen:  
 المقاصد الخوية في شرح شواهد شرح الغيبة ،  
 De utroque commentario vid. 'Häg'i Chalfa, vol.  
 IV. pag. 82. s. v. الشواهد الكبرى والصغرى ،  
 vol. I. pag. 412. sq. Praemittitur codici folium unum,  
 numero non signatum, cui inscriptum est: "Mah-  
 mudî El-aini Sententiae." Fol. 1. r. legitur titu-  
 lus, quem dedimus, Arabice scriptus, subjuncto  
 auctoris nomine. Praefatio, cujus initium no-  
 tavit 'Häg'i Chalfa, incipit fol. 1. v.; subscriptio  
 finalis docet, absolutum esse codicem sub finem  
 mensis Rebi' posterioris a. 1069. (Chr. 1659.)

Idem Bedr ed-dinus el-'Aini in explicandis  
 aliis quoque scriptis, ad litteraturam Alfijjae  
 pertinentibus, operam posuit, ut docemur ab  
 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag. 408. et 414. Alios  
 ejusdem auctoris libros recenset Herbelotius,  
 s. vv. Akd-algiumân, Tarikh al-Akasserah,  
 Tarikh albadr, Tarikh Aini et Tohfât almoulouk.

### CLXXXVIII.

(N. 102. in 4to; olim N. 24. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 23. chartae orientalis  
 laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, con-  
 tinens *Ibrâhîmi bin A'hmed el-'Halebi poëma*,  
 cui inserta est pars *Alfijjae* Ibn Mäliki. Fol.

1. r. inscriptum est: تصمين الغيبة ابن مالك الخويبه  
 في الغزل للعلامة ابراهيم بن احمد الجحلى رحمه الله تعالى امين ،  
 sed non ejus formae hoc poëma est, quae vulgo  
 dicitur Ghazel, verum per disticha dispositum  
 (مثنوى). Metrum idem est, quod Alfijae. Ini-  
 tium fol. 1. v.:

يقول ابراهيم [ابن احمد] الحمد لله دواما سرمدًا ،

Secutum se profitetur auctor exemplum claris-  
 simi Ibn Nubbata, qui simili modo carmini in-  
 seruerat bonam partem libri grammatici ملحمة  
 الاعراب, ab 'Haririo compositi:

انى رايت الفاضل الفريدا ، الخبئة المغتن الوحيددا ،  
 ابن نباتة اديب العصر ، الشاعر الفرد البليغ المصر ،  
 قد مدح الشيخ الامام السبكي ، برجز حلو لطيف السبك ،  
 ضمنه من ملحمة الحريري ، في الحونحو الربع في التقدير ،  
 مفتاحا بغزل رقيق ، الفاظه كالدر والعقيق ،  
 Minio notantur in codice nostro quae ex Al-  
 fijja deprompsit auctor. Finis indicatur fol.  
 23. v.

### CLXXXIX.

(N. 103. in 4to.)

*Abū 'Abd allāhi Muḥammed bin Muḥam-  
 med b. Dāūd esz-Szin'hāgī*, mortui a. h. 723.  
 (Chr. 1323.), *Compendium grammatices Ara-  
 bicae*, quod vulgo vocatur *Agrumia* vel *G'a-  
 rumia*; in 4to, foll. 18. chartae laevigatae re-  
 centioris, char. Africano bene scriptum. Fol.

2. r. hoc modo inscriptus est titulus: المُقَدِّمَةُ  
 اَلْأَجْرُمِيَّةُ. Auctoris nomen legitur in limine  
 libri, fol. 2. v.: قُلُ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ  
 دَاوُدَ السَّنْجَانِي (sic) الشَّهِيرِ بَابِ الْأَجْرُومِ (sic) رَحِمَهُ  
 اللَّهُ. Pro *السَّنْجَانِي* pronuntiandum videtur  
*السَّنْجَانِي*; vid. Sujūtīi librum *Lubb el-lubāb*,  
 edit. Veth., s. v. Scriptio cognominis  
 ei formae similis est, quam e cod. Goth. n.  
 432. deprompsit doct. Wüstenfeld\*): *أَبْنِ أَجْرُومِ*.

\*) In censura libri: Orientalia; edentibus Juynboll,  
 Roorda et Weijers. Vol. I., Gött. gel. Anzeigen,  
 1842. St. 151. 152. pag. 1518. Corrigendus est

— Clauditur caput ultimum, باب محفوظات  
 (مخفوضات) (leg.:), fol. 18. r. Adscriptae  
 sunt ubique vocales.

### CXC.

(N. 104. in 4to; olim N. 43. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 101., Europaeorum more  
 a sinistra incipiens, cui praemittitur titulus:  
 "Commentarius in *Agrumiam*, Parisiis olim ex-  
 scriptus, nunc latine redditus à *Christiano  
 Schnabel*. Roëschildiae, ipsis Cal. Maji MDCCLII."  
 Est commentarius ille, a Schnabelio, scholae  
 cathedralis Roeskildiensis rectore, a. 1755. et  
 1756. Amstelaedami editus, quem scripsit *Châ-  
 lid bin 'Abd allāh bin Abi Bekr el-Azheri*.  
 Codex, quem secutus est editor, in Catal. Bibl.  
 Reg. Paris. videtur designatus esse n. 1284.,  
 quamquam is 'Abbāso el-Azheri adscribitur,  
 qui nostro scriptori auctor fuit componendi hujus  
 commentarii; vid. edit. Schnabelii, part. I. pag.  
 2. — Conf. praeterea Frähnus, Leipz. Lit. Zeit.  
 1830. n. 92. pag. 732. Incipit textus Arabi-  
 cus fol. 1. v., interpretatio Latina, e regione  
 posita, fol. 2. r. Clauditur codex fol. 100. v.

### CXCI.

(N. 34. in 8vo; olim N. 59. in 8vo.)

Codex in 8vo, fol. 99. chartae orientalis  
 laevigatae, char. Nestsliq bene scriptus, usu  
 aliquantum tritus multisque annotationibus in  
 margine et inter lineas auctus. Continet is  
 quattuor *opuscula de grammaticae Arabicae  
 parte etymologica*, in Turcarum scholis maxime  
 usitata, quae conjugationis Arabicae exemplis  
 جملة vel كتاب الحرف (امتله) aucta sub titulo  
 الحرف et Constantinopoli et Bilāqi prope Qā-  
 hiram saepius impressa sunt; vid. Kraft, Hand-

ex his Casirius in Catal. Bibl. Ecur. vol. I. pag.  
 23. n. XCIII. — Clarissimum quoque Frähnium  
 pronuntiare videmus: Adschurrumia: Leipz. Lit. Zeit.  
 1830. n. 92. pag. 732.



schriften der orient. Akad., n. LIII; conf. etiam de Hammer in libro: Fundgruben des Orients, vol. II. pag. 287., et Fleischerus in Catal. Bibl. Senat. Lips. pag. 335. sq. ad cod. IX., qui eadem continet opuscula. Singula haec sunt:

I. Fol. 1. v.—47. v.: كتاب مَرَّاحِ الأرواح، i. e. *Pulvinar animorum*, de flexione (الصرف) institutiones, auctore *Ahmed bin 'Ali bin Mes'ad*, de cuius aetate nihil constat. De tota libri ratione vid. Fleischerus in Catal. Lips. pag. 335. ad cod. VII.

II. Fol. 48. v.—66. r.: *Compendium doctrinae de flexione*, quod vulgo vocatur العزى *el-'Izzī*, auctore *'Izz ed-dīno Abū -lfadhāil Ibrāhīm bin 'Abd el-Wahhāb ez-Zeng'ānī*, mortuo a. h. 655. (Chr. 1257.) Conf. *Hāg'i Chalfa*, vol. IV. pag. 208. Initium libri Fleischerus deprompsit e cod. Lips. IX, 2.

III. Fol. 66. v.—84. r.: *Ejusdem argumenti compendium*, quod vocatur المقصود i. e. Expositum, de cuius auctore vide quae disputavit Kraftius, l. I., pag. 18. Conf. Fleischer ad cod. Lips. IX, 3.

IV. Fol. 85. v.—94. v.: كتاب بناء الأمتثلة، *de flexione verborum*, auctore ignoto; vid. Fleischer ad cod. Lips. IX, 4.

Annotationes variae praeterea inscriptae sunt foll. 84. v. 85. r. 95. r.—96. r. 97. r.—99. r.

## CXCH.

(N. 105. in 4to; olim N. 29. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 135. non ejusdem chartae, maximam partem char. Nestalīq mediocriter, neque eadem manu scriptus, multis annotationibus marginalibus auctus. Continet is:

I. Fol. 1—83.: Scriptoris ignoti *Commentarium in librum Merāh grammaticum* مَرَّاحِ الأرواح، de quo diximus ad cod. praecedentem. Fol. 1. r. inter alia inscriptum est: هذا كتاب شرح مَرَّاحِ، Fol. 1. v. incipit praefatio, cuius magna pars

tam male habita est, ut jam legi vix possit. Annotamus tamen, auctorem libri مَرَّاحِ h. l. vocari: أبو الفضايل أحمد بن علي بن مسعود، cui nomini superscriptum est: المنسوب إلى حو (?). Ipse commentarius incipit fol. 2. v. Determinatur fol. 3. r. vera vocis مَرَّاحِ pronuntiatio: بفتح الميم. Ultima libri verba, fol. 83. r.: قوله وتقول في تنبيه المونث التي في صدر الكتاب غني عن الشرح، Subjungitur subscriptio finalis, quae scriptum esse librum narrat a. h. 885. (Chr. 1480.) a Sa'd ed-dīno, fil. Schihāb ed-dīni A'hmed bin Abi -nnūr 'Hamza, 'Hanefita. — Sequitur:

II. Fol. 84—134.: *Commentarius in alium librum de flexione grammatica*, cuius auctorem ignoramus, ab initio mutilus, ut videtur; sunt enim tantum non deleta quae scripta fuerunt fol. 84. r. Lacunae praeterea exstant nonnullae, totusque liber pessime exaratus est. Desinit fol. 134. v. et scriptus esse dicitur mense Rebi' priore a. h. 828. (Chr. 1425.) ab حسين بن انبيك (?); quod tamen de apographo nostro intelligendum non erit.

## CXCHH.

(N. 106. in 4to; olim N. 61. in 8vo.)

*Alius in librum Merāh commentarius*, in 4to, foll. 143. chartae orientalis laevigatae, char. Nestalīq mediocriter scriptus. Est idem liber, quem descripsit Fleischerus in Catal. Bibl. Senat. Lips. pag. 335. cod. VII., et recenset etiam Kraftius, Handschriften der orient. Akad. n. LV. In codice nostro libri initio fol. 1. v. superscriptum est: شرح مَرَّاحِ لديك قوز، Et hoc quidem nomen est viri, quem *Hāg'i Chalfa* quoque commemorat inter eos, qui commentarios scripserunt in librum Merāh; in excerpto tamen Hauniensi, cod. nostro CLXXII., exaratum est: ديك قوز pro دينقور. Conf. Flügel, Wiener Jahrb. vol. XCVII., Anzeigbl. pag. 6.; Catal. Bibl. Paris. ad cod. MCCIV; Casiri, vol. I.,

ad codd. Escorialenses CLXIV, 2. CLXV, ubi idem Ahmed Aldonghoz claruisse dicitur a. h. 1026. (Chr. 1616.) Clar. Frähnus denique, in diario: Leipz. Lit. Zeit. 1830. n. 92. pag. 730., *Schems ed-dîni Ahmed Dongus* commentarium in librum Merâh commemorat, auctoremque floruisse tradit post medium saeculum Christianum XV. — Desinit liber fol. 143. v. et exaratus est a. 1049. (Chr. 1630.) manu Hasani bin Jûsuf.

### CXCIV.

(N. 107. in 4to; olim N. 52. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 156. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, madore nonnihil laesus. Continet *grammaticam Arabicam*, cui titulus: *سحت المطالب وحس الطالب* i. e. Disputatio de quaestionibus et excitatio studiosi, auctore *Gabriele Far'hât*, Maronita.\*) Praefationis initium, fol. 1. v., post formulam: *بسم الحمد لله الذى اصلىح بكلمته الانفس*, *الختلة*, *واعرب بقدرته الفعالة عن الافعال السالمة والمعتلة*, Libri auctor in praefatione hoc modo designatur: *جبريل بن فرحات النفس الراعب الخلى الماروقى الحقيقير* المنطوقى *سحت قانون الرحمان الدبنانيين المتوشحين باسكيم*. *القديس انطونيوس الكبير*. Dividitur totus liber in introductionem (*المقدمة*), quae agit de litteris et vocalibus linguae Arabicae, in tres libros, de flexione verborum, de flexione nominum, de syntaxi, et coronidem. Incipit introductio fol. 8. r., clauditur liber fol. 156. r. Scriptus est

\*) Impressus est, ni fallimur, idem liber in insula Mellita, a. 1834. Vid. Catal. Codd. Orr. Musei Brit., P. II. pag. 50. not.

codex mense Hazirân a. Chr. 1720. Annotatur praeterea in fine: *بلغ مقابلة على قدر الامكان سنة 1721*.

### CXCV.

(N. 108. in 4to; olim N. 86. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 167. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi recentiore manu, ni fallimur, Turcica bene scriptus, continens *Exercitationes grammaticas*, compositas, ut videtur, in usum hominis alicujus Europaei. Quattuor sunt sectiones, quibus neque titulus neque praefatio praemittitur. Sectio prima, agens de particulis Arabicis earumque usu, incipit fol. 1. v. et hanc habet inscriptionem: *المقالة الاولى في حروف العربية ووضعهم بالكلام*, *فصول*, de particulis loci, temporis, numeri, cet., quae singulae primum enumerantur, praxi deinde illustrantur. Primis paginis adjecta est interpretatio Anglica, e regione textus Arabici posita, sed ultra fol. 6. ea non procedit, et in reliqua codicis parte singulorum foliorum pars anterior nihil continet scripti. — Fol. 30. v. sequitur sectio secunda: *المقالة الثانية في صوب الكلام بالخاصية لتعليم اللغة العربية*. Sunt septem illi dialogi, quos edidit b. Langlesius in calce libri: *Grammaire de la langue Arabe vulgaire et littéraire* par Savary. Conf. etiam ejus libri praefatio, pag. IX. — Sectio tertia incipit fol. 81. v.: *المقالة الثالثة في بعض حدايا حكمه*. *سحكه* (sic) *تعليم امتداد القول العربى*, Fabulas maxime continet. — Fol. 147. v. denique incipit sectio ultima: *المقالة الرابعة في الاحاديث والامثال المستعجلة بين العرب*, *quam claudunt quinquaginta et proverbiis Salomonis*. Absolvitur codex fol. 167. v.

## CODICES LEXICALES.

### CXCVI.

(N. 46. in fol.; olim N. 1. in fol.)

Clarissimum *G'auharii Lexicon Arabicum*, in fol., foll. 299. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Initium libri, fol.

1. v., alia manu suppletum, hanc habet inscriptionem: *هذا كتاب الصحاح الجوزى (sic) رحمة الله عليه رحمة واسعة*. Subscriptio finalis, fol. 299. v., absolutum esse codicem indicat mense Ramadhân a. 702. (Chr. 1303.) — De vita auc-

toris vid. Scheidius in fronte speciminis G'auharii, a. 1776. editi, et Hamakerus in spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 49. sqq. Conf. Hāg'i Chalfa, vol. IV. pag. 91. sqq.; Möllerus in Catal. Bibl. Goth. ad n. 481. — Codex a b. von Haven Qāhiraē comparatus; vid. J. D. Michaelis, lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 40. n. 8.

### CXCVII.

(N. 109. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, continens *particulam lexicī G'auhariani*. Praefixa sunt codici folia nonnulla, quibus Reiskius inscribere indicem rerum incepit. Deinde sequitur titulus: الجزء الثالث من كتاب تاج اللغة وصحیح العربية تصنيف الشيخ ابي نصر اسمعيل بن حماد الجوهري رحمه الله فيه باب الرء باسره. Folium sequens exhibet "Supplementum Gieuharii, inserendum p. 2. l. 9." Paginae deinde 1—392. occupat textus G'auharii ab initio litterae Rā usque ad radicem قرر; annotatur in fine: "Hucusque pertingebat Codex Golianus. Magna hinc lacuna ad litteram Je usque, quae integra quidem exstabat, sed maculis et aqua eluta ut legi non potuerit; hinc non descripsi." — Asservatur cum hoc codice "Index rerum et auctorum in tomum tertium Lexici Ghieuhariani," foll. 10. — Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 157. n. 9.

### CXCVIII.

(N. 47. in fol.; olim N. 6. in fol.)

*Firāzābādī Lexicon* praestantissimum, quod vocatur *el-Qāmūs*, in fol., foll. 592. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptum, optime conservatum. Fol. 1. r. a Mu'hammede quodam el-Misrī, codicis quondam possessore, char. Nesta'liq' inscriptum est: هذا كتاب قاموس اللغة في جلد واحد من تمام. Fol. 2. r. versus nonnulli leguntur Arabici et Turcici. Praefatio incipit fol. 2. v.; clauditur liber fol. 592. r. Absoluta est scriptio mense Szafer a. 959.

(Chr. 1552.) ab A'hmede bin Mu'hammed Sibaweihī, 'Hanbelita, et collatio instituta cum autographo auctoris. Destinatus erat codex Bibliothecae viri illustris: تاضي القضاة خير الدين عالم المسلمين ابي المكارم خضر الحنفى -- بمدينة الخانقاه (السرياقوسية\*) -- وكامل اقليبي الشرقيه والقلبيويه -- , Accedit fol. 592. v. *initium disputationis grammaticae de genere masculino et feminino*, e tractatu clarissimi *el-Mutarriżi* excerptae, eadem manu exaratum, qua totus codex. Inscriptio haec est: هذه مقدمة في بيان التذكير والتانيث والاسماء المونثة السماعية والاعداد التي تأتيها على عكس تأتيث سائر الكلمات نقلتها عن الرسالة الخوية للامام المطرزي وذيلت بها كتاب تبركا وتيمنا -- ,

Ceterum de Firūzābādīo ejusque lexico vid. Hāg'i Chalfa, vol. IV. pag. 488. sqq.; Hamaker in Spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 177. sqq. — Codicem nostrum Qāhiraē comparavit b. von Haven; conf. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th. II. pag. 42. n. 28.

### CXCIX.

(N. 110. in 4to; olim N. 26. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 490. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet *Schihāb ed-dīn A'hmed bin Mu'hammed b. 'Alī el-Maqarrī el-Fajjāmī Lexicon*, alphabeticè digestum, quod vocatur: المصباح المنير في غريب المصباح الكبير, i. e. *Lucerna radians*, liber *explicans voces insolitas in commentario magno obvias*.\*\*) Commentarius magnus, qui vulgo dicitur, auctorem habet Imām ed-dīn Abū-lqāsīm 'Abd el-Kerīm bin Mu'hammed bin 'Abd el-Kerīm b. el-Fadhl er-Rāfi' el-Qaswīnī esch-Schāfi', et versatur in explicando clarissimi

\*) De hoc coenobio Sti Cyriaci vid. Maerizi's Gesch. der Copten, von F. Wüstenfeld, pag. 108.

\*\*) Hujus codicis enarratio cum errore nostro praetermissa sit supra, ubi agebatur de codicibus ad jurisprudentiam spectantibus, aptissimus nobis visus est hic locus ad reparandam omissionem.

Ghazálíi libro: *الوجيز*, de jurisprudentia secundum principia scholae Scháfi'iticae; vid. Soutjútii librum de interpretibus Korani, ed. Meursinge, pag. 21. n. 63. cum annotatione editoris. — Fol. 2. r. legitur titulus, quem dedimus, adjecto auctoris nomine\*). In limine praefationis, fol. 2. v., idem nomen repetitur. Quam rationem in conscribendo libro secutus sit, his verbis deinde exponit Schibáb ed-dínus: وبعد ذلتي كنت جمعت كتابا في غريب شرح الوجيز للرافعي وأوسعت فيه من تصارييف الكلمة واضفت اليه زيادات من لغة غيره ومن الالفاظ المشتهيات والمتماثلات ومن اعراب الشواهد وبيان معانيها وغير ذلك -- وقسمت كل حرف منه باعتبار اللفظ الى اسما متنوعه الى مكسور الاول ومضموم الاول والى افعال cet. Ipsum lexicon incipit fol. 3. v.: كتاب الالف مع البا وما يتلتهما. — In coronide (خاتمة), quae librum claudit, fol.

\*) Praenomen honorificum Schibáb ed-dín in nostro tamen codice non deprehendimus, sed e Catal. Bibl. Goth. n. 488. deprepsimus. — Libri titulum praefatio quoque repetit.

471. r.—488. v., de fontibus quoque agit, e quibus hauserit; laudantur in his: *التنزيدي* اصلح المنطق — *الجمل لابن فارس*, — *للأزهري*, *لابن السكيت*, aliique ejusdem scriptoris libri; scripta Abú Bekri Ibn el-Anbári et Abú Zeidi Sa'id b. Aus et Ibn Quteibae; *ديوان الادب* اساس البلاغة — *الصحاح للجريري*, — *للفارابي*, *للمعرب للمطري* — *للرخشري*, et alia permulta. Absolvit scriptionem codicis Abú--ssurúr Ibn 'Abd el-Kerim Ibn Mu'hammed Bedri (? بدرى) b. A'hmed Ibn Ibráhim el-Bütig'í\*), mense Scha'bán a. 198., ut legitur fol. 488. v.; sed legendum fortasse 1098. (Chr. 1687.)

Codex noster inclusus est capsula, in cujus operculo scriptum est: *المصباح في اللغة*. Similis inscriptio legitur in cod. Gothano 488.\*\*)

\*) Vid. Soutjútii Lubb el-lubáb, ed. Veth., s. v.

\*\*\*) Möllerus in descriptione hujus codicis annotat Schibáb ed-dínium opus suum ad finem perduxisse a. h. 744. (Chr. 1343.)

## CODICES RHETORICI.

### CC.

(N. 48. in fol.; olim N. 70. in 8vo.)

Codex in fol. minore, foll. 280. chartae orientalis laevigatae, char. Nasta'liq bene scriptus. Continet *Sa'd ed-díni Mes'ád bin 'Omar et-Teftázáni Commentarium uberiolem in Mu'hammedis\*) bin 'Abd er-Ráhmán el-Qazwini librum*, qui vocatur: *تلخيص المفتاح*, i. e. *Epítome libri مفتاح العلوم*, scripti ab Abú Ja'qúb Júsuf es-Sekkáki. De Qazwini

\*) Nomen Mu'hammed, quod in praefatione codicis nostri legitur, alii quoque viri docti huic scriptori tribuunt; apud 'Hág'í Chalfam tamen, quem sequuntur alii, vocatur ille *Mu'hamúd*. Praenomen honorificum fuisse videtur *G'elál ed-dín*; sed apud Kraftium expressum es *G'emál ed-dín*.

epítome vid. 'Hág'í Chalfa, vol. II. pag. 402. sqq.; Fleischer in Catal. Bibl. Senat. Lips. n. XXXII; Kraft, Handschriften der orient. Akad., n. LXIX; de commentario nostro praeter 'Hág'í Chalfam, l. 1., pag. 404., Fleischer in Catal. Bibl. Dresd. n. 314. Is vulgo vocatur *المنقول* i. e. (Commentarius) *uberior*\*), ut distinguatur a commentario brevior, quem continet codex proxime sequens. — Initium praefationis, fol. 1. v.: *أحمد لله الذي أنعمنا حقائيق المعاني ودقيق*, *انبيان وخصمنا ببدائع الايد وروابع الاحسان*, In margine et inter lineas notae passim adjectae sunt per totum librum. Desinit fol. 280. r., absolutus mense Reg'eb a. 1058. (Chr. 1648.),

\*) Praefixum est codici folium, numero non signatum, cui inscripta est haec libri designatio vulgaris: *منقول*.

manu 'Huseini bin 'Omar, in urbe Buda  
(عمارة سنة بدون).

### CCI.

(N. 35. in 8vo; olim N. 16. in 8vo.)

Ejusdem *Teftázánii Commentarius brevior*  
(المختصر) in librum eundem; codex in 8vo, foll.  
149. chartae orientalis laevigatae, char. Nes-  
ta'liq optime scriptus, in margine et inter lineas  
annotationibus passim auctus. Folio, quod  
praecedit ipsum librum, inscripta est designatio  
vulgaris مختصر. Praefatio legitur fol. 1. v., ubi  
auctoris nomen sic scribitur: مسعود ابن عمر

المُدعو بسعد التغتازاني. Eandem cognominis for-  
mam alios quoque libros non paucos exhibere  
notum est; praestat tamen lectio *et-Teftázáni*,  
quam inter alios tuetur Sujútii auctoritas in libro  
Lubb el-lubáb. Absolvitur commentarius fol. 149.  
r.; subscriptio finalis, fol. 149. v., scriptum esse  
docet a Mu'hammede Szádiq bin Musztafá b.  
Mu'hammed, in gratiam filii Mu'hammed Sa'id,  
mense Rebi' posteriore a. 1122. (Chr. 1710.)

Impressus est hié commentarius Calcuttae,  
a. Chr. 1813. — Ceterum vid. 'Hág'i Chalfa,  
vol. II. pag. 404; Catal. Bibl. Goth. n. 528.;  
Krafft, Handschriften der orient. Akad., n. LXX.  
— Codex a b. von Haven Qáhirae compara-  
tus; conf. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, Th.  
II. pag. 40. n. 14.

### CCII.

(N. 111. in 4to, olim N. 34. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 228. chartae orientalis  
laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens  
*partem primam libri* على معاهد التنصيص كتاب  
معاهد التنصيص، وشواهد التلخيص،  
conscripti ab 'Abd er-Rá'hímó  
*Ibn el-'Abbási* ad illustranda poëtarum dicta,  
in Qazwinié المفتاح allegata. De hoc com-  
mentario vid. 'Hág'i Chalfa, vol. II. pag. 411.  
Fol. 2. r. legitur titulus, quem dedimus supra,  
adjecto auctoris nomine, omissa tamen vocula  
"Ibn", quam supplevimus ex 'Hág'i Chalfa. Ini-

tium praefationis, fol. 2. v., concordat cum eis,  
quae laudat idem. Proccedit codex noster usque  
ad initium sectionis tertiae (الفن الثالث في علم  
البديع) libri Telchisz. Secundum subscriptionem  
finale, fol. 227. v., exaratus est codex mense  
Szafer a. 1156. (Chr. 1743.); pars altera in-  
cipere debebat ab his verbis: قول ابي تمام ،  
تردى ثياب الموت حمرا ما اتى ،

لها الليل ألا وفي من سندس خضر ،

Conf. Catal. Bibl. Lugd. pag. 472. n. 1557.

### CCIII.

(N. 112. in 4to; olim N. 33. in 4to.)

'Abd er-Rá'hímó bin 'Isá bin Mursched  
*el-'Umarí* (aut el-'Amri) Commentarius in  
*Sujútii carmen iambicum*, quod vocatur: عقود  
عقود في علم المعاني والبيان ،  
i. e. Monilia margaritarum, carmen agens de doctrina sententiarum  
et expositionis; codex in 4to, foll. 374. char-  
tae orientalis laevigatae, char. Neschi bene  
scriptus. Sujútii carmen metrica compositio  
est libri Telchisz el-Miftá'h, in quo illustrando  
codices praecedentes versantur; vid. 'Hág'i  
Chalfa, vol. IV. pag. 237. — Fol. 2. r. legitur  
titulus, primam commentarii partem spectans:  
الجزء الاول من شرح عقود الجمال في علم المعاني والبيان  
للعلامة ابن مرشد الخنفي عفى الله تعالى عنه امين ،  
Initium libri, fol. 3. r.: اما بعد فيقول في شرح  
الناظم ما يقتضى ان نظم قال ابتدأ فقيه عدول عن  
مقتضى الضاهر --- ،  
quam explicat, prima est carminis Sujútii, cujus hoc est ini-  
tium:

قال انفقير عبد الرحمن ، الحمد لله على البيان ،  
وافضل الصلاة والسلام ، على النبي اوضح الاسام ،  
وهذه ارجوزة مثل الجمال ، صممتها علم المعاني والبيان ،

Subscriptio partis primae, fol. 182. v.:  
انتبى وبهذا انتبى بنا الكلام في شرح الفن الاول من فنون  
هذا الكتاب وهو علم المعاني ويلييه فن البيان وهو الفن  
الثاني ، قال المؤلف رحمه الله في مسودته وكان الفراغ من  
تسويده في غرة شهر ربيع الاخر من شهر سنة اثنتين  
وعشرين بعد الالف من الهجرة النبوية المصطفوية بمكة  
المشرقة السنية ، ثم قال بعد كلمات وكان الفراغ من تسويد

الفنبن الآخرین سابقا على الفراغ من تسويد هذا الفن ،  
وذلك حسبما اقتضاه الحال وعن ، كما يشهد بذلك توارخ  
الفراغ من الفنون المذكورة ، على ما في آخر كل فن  
مستور ، --- قال ذلك بقمه ورتبه بعلمه [بقلمه : leg. :  
مؤلفه العبد الفقير الى المولى القدير عبد الرحمن بن عيسى  
cet. ابن مهشد العربى للحنفى

Fol. 183. r. nihil scriptum est; fol. 183. v.  
legitur annotatio grammatica, quam hic trans-  
scribere juvat: فائدة قل في المعنى\* قد تقع الهمزة فعلا  
وذلك انهم يقولون وآتى بمعنى وعد مضارعه يأتى بحذف  
اواو كما يقولون وقى يقى ووثا يثى والامر منه اذ بحذف  
اللام للامر وبالياء للبسكت في الوقف -- ، فانه يقال كيف  
رفع اسم ان وصفته الاولى للجواب ان الهمزة فعل امر والنون  
للتوكيد والاصل ائبن بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطبة  
ونون مشددة للتوكيد ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين  
cet. — Folia 184. 185. vacua sunt.

Fol. 186. r. legitur titulus partis secundae,  
quae incipit fol. 186. v. Pars tertia (الفن الثالث)  
المنع في البداية) incipit fol. 251. v. lin. 2. Clauditur  
codex fol. 371. v.; absoluta est scriptio mense  
Reg'eb a. 1128. (Chr. 1716.) a librario 'Ali  
el-Wāti (الواطى) el-Māliki. Annotatur in fine  
paginae ejusdem: في اصل المصنف لهذا الشرح انه  
صنف الفن الثالث قبل الثاني والثاني قبل الاول بمكة المشرفة  
--- . مستقره بنا وفي مدرسة الوزير محمد باشا رحمه الله ،  
Folii 372—374. nihil est inscriptum.

## CCIV.

(N. 113. in 4to; olim N. 58. in 4to.)

*Pars prima commentarii Abū Bekri bin  
'Alī el-Hamavi, vulgo Ibn 'Hug'g'e dicti, in  
carmen suum de arte orate dicendi (البيديعي)،  
quod vocavit: تقديم ابى بكر، codex in 4to, foll.  
307. chartae orientalis, char. Neschi satis bene  
scriptus. De hoc carmine ipsoque commentario  
nostro vid. 'Hāg'i Chalfa, vol. II. pag. 34., coll.*

\* Intellige librum معنى اللبيب clarissimi grammatici  
Ibn Hischām.

pag. 31. sq. n. 1735. Mortuus est Ibn 'Hug'g'e  
a. h. 837. (Chr. 1437.) — Fol. 3. r. legitur  
titulus: كتاب شرح البيديعي للشهيد -- ابى بكر بن حجة  
المورى. Infra minio exarata sunt disticha  
duo:

كتبت وقد ايقنت يوم كتبت ،  
بان يدى تغى ويبقى كتابنا ،  
واعلم ان الله سايلها غدا ،

فيا ليت شعرى ما يكون جوابنا ،

Praefationis initium, fol. 3. v., post Besme-  
lam: -- ابو الحسن تنقى الدين ملك المتاديين  
ابوبكر بن حجة الحنفى القادري المورى -- وبعد فيذه  
البيديعيه التى نسجتنا بمدحه صلعم على منوال شرح البرده  
cet. Excitavit scriptorem ad componendum hoc  
carmen doctissimus vir Mu'hammed Ibn el-  
Bārizi\* el-G'uhani (الجيى). Aemulatus est  
et superare sibi visus similis argumenti car-  
mina 'Izz ed-dīni el-Mauszili\*\* et Szafijj  
ed-dīni el-Hilli.\*\*\* Subscriptio finalis, fol.  
304. r.: هذا اخر الجذر [ع] الاول من شرح  
البيديعيه ، يتلوه ان شا الله في اجدل الثاني نوع المباحثه من  
Absolutus est codex mense  
Reg'eb a. 1072. (Chr. 1662.), scriptus in usum  
viri, cui nomen: محمد بن حكارى  
(sic) محمد بن احمد المصرى ثم الانبلى (?) ،

## CCV.

(N. 49. in fol.; olim N. 11. in fol.)

*Ejusdem commentarii pars altera; codex  
in fol., foll. 99. chartae orientalis laevigatae,*

\* Möllerus in Catal. Bibl. Goth. n. 539. expressit el-  
Bādīri, quod non probamus; neque is hoc carmen  
composuit, ut Möllerus tradit, secutus fortasse er-  
rores Catalogi Bibl. Paris. n. 1382., Casirii in  
Bibl. Escur. vol. I. n. CCXCH. et Uirii in Catal. Bibl.  
Bodl. ad n. 1202. 1261.

\*\* Vid. 'Hāg'i Chalfa, vol. II. pag. 36. n. 1712.

\*\*\* Vid. 'Hāg'i Chalfa, l. I. pag. 33. n. 1736. — Codex  
quoque Berolinensis, de quo egit G. H. Bernstein in  
prooemio ad ejusdem Szafeddini Hillensis carmen,  
Lipsiae a. 1816. editum, pag. 5. 6., Ibn Hug'gae  
carmen rhetoricum spectare videtur.

char. Neschi bene scriptus. Fol. 1. r. inscriptus est titulus, eleganter exornatus: الثاني من شرح البيديعية للشيج ابي الحسن تقى الدين ابن حجة، رحمه الله. Supra annotatum est: "Haggiae Comment. in Bediah Tomus II<sup>us</sup>." Incipit fol. 1. v. ubi subsistebat codex praecedens; primo enim loco agitur de hyperbole (المبالغة). Desinit codex in fine folii 99.; sed aliquid deesse videtur.

## CCVI.

(N. 114. in 4to; olim N. 18. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 82. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens 'Abd er-Raûfi el-Munâwi librum, qui vocatur: كتاب عماد البلاغة i. e. *Columna eloquentiae*, compendium, ut praefatio docet, libri: ثمرات القلوب (\*), Fructus cordium, auctore Abû Manszûr 'Abd el-Melik bin Mu'hammed eð-ða'alîbi, mortuo a. h. 430. (Chr. 1038.) De ða'alîbii opere, quod versatur in explicandis vocibus, quae adjuncto vel genitivo vel adjectivo relativo in oratione soluta et ligata tropice usurpari solent, vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 493., et P. de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. 330. sqq. (\*\*); de compendio 'Abd er-Raûfi, mortui a. h. 1031. (Chr. 162½.), 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 253. (\*\*\*) Sed hoc compendium, ut arguit codex noster, eas tantum voces complectitur, quibus jungitur genitivus, paucissimis exceptis, referendis ad المنسوب f). —

\* ثمرات القلوب.

\*\* Corrigenda apud clar. de Gayangos et pronuntiatio vocis ثمار et explicatio vocabulorum et المنسوب.

\*\*\*) Alia ejusdem auctoris scripta recenset idem vol. I. pag. 150. n. 59. et pag. 259. sq. n. 529.; vol. II. pag. 466. n. 3761. et pag. 552.

f) Similis argumenti ða'alîbii librum Hammerus recensuit: Wiener Jahrb. vol. LXII. Anzeigbl. pag. 5. sqq.

Codicis fol. 1. r. inscriptus est titulus: كتاب عماد البلاغة وهو مختصر المصنف والمنسوب للثعالبي اختصار العلامة عبد الرؤف المناوي رحمه الله امين، Praefatio, quam in describendo libro secutus est 'Hâg'i Chalfa, ipsûmque libri initium leguntur fol. 1. v. Et primo quidem loco agitur de ابدال الشام; ultimo loco, fol. 82. r., de يوم عبيد.

## CCVII.

(N. 115. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 37. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Continet is:

I. *Librum de miraculis eloquentiae* (Prophetæ) et de breviter dictis, qui vocatur: كتاب الإعجاز والابجاز, auctore eodem eð-ða'alîbi, de quo diximus ad codicem praecedentem. Minus recte alii hunc librum vocant: اعجاز الابجاز, ut 'Hâg'i Chalfa, vol. I. pag. 350., aut: كتاب الابجاز, ut legitur in Catal. Bibl. Paris. n. MCDIV, 2. et apud Urimum, in Catal. Bibl. Bodl. n. 338.; ab aliis vero haud incommode appellatur: اغر البلاغة, i. e. Lumina eloquentiae; vid. Herbelot, s. v. Egias fil Igiaz et s. v. Gorar al-belagat, et Catal. Paris. l. 1.; sed eam designationem neque in codice nostro reperimus neque apud 'Hâg'i Chalfam. — Fol. 1. r. inscripta sunt haec: كتاب الاعجاز والابجاز, اما الاعجاز, فلكلام (فكلام: leg.) الله تعالى وكلام النبي صلعم واما الابجاز فلاعيان البلاغة واعلام البراعة سحره الشعر [ ] من اصحاب وسايط القلايد واقران القفايد\*) تأليف الشيج العلامة العدة الفهامة الثعالبي رحمه الله سبحانه وتعالى اما بعد: fol. 1. v. Praefationis initium fol. 1. v. امين،. Dedicatus est liber Abû Sa'do Mu'hammed bin 'Ahmed b. Ghassân et in decem capita divisus. Absolvitur fol. 29. r., scriptus mense Rebi' secundo a. 1079. (Chr. 1668.) manu Ibrâhîmi bin Sâlim Hanefitæ, vulgo القفطان dicti. — Typis eum librum exprimi

\*) Haec omnia e praefatione libri deprompta sunt.

curavit cum interpretatione Latina et commentario J. J. Ph. Valetton, Lugd. Bat. 1844. 4to. — Sequuntur:

II. Fol. 29. v.—35. v. *Sententiae centum*, quae tribuuntur *Chalifae 'Alī bin Abī Tālib*: ، مائة كلمة من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، adjecto commentario brevi.

III. Fol. 35. v. lin. 5.—extr. *Initium carminis*, quod vocatur: ، انقصيدة الزينية ، eidemque tribuitur auctori. Distichon primum:

صرمت حبالك بعد وصلك زينب ،

وإلدهم فيه تصرف وتقلب ،

Exciderunt folia nonnulla post fol. 35., desinens in disticho decimo sexto.

IV. Fol. 36., quod nunc est, et 37. r. legitur: ، حديث أم زرع ، multis annotationibus in margine et inter lineas illustrata. Initium hoc

est: حدثنا علي بن حجر أنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى الخ ،

## CCVIII.

(N. 116. in 4to; olim N. 74. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 32. chartae, ut videtur, Europaeae, char. Africano recentiore bene scriptus. Fol. 1. r. char. Rabbinico, sed lingua Hispanica, inscripta sunt haec: "El nombre de este libro es, como se escribe las cartas para los reyes y para los sabios y para los hijos de reyes y para los santos y los — — \*); y tambien de la suerte, que se escriben los papeles de casamientos y quitanzas y de compras y ventas y herencias y debitos y pagamentos." Continet enim codex:

I. Fol. 1. v.—15. v. *Exordia epistolarum* ad reges aliosque viros illustres scribendarum. Inscriptio fol. 1. v. post *Hamdalem* et *Haula-*

qam haec est: هذا كتاب مجموع فيه بعض مشائخ أول انفاط الرسائل للملوك واولادهم والعلماء والفقهاء والنصالحين ، بحمد الله كما وجد ، fol. 15. v. : Sequuntur:

II. Fol. 16. r.—32. v. *Contractuum specimina*, quorum haec est inscriptio: هذا كتاب بعض الوثائق انفاط ما يكتب في الرسوم ورم العقود ،

## CCIX.

(N. 50. in fol.; olim N. 24. in fol.)

Codex in fol., foll. 231. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non male scriptus, continens librum qui vocatur: كتاب بدائع

، هذا كتاب بدائع البدايه i. e. *Ex tempore dicta insignia*, compositum a *Gemāl ed-dīno Abū -Ḥasan 'Alī bin Zhaḥīr*, mortuo a. h. 623. (Chr. 1226.) Fol.

1. r. inscriptus est titulus: هذا كتاب بدائع البدايه (البدايه\*\*) في علم الادب للامام انجمام ارحم العالمة\*\*\*) . Praefatio. اعلام ابن طاهر نفع الله به المسلمين امين ،

التليم أسبيل علينا سترك ، fol. 1. v.: التلميم ، وأسبغ لدينا غفآءك للجزيل ،

Continet praefatio, praeter ea, quae libri originem et dispositionem spectant, introductionem in librum insequentem, cujus sectio prior agit de significatione vocabulorum والرتجال و البدينية ; posterio

discrimen exponit, quod intercedit inter utrumque. Ipsa, quae sequitur, collectio narrationum de versibus et carminibus ex tempore dictis divisa est in capita quinque, quorum hi sunt indices:

Cap. I.: fol. 6. v. ، في بدائع بدايه الاحوية ، ، II.: ، 33. v. (الاجازة†)

\*) Sic corrigendus libri titulus in *Ḥāg'i Chalfae* editione Flügeliāna, vol. II. pag. 26. n. 1705.

\*\*) Repetita per errorem vox البدايه .

\*\*\*) Ita scriptum videtur, sed legendum est: اتعلبا .

†) Fol. 33. v.: الاجازة ان ينظم على شعر غيره في معناه ، ما يكون به تمامه وتكون بين متعاصرين وغير متعاصرين وفي مشتقته من الاجازة في النسقي من اجازة اذا سقا اوسقى له ،

\*) Vocem, quae hic scripta est, non cruiimus.



، التمليط هو ان يجتمع شاعران فصاعدا : Fol. 93. r. v. \* )

في بدايح بدايه الواقعة على العجل في Cap. IV.: fol. 127. v. مقصود واحد ،

في بقية بدايح البدايه ، V.: 155. v.

على تجريب خواطرهم على العجل في معنى واحد ، — والفرق بينه وبين الاجازة ان التمليط يتفق فيه الشعراء قبل العجل عليه او يندبون لذلك وتكثر منهم المناوئة وليس هذان من شروط الاجازة ،

Fol. 230. v. 231. r. legitur epilogus auctoris: قال ابن ظافر قد ضمن هذا الكتاب البديع النظم الغريب الاسم ما وقع لي الى هذا التاريخ من حكايات البدايه وكلما فيه من السجع فخاطري جانب ذره وحالب ذره وساكب Scriptiois annus non notatur. — قطره الا ما استثنيت ارج ،

## ANTHOLOGIAE ET COLLECTIONES, LITTERAS ELEGANTIORES MAXIME SPECTANTES, ET SOLUTA ORATIONE ET LIGATA SCRIPTA CONTINENTES.

### CCX.

(N. 117. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, cui duplex praefixus est titulus, alter ab ipso Reiskio scriptus, alter manu J. C. Krügeri, Diaconi Crimmitschaviensis, ex illo repetitus: روض الاخيار في ربيع الابرار لاني احمد بن الخطيب قاسم بن يعقوب الاماسي "Descripsit e codice Msto quondam Seebischiano, nunc Bibliothecae Regiae Dresdanae, mensibus Junio, Julio et Augusto, 1755. Jo. Jacobus Reiske." De quo codice vid. Fleischeri Catal. Bibl. Dresd. n. 404., ubi inscriptio libri rectius sic reddita est: روض الاخيار المنتخب من ربيع الابرار، i. e. *Prata optimorum, liber delectus e Zamachscharii opere, quod vocatur Ver justorum.* Hujus compendii utilissimi auctor est *Muhji ed-din Abû Ahmed Mu'hammed Ibn el-Chatîb Qâsim bin Ja'qûb*, Amasianus, mortuus a. h. 940. (Chr. 153 $\frac{1}{2}$ ). Conf. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 344. sq. et 484. Quinquaginta capitulum indicem dedit Hammerus, Wiener Jahrb. vol. LXIII. Anzeigbl. pag. 4. sq. — Codicis nostri pag. 1. sq. legitur index in librum insequentem: فهرست ما في الكتاب ، praefatio incipit

pag. 3.; caput primum (الروضة الاولى) pag. 4. Absolvitur totus liber pag. 225., ubi annotavit Reiskius: "Absolvi d. 26. Augusti 1755. Laus Deo!" Sequuntur deinde *Glossae Arabicae* marginales codicis Dresdensis, paginas 155. occupantes, quibus inscripsit Reiskius: "Commentarii ad Raudh ol Achjari." Subscriptio finalis: "Absolvi adspirante deo d. 20. Julii 1755." — Adjecti sunt denique indices copiosissimi in commentarios illos, et generalis, et speciales duo, de nominibus incipientibus a vocibus "Ibn" et "Abû"; de quibus Reiskius: "Hos indices confecit in gratiam meam circa annum 1762. M. Jo. Christian Krüger, anno superiori Crimmitschavae, ubi Diaconum agebat, defunctus. Jo. Jacob Reiske. Lips. anno 1768." — Ultimo codicis folio inscripti sunt primi versus XVII. carminis notissimi *en-Nâbighae*: قصيدة النابغة الدالية, quod edidit Silvestre de Sacy in *Chrestomathia Arab.*, edit. II. vol. II. pag. 143—149. Ejusdem carminis exemplum integrum, a Krügero fortasse exaratum, cum codice nostro asservatur. — Ceterum conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 159. n. 13.; sed quae ibi leguntur, correctione egent.

## CCXI.

(N. 118. in 4to.)

Codex in 4to, *Excerpta tenens Reiskiana e libro anthologico*, cujus nomen in nostro quidem codice non reperitur, sed quem non dubitamus esse anthologiam jucundissimam, quae vocatur: كتاب ریحان الشباب وریعان الشباب في: *Ocimum cordium et flos juventutis*, liber agens de gradibus institutionis, conditam, secundum Hâg'i Chalfam, vol. III. pag. 523., ab illustri viro *Abû -Iqâsim Mu'hammed bin Ibrahim bin Chaire bin el-Medâ'înî*, Hispalensi.\* Ex hujus enim libri apographo Lugdunensi (in catal. impresso pag. 485. n. 1872.) Reiskium excerpta sibi comparasse e Prodidagmatis ad Hagji Chalifae tabulas, pag. 234. n. 10., et vita Reiskii, Germanice scripta, pag. 162. n. 21., notum est, codicisque argumentum et indoles iis, quae de anthologia illa comperta habemus, bene respondent\*\*). Dividitur ea, uti videtur, in sectiones majores et minores, quae appellantur مراتب et مراتب. Sic enim legitur in limine excerptorum Reiskii:

\*) Dubitamus de veritate lectionis in nominibus خبير و المداعبي. Apud Casirium, vol. II. pag. 73., legitur: "Mohamad ben Abraham, vulgo Abulcassemus, apud Arabas vero *Ebn Alnuaimi* nomine clarior, *Cordubensis*, - - Granatae Cancellarii munere functus." Idem mortuum esse nostrum narrat a. h. 564. (Chr. 1165.), quod non repugnat iis, quae ex anthologia ejus deprompsit P. de Gayangos, the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. 516. Sed perperam Casirius duos libros fecit ex uno, inter Mu'hammedis scripta corrupto nomine recensens et ریحان الشباب وریعان الشباب.

\*\*) Nec obstant quae de divisione libri tradidit clar. de Gayangos, l. I., iis non omnino congrua, quae narravit Reiskius in Prodidagmatis, l. I., et confirmat codicis nostri argumentum. Non enim sufficient, quae praesto sunt, ad pernoscendam totius operis singularumque ejus partium rationem atque dispositionem.

## مرتبة الاشعار والاخبار

وعليها في هذا المجموع عمدة المدارج،

et infra: مرتبة الصبر: - مرتبة الورع والامانة والقناعة ونزاهة النفس وبعد اليمة، مرتبة الورع والامانة والوفاء واداب النسيادة، مرتبة الدهاء وافادة التجارب في زيادة العقل والعلم، مرتبة جميرة نواذر من اخبار الجماعير، مرتبة الجود والسماحة والكرم والمياسرة، مرتبة الاقدام والحماسة ولعبة من اشعار احل الملك والرياسة، مرتبة سرعة الجواب للخاصر والكلام المنسكت في الخاضر، مرتبة المدح والمنافلات والنواذر والمصحكات، مرتبة المواعظ والترغيد والانتباز عما في عاجلة من الخط الرجيد.

Quae verba excipit ipsa مرتبة prima. Occupant excerpta Reiskii folia quatuor, numeris non signata, et paginas 1—19. 29—54. 61—74. 77—87. 95—114. 117—123. 129—137. 145—170. 177—203. 209—235. 239 b. 240 b. 241—252. 257—268. — Pag. 55. legitur: "Hic sequebatur historia Hassan et Omru, Tobbaitarum Himjaritarum, quam habebam in Ibn Arabi محاضرة الاميرار p. 195. 196., quare describere hic iterum nolui." — Reliqua nihil habent scripti.

## CCXII.

(N. 119. in 4to; olim N. 92. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 93. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi inaequaliter scriptus. Continet is:

I. *Anthologiam*, quae vocatur: كتاب المرفص، vel plenius, ut in praefatione legitur: عنوان المرفصات والمطريات، compositam a *Nûr ed-dîno Abû -Ihasan 'Ali bin Musâ bin Mu'hammed b. 'Abd el-Melik b. Sa'id*, Hispano, de quo vid. P. de Gayangos, the hist. of the Mohammedan dynasties in Spain, vol. I. pag. 309. sq. Fol. 1. r. praeter libri titulum varia leguntur, in his disticha tria, quibus inscriptum est: لکاتبه الخبير احمد بن الشيخ يوسف، اولمنازي، رقيب الادبا وعميد الفضلا نور الدين ابو الحسن على بن الوزير العالم ابى عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد اللد بن

سعيد بن الحسن بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن  
 عمار بن ياسر العنسي\*) الاندلسي أما بعد حمد الله  
 الذى شرف الانسان على ساير انواع الحيوان ،  
 Excerptis auctor, ut in praefatione ipse narrat, tuenem  
 hunc libellum e majore libro, quem scribere  
 instituerat sub titulo : جامع المرقصات والمطربات وما  
 جامع المرقصات ، ويعنون به عن ساير الطبقات ،  
 المشرق في حلى اهل المشرق ، collecto e duobus  
 amplissimis operibus : ، المغرب في حلى اهل المغرب ،  
 et , centum et quinquaginta libros complectentibus et per spatium an-  
 norum CXV. compositis a sex viris, philologiae  
 studiosis, quorum ipse noster Nûr ed-dînus fuit  
 ultimus\*\*). Continet codex fol. 3. r.—8. r.  
 pauca solutae orationis specimina, e variis  
 scriptoribus deprompta, ut ex 'Abd allâh Ibn  
 el-Mu'tazz, Abû-nnasr el-'Utbi, Bedi' ez-  
 Zemân el-Hamadâni, el-'Harîri, aliisque. Se-  
 quantur deinde disticha et poëmata poëtarum  
 cum orientalium tum occidentalium, et primum  
 quidem inde a fol. 8. r.: المرقصات والمطربات من محاسن  
 شعراء الجاهلية امامهم وحامل لوائهم امرء انقيس ،  
 Recensentur h. l. praeter Amru el-Qaisum en-  
 Nâbigha ed-Subjâni, 'Antara, Tarafa, cet.;  
 quos excipiunt fol. 10. r. الخضمون ، ut Lebidus,  
 en-Nâbigha el-G'a'di, Ka'b bin Zuheir, aliique;  
 fol. 11. v.: شعراء الاسلام الى انقضاء الدولة الاموية ،  
 ut Temîmus, el-Ferazdaq, cet.; fol. 15. r.: الخضمون  
 انباقون من ؛ من شعراء الدولتين\*\*\* ،  
 شعراء صدر الدولة العباسية ، Fol. 16. r. sequuntur  
 poëtae orientis a saeculo post fugam tertio  
 usque ad septimum; fol. 24. v. poëtae occiden-  
 tis inde a saeculo quarto: شعراء المغرب من اول الدير  
 المصرية الى الحكم الخياط والجاهلية وما بعدها الى المائة الرابعة

\*) De hoc cognomine conf. annotationem b. H. E. Weijers  
 ad Sojutii librum de interpretibus Korani, ed. Meur-  
 singe, pag. 85. n. 43.

\*\*) De utroque libro *el-Muschriq* et *el-Mughrib*, a pro-  
 vato scriptoribus nostri ejusque posteris condito, vid.  
 quae alio loco tradidit ipse Nûr ed-dînus: the hist.  
 of the Mohamm. dynasties in Spain, vol. I, pag. 195.  
 sq., coll. annotatione clar. de Gayangos, pag. 477.  
 sq., qui hujus quoque anthologiae mentionem fecit.

\*\*\*) Umajjadarum intellige et 'Abbâsidarum dynastias.

Clauditur liber  
 fol. 31. v.; subjunxit autem librarius de auctore  
 libri notitiam, cui superscripsit: نقل صاحب مجانى  
 ، والنص في تاريخ اهل العصر ،  
 et in qua natus esse  
 dicitur Nûr ed-dînus Gharnâtae\*) in Hispania,  
 a. h. 610. (Chr. 121 $\frac{3}{4}$ .) Varia denique excerpta  
 adjecta sunt fol. 32. r.—33. r. — Sequitur:

II. Fol. 33. v.—93. r. bona pars corporis  
 poëtarum antiquiorum, ab Abû Temmâmo con-  
 gesti, et vulgo *el-Hamâsa* vocati. In limine  
 libri legitur: ويتلوه ان شاء الله تعالى كتاب للاماسة نفع  
 والشيوخ الامام ابو الحسن على بن ثروان بن الحسن الكندي  
 قرأت على الشيخ - ابي منصور موهوب بن احمد - الجوالقي  
 - قال قرأت على الشيخ ابي زكريا - - التميمي - قال قرأت  
 على ابي العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان التتوخى  
 المعري بمعة النعمان كتاب للاماسة اجمع وكان ابو العلاء  
 cet. Caput primum (باب للاماسة) incipit fol. 33.  
 v. extr., et in primis quidem carminibus raris-  
 simae adjectae sunt annotationes, reliqua vero  
 notis omnino destituta. Non una manu videtur  
 exarata haec codicis pars posterior, desinitque  
 fol. 93. r. lin. 6. in medio carmine, cujus auctor  
 secundum codicem nostrum: زياد بن حمل بن سعد  
 ؛ ابن عميرة بن حرب ، sed conf. editionem cl. Frey-  
 tagii, pag. 108, lin. 5. a fine pag. Ultima codi-  
 cis verba sunt: يا ليت شعري ؛ sed corrigendum  
 est: بل ليت ؛ vid. Freyt. pag. 108, lin. 1.

## CCXIII.

(N. 120. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, complectens  
*Excerpta varia e Nuweirii Encyclopaedia Ara-  
 bica*, cui nomen: نهاية الارب في فنون الادب ، conf.  
 ad cod. CXXIX. Et primum quidem tribus  
 foliis continetur "Argumentum operis Nuwei-  
 riani ex ejus praefatione," Arabice, sed a  
 Reiskio Latine versum in Prodidagmatis ad  
 Hagji Chalifae tabulas, pag. 232. sqq. Sequitur

\*) Corrigendus ex his Casirius, vol. II. pag. 110.; sed  
 vid. de Gayangos, l. I., pag. 309.

pag. 1—6. historici argumenti particula: ذكر خير: انتزاع قصى البيت ومكة من خزاعة ومن وى البيت من بعد اسماعيل الى ان انتزعه قصى بن كلاب، quae narratio ex quam operis parte deprompta sit, a Reiskio non indicatum est. Excipiunt eam excerpta e capite primo partis secundae libri secundi, من الباب الاول من انقسم الثاني من الفَن الثاني، quorum haec sunt inscriptiones: pag. 8.: ما يتمثل به من اشعار الخاضعين، pag. 15.: ومن اشعار المتقدمين في صدر الاسلام، pag. 18.: ومن اشعار المتقدمين في صدر الاسلام، pag. 21.: ومن اشعار الخاضعين. In fine hujus sectionis, pag. 35., notatur: "Finis Apophthegmatum." Paginis 36—42. continetur ejusdem partis caput secundum, "de superstitionibus Arabum", من ابواب العرب (leg. في). paginis 42—44. capituli tertii et quarti pars. Paginae 45—80. desiderantur; paginae 81—201. pertinent ad capita I—III. partis tertiae libri secundi, quae agunt de iis, quae scriptores aut poetae dixerint in laudem virtutum; de iis, quae dicta et narrata in vituperationem; de jocosae denique, rare, argute lepideque dictis. — Haec omnia altera olim excerptorum series excipiebat, quae tantum non tota periit; nam quattuor solum ejus paginae supersunt, historici argumenti, et paginae quidem CLX. CX., Arabum historiam antiquam spectantes, CXV. vero et CXVI., ad Noachidarum historiam pertinentes. "Index in Nuweirium," qui codicem claudit, excerptorum partes deperditas quoque spectat, de quibus haec sunt Reiskii verba, ligaturae parti interiori inscripta: "Magna pars huius libri (cum nondum esset compactus) mihi periit Leidae, beneficio cl. Schultensii, junioris, cui commoda veram. Hinc fit, ut plura citentur in indice, quam sunt in ipso libro."

Partem hujus codicis publici juris fecit h. J. L. Rasmussen in Additamentis ad hist. Arabum ante Islamismum, pag. ٦٩—٧٧., quae respondent codicis pagg. 36. lin. 1.—42. lin. 8. et pagg. 42. lin. 19.—44. extr. Paginis 37—40. notulas nonnullas adscripsit idem vir

doctus, quae tamen a Reiskianis, eleganter scriptis, facile distinguuntur. — Conf. praeterea Reiskens Lebensbeschr. pag. 163. n. 24.

## CCXIV.

(N. 121. in 4to; olim N. 40. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 110. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens *anthologiam eroticam*, quae vocatur: ديوان الصبيابة، collectam a *Schihab ed-dino Abū l-Abbas A'hmed bin Jahjā b. Abi Bekr et-Tilimsāni*, vulgo *Ibn Abi 'Hağ'ala* dicto, auctore libri es-Sukkurdan, de quo egimus ad codd. CXLIV. CXLV. Conf. 'Hāğ'i Chalfa, vol. III. pag. 290.; Herbelot s. vv. Hagelah et Sababat; Journal of the American Orient. Soc. 1847. vol. I. pag. XXIII. In codice quidem nostro collectoris nomen nusquam apparet; nihilominus hunc esse *Ibn Abi 'Hağ'ala* librum certissimum est, non vero Chafāğ'ii, cui suum ejusdem libri exemplum adscripsit Hammerus, Wiener Jahrb. vol. LXXXVI. Anzeigeb. pag. 41. sq.\*) — Fol. 2. r. inscriptus est libri titulus; praefationis initium, fol. 2. v., hoc est: الحمد لله الذي جعل للعاشقين باحكام انغرام رنما، Capitulum index legitur fol. 5. v. 6. r.; tractatus introductorius incipit fol. 6. r., caput primum fol. 19. v. Abrumpitur oratio fol. 107. v. in medio cap. XXVII. post verba: وقال محمد بن العفيف (\*\*). — Fol. 108. v. inter alia, quae ad ipsum librum non pertinent, legitur testimonium, quo codicem a Domino von

\*) Hammeri codicem eundem librum continere capitulum index arguit, quem ex illo deprompsit vir illustrissimus. Unius tamen capituli mentionem facere praetermisit, duodevicesimi: في تعنت العشوق على الصب المشوق،

\*\*) Eundem Muhammedem Ibn el-'Afiif et-Tilimsāni civem suum vocat libri auctor vel collector, fol. 107. r. in fine paginae. De hoc scriptore dicemus ad cod. CCXXII. Patrem ejus commemorat 'Hāğ'i Chalfa, vol. II. pag. 87. vol. III. pag. 297. n. 5569.

(N. 123. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 153., *Collectanea* continens, Reiskii manu scripta.\*) Singulae hujus collectionis partes excerptae esse videntur e codice bibliothecae Senat. Lipsiensis, qui in Catalogo Fleischeri signatus est n. CCXCVI. Nam quae continet, haec sunt:

I. Fol. 1. r.\*\*\*) — 2. r. *Praefatio collectionis Lipsiensis*; fol. 2. r. extr. — 4. v. introductio historica ad insequens *Ka'bi bin Zuheir poëma clarissimum in laudem Prophetae*, cujus prima sunt verba: *بانيت سعاد*; fol. 4. v. — 20. r. ipsum poëma cum commentario. Passim adjectae sunt notae marginales, maximam partem criticae. Fluxit ex hoc apographo Lettiana editio, ut narrat Reiskius in vita sua, pag. 49. sq. Conf. Schnurreri biblioth. Arab. pag. 195. sq. — Sequitur:

II. Fol. 20. v. — 117. r. ampla *carminum collectio*, a variis poëtis compositorum, iis, ut non dubitamus, respondens, quae in cod. Lipsiensi leguntur fol. 15. v. — 21. r. et 108. r.—198. r. Annotationum copia satis magna interpretationem maxime spectat. Subscriptio finalis: "Finii d. 16. Sept. 1737." — Deinde:

III. Fol. 119. r.—137. r. *Caput XXIV. libri*, in quo iambicis versibus *de historia Chalifarum* egit *Muhammed bin Ahmed el-Ba'uni*; vid. Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 231. sq., et Fleischerus in Catal. Lips. I. I. ad fol. 50. v.—66. r.

\*) Minus eleganti manu haec collectio exarata est, quam quae seriore tempore scripsit Reiskius; bonarum artium tum temporis studiosus erat in Universitate Lipsiensi.

\*\*) Fol. 1. r. in margine annotatum est a Reiskio: "Iucepi d. 2. Julii 1737.; quocunque die 2. horas impendi."

Haven comparatum esse confirmatur: *صح أن هذا الكتاب بقى في ملك الخواجا (sic) فون هاون*, Foll. 109. 110. nihil scriptum est.

## CCXV.

(N. 122. in 4to; olim N. 59. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 191. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi non pulchre, sed distincte scriptus. Continet librum anthologicum, qui vocatur: *شمار الاوراق* vel *كتاب شمات الاوراق*, i. e. *Fructus foliorum*, auctore *Abū Bekr bin 'Alī el-Hamawī*, vulgo *Ibn 'Huġ'ge* dicto, de quo vid. quae annotavimus ad cod. CCIV.; item *Hâg'i Chalfae* vol. II. pag. 494. et Casirium in *Biblioth. Escorial.* vol. I. n. DXIV, 1.\*) Fol. 2. r. legitur titulus: *كتاب شمات الاوراق تأليف الامام العالم العلامة حجة العرب وترجمان الادب قاضي قضاة العلم في البلاغة تقى الدين رحلته الضالين ملك المتأدبين أبو بكر بن حجة الخنفي منشى دواوين الانشا الشريف بالملك الاسلاميه* cet. Praefationis initium in codice nostro, fol. 2. v., hoc est: *الحمد لله الذى نور بصاير اولى الالباب الخ، وبعد قال الشيخ الامام -- أبو بكر ابن حجة --، اما بعد حمد الله الذى فكنا بشمار اوراق، والعلم الخ،* quae ultima verba sunt eadem, quae laudantur ab Hâg'i Chalfa et Casirio. Desinit liber fol. 189. v., exaratus a *Muhammede Szâlîh bin Ramadhân bin Hamd bin Dâūd*, et ad finem perductus mense *Schawwâl* a. 1115. (Chr. 1704.) — Adjecit librarius fol. 190. r. carmen XIX. distichorum, cui inscripsit: *قتبيده عظيمه لبعضهم، حلو لنا فيه امان لمن جنا، وله انكرامة والرضا لمحبه،*

In margine quoque ejusdem paginae versus nonnulli adscripti sunt, et fol. 190. v. in superiore parte paginae.

\*) Conf. etiam Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 1595. 1596. et Catal. Bibl. Goth. n. 628—630. — Idem liber intelligendus in Catal. Codd. clar. de Hammer, Wiener Jahrb. vol. LXIII. Anzeigebl. pag. 21. n. 85.

IV. Fol. 139. r.—142. v.: خطبة المتزوجين :  
 . سأل الله ، لبعض النورثا\* ) *oratio jocosa de mife-*  
*riis matrimonii*; vid. Fleischerus l. l. ad fol.  
 68. r.—71. r. Subscriptio: "d. 23. Sept. 1736.  
 in Bibl. Senat. Lips."

V. Fol. 143. r.—153. v. "*Ludicra*"; inci-  
 piunt a narratiunculis de Chalifa Hârûn er-  
 Reschid, in cod. Lips. fol. 71. v.—73. r. Sub-  
 scriptio: "d. 1. Octobr. 1737. in Bibl. Senat.  
 Lips."

Enumeratur hic codex in vita Reiskii,  
 Germanice scripta, pag. 156. n. 7. Sed quae  
 antea eodem volumine continebantur, Ibn Du-  
 reidum spectantia, infra recensebimus, ubi de  
 codicibus poetice agemus.

## CCXVII.

(N. 124. in 4to; olim N. 1. in 8vo.)

Codiculus in 4to minoris formæ, foll. 29.  
 chartae orientalis laevigatae, char. Neschi, sed  
 non totus eadem manu scriptus, varia conti-  
 nens, bonas litteras spectantia.

I. Fol. 1. r. et 2. r.—3. v. *Observationes nonnullae philologicae* leguntur, a diversis  
 hominibus et soluta oratione scriptae et ligatae,  
 ut de formis vicinis, quae pro vocabulo عنكبوت  
 usu veniunt; de vocabulis Coranicis, litteram  
 خاء continentibus (في طيات القرآن); versus clar-  
 rissimi grammatici G'emâl ed-din Ibn Mâlik,  
 deprompti e collectione manuscripta illustrissimi  
 lexicographi Meg'd ed-din Mu'hammed bin  
 Ja'qûb el-Fîrûzâbâdi; versus de orthographia  
 nominis urbis Baghdâd; disticha nonnulla G'elâl  
 ed-dini es-Sujûtî; de pronuntiatione voculae  
 اف; de interpretatione mystica vocabulorum  
 grammaticorum اجد هو الخ. — Sequitur:

II. Fol. 4. r.—9. v. *Carmen Burhân ed-*  
*dini el-Bâ'ûni*, ejusdem, ut videtur, scriptoris,  
 quem 'Ilâg'i Chalfa, vol. I. pag. 237. n. 420.,  
 vocat: el-Burhân Ibrahim bin 'Abd el-La'if  
 el-Bâ'ûni, distinguendi ab illo Bâ'ûnio, cujus

\*) Correxerit Reiskius النورثا.

mentio facta est ad codicem praecedentem.\*)  
 Inscriptio, fol. 4. r., haec est: بهذا ملخص تصمين  
 الملحة للشيع الاديب الفاضل بهرمان الدين الباعوني تعمده  
 الله بهرحمته امين. Est enim carmen ludicrum,  
 cui inserti sunt versus multi libri grammatici,  
 quem composuit 'Harrius sub titulo: ملحة الاعراب.  
 Infra inscriptionem de Bâ'ûnio notitia festinante  
 calamo adjecta est, in qua Divâni quoque ejus  
 poetæ mentio injicitur. Ipsius carminis initium,  
 fol. 4. v.:

أصحتُّ شاعراً ببلغ القول ،  
 . محمد ذى انطول الشديد للؤل .

III. Fol. 10. r.—12. v. lin. 4.: مفاخرة السيف :  
 . واقلم للشيع زبي الدين عمر بن الوردى ، i. e. *Certa-*  
*tio gladii et calami*, auctore Zein ed-dîn 'Omar  
 Ibn el-Werdî, notissimi compendii geographici  
 scriptore, quem Sirâg' ed-din alii vocant  
 et de quo dictum est ad cod. XCIII. sqq.

Initium hoc est: قل لما كان السيف واقلم عدتني الجبل ،  
 . واقول وعمدتي الدونة . Ejusdem tractatus, ora-  
 tionem ornata scripti, exemplum alterum habes  
 in cod. nostro CCXXXI. Annexa sunt fol. 12.  
 v.—15. r. carmina nonnulla, festinantius fere  
 scripta, quorum primo inscriptum est: قل الفقيه  
 الامام العارف العلامة شمس الدين انقلاحي المائكي مصمنا  
 لايبات الملحة مدحا فقال رحمه الله تعالى ،  
 . Ultimum locum occupat:

IV. Fol. 17. r.—29. r. *Ibn Dureidi car-*  
*men* clarissimum, dictum, scholiis inter  
 lineas adjectis.

## CCXVIII.

(N. 51. in fol.; olim N. 33. in fol.)

Codex in fol. formæ angustae oblongæ, foll.  
 190. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi  
 bene scriptus, continens *anthologiam*, maximam  
 partem poeticeam, quam insuum usum conscripsit  
 Jânus quidam, fil. en-Nâsziri bin Mu'hammed

\*) Apud Herbelotium Burhân ed-dini nostri cognomen  
 corruptum est in Mâ'ûni; vid. Bibl. Orient. s. v.  
 Maouni.



manu scripta, qua collectio prior. Carmini primo inscriptum est: ولترئيس المقدس المرحوم ابي عبد الله محمد الشيران\* الغرناطي قدس الله روحه ما كتب به عن السلطان المقدس المرحوم ابي عبد الله بن نصر قدس الله تعالى روحه. Sequuntur deinde haec: fol. 108. r. alterum ejusdem poetae carmen; fol. 109. v. disticha Abū 'Abd allāhi el-Azraq el-Ghar-nāṭi et carmen clarissimi Abū 'Hajjān el-Ghar-nāṭi (\*\*); fol. 110. r. aliud carmen, cui inscriptum est: للمولى الاخ المقدس المرحوم ابي العباس احمد ابن المولى المقدس المرحوم ابي الحسن علي بن داود قدس الله روحهما الخ; fol. 111. r. versus nonnulli, auctoribus Ibn el-Chatib el-Gharnāṭi, Abū Is'hāq el-Chafāg'i et Abū 'Umāra el-Baszri; item excerpta e libro, soluta oratione scripto, qui vocatur: كتاب الحكيم والنعيم لفقير الاديب الكاتب المبارع ابي الحسن علي ابن الشيخ الرئيس ذي الوزارتين, ابي عبد الله بن الخطيب\*\*\* (رحمهما الله تعالى, denique 111. v.—115. v. carmen poetae anonymi recentioris (لبعض المتأخرين بغرناطة).

IV. Ultimo loco *specimina* leguntur *epistolarum*, et soluta oratione et ligata scriptarum, fol. 116. r.—129. r.: ومن انشاء المولى الأخ قدس الله تعالى روحه من المراسلات السلطانية. Subscriptio finalis, fol. 129. r., de collectore ejusque aetate certiores nos non facit.—Fol. 129. v. alia manu adjecta sunt poemata tria in laudem urbis Tunetis: لناديب ابي عبد الله محمد† اتمالقي رحمه الله تعالى. Foliis 130. et 131. nihil est inscriptum.

## CCXX.

(N. 36. in 8vo; olim N. 44. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 76. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim variis coloribus

\*) Alio loco scriptum est: وشيران; vid. fol. 108. r. lin. 9.

\*\*) De quo vid. Gayangos, the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. 423. sqq.

\*\*\*) Intelligendus sine dubio Lisān ed-dīnus ille Ibn el-Chatib, cujus vitam scripsit el-Maqqari.

†) Additum h. l. in margine superiore: المعروف بالحكيم الأندلسي.

tinctae, char. Neschi una eademque manu bene exaratus, varia continens scripta et excerpta, litteras maxime elegantiores spectantia. Fol. 1. r. titulus legitur, potiores codicis partes recensens: كتاب اندر النفيس وندخل الانيس وكتاب جنة الوردان في الحسن من انغلما وكتاب الجوارى في الملاح من الجوارى (leg.: الجوارى) وغيره تليف شيخ الشعرا الشيبان الحجازي الخ. Singularum vero sectionum conspectus hic est:

I. Fol. 1. v.—10. r. lin. 1. *Quaestiones XLI. e theologia, jurisprudentia et morum doctrina cum responsis*; quarum collectionem illo titulo اندر النفيس وندخل الانيس indicari vix probabile est, cum nec in ipso libro is appareat, nec ad Schihāb ed-dīnum haec pertineant. Quaestiones enim hasce *Schems ed-dīnus 'Abd er-Rāhīm Ibn et-Tūsi*, concinator urbis Mauszil, mense Scha'bān a. 654. (Chr. 1256.) transmisit Imāmo Abū Muḥammed bin 'Abd el-'Azīs bin 'Abd es-Selām es-Sulemī,\* Schāfi'itae, Qāhīrae degenti, cujus responsa singulas quaestiones excipiunt.

II. Fol. 10. r. lin. 2. — fol. 25. v. *Excerpta varia*, carmina maxime et breviora et longiora, additis interdum auctorum nominibus\*\*); annotationes argumenti diversissimi, preces et alia. Videntur excidisse folia nonnulla, post foll. 10. 16. 17. 21. 25., ubi indices, quos in fine foliorum apposuerat librarius, vel adulterati sunt, vel deleti, vel non conveniunt cum paginae sequentis initio.

III. Fol. 26. r.—36. v. Libellus, qui in praefatione vocatur جنة الوردان في الحسن من انغلما, i. e. *Hortus puerorum*, liber agens de pulchris inter pueros; perinde atque in titulo codicis, fol. 1. r. Sed intercidit praefationis initium, unius fortasse

\*) اسلمى: sic legitur in codice nostro, neque repugnat Sujūtūs in libro Lubb el-lubāb.

\*\*) Inter alios, recentiores maxime, nominantur: esch-Schāfi'ī, Abū 'l-atāhīje, Ibn Abi 'Hag'ale, Szafīj ed-dīn el-Hillī.



paginae scriptura. Ipse liber carminibus constat brevioribus, ab ipso editore compositis in laudem amasiorum cujusvis ordinis et conditionis, a Chalifa et Sultano usque ad opificem et latronem, cujusvis religionis, habitus, nominis. Scriptoris nomen hic quidem non indicatur; est vero is quem titulus prodit, auctor insequentis quoque libelli, in argumento simili versantis, ut ex ejus praefatione cognoscitur, *Schihâb ed-dîn el-Higâsi*, idemque sine dubio, quem commemorat Herbelotius s. v. Schehab. Lacuna exstat post fol. 34. — Sequitur:

IV. Fol. 36. v.—42. v.: كتاب الكُنس للجوارى في الملاح\* من الجوارى من نظم سيدنا ومولانا الاديب الشهاب الحجازى i. e. *Stellae currentes*, liber agens de pulchris inter puellas. Praefationis initium, fol. 37. r.: الحمد لله الذى جعل النساء قوام احوال الرجال. Libri ratio eadem est quae praecedentis.

V. Sequuntur denuo, fol. 42. v.—76. v., *excerpta varia*, in his primum carmen, cui superscriptum est: كتب القاضى جلال الدين المكرم الى الامير جمال الدين موسى بن يعقوب يطلب منه سجاد، alia deinde carmina, usque ad finem fol. 43., ubi index, imo folio adscriptus, lacunam arguit; fol. 44. r.—72. r. pedestris oratio, versibus intermixta; sed folia nonnulla excidisse videntur post fol. 48. Poëtarum nomina plerumque indicata sunt.

VI. Fol. 72. r.—76. v. *Excerpta e libro theologico*, quibus superscriptum: من كتاب عقد العقائد وصياً التوايد ولم أر اسم مصنفة، Adjecta sunt in fine fol. 76. disticha nonnulla ex Haririo et alia.

## CCXXI.

(N. 37. in 8vo; olim N. 30. in 8vo.)

*Collectio scriptorum*, ad litteras elegantiores pertinentium, cum soluta oratione, tum

\* In praefatione pro الحسن legitur الملاح.

ligata compositorum ab *Abû Ishâq Ibrahîm bin Abî-lfa'h bin 'Abd allâh*, vulgo *Ibn Chafâ'ge* dicto et mortuo in oppidulo Hispaniae G'eziret Schuqr a. h. 533. (Chr. 1139.); codex in 8vo, foll. 119. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim rubicundae, char. Neschi bene scriptus. Fol. 1. r. legitur titulus: ديوان

ابن خفاجة الأندلسى رحمه الله ا. م. Eodem nomine idem sine dubio liber designatur ab *Ibn Chalîkân*, edit. de Slane vol. I. pag. 19., et ab 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 245. n. 5181. Praefationis initium, fol. 1. v.: قال الوزير الفقيه أبو اسحاق ابراهيم بن ابي الفتح بن خفاجة اعزه الله تعالى يصدر بيده الخطبة جميلة شعره ويعص ما اقترون به من نثره، الحمد لله الذى عم بفصله ومن بعدله ا. م. Desinit liber fol. 119. v.

## CCXXII.

(N. 126. in 4to.; olim N. 84. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 103. chartae Europaeae, char. Neschi et manu satis rudi, atramento pallidiore exaratus ab homine aliquo Europaeo, linguae Arabicae tantum non penitus ignaro. Continet is *corpus scriptorum elegantiorum Schems ed-dîni Abû 'Abd allâh Mu'hammed bin 'Asif ed-din Suleimân et-Tilimsânî*; eundem, ut videtur, librum, quem commemorat 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 247. n. 5196. et pag. 286. n. 5477.; conf. quae monuimus ad cod. CCXIV. Pater ejus mortuus esse dicitur a. h. 690. (Chr. 1291.) Fol. 1. r. inscriptum est ab eo, ni fallimur, qui codicem exaravit: "Divan le Schams-eddin Abou Abdala Mohammed Ebn-ulshekh Afifed-din Soliman ot tolmaiani" (sic). "Poemata Schams-eddin Abou Abdala etc. Arabice." Libri titulus auro ornatus olim legebatur fol. 1. v., sed nunc deletus est et indocta manu restitutus; infra circulo inscriptum est minio auctoris nomen, quod dedimus; hic tamen perperam scriptum est: التلمانى. Repetitur idem fol. 2. r., in limine narrationis ejus generis, quod Arabes vocant

حكى بعض رواة الأخبار، consessus. Initium، مقامات  
، Fol. 11. r. ووس يوكن (يوثق leg.: به في الأخبار\*)،  
sequitur، للمقامة الثانية، quam excipiunt fol. 27.  
v.—102 r. poëmata, alphabetico ordine dispo-  
sita. Pauca accedunt supplementa fol. 102. r.  
—103 r. Clausula finalis scriptionis tempus  
indicare debet, sed tam mendose scripta est,  
ut usui esse nequeat. — Ceterum conf. Catal.  
Bibl. Reg. Paris. n. 1451.

### CCXXIII.

(N. 127. in 4to; olim N. 31. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 115. chartae orientalis  
laevigatae, char. Neschi medioeriter scriptus,  
continens librum, qui vocatur: قرة الناظر ونزعة  
، i. e. *Delectatio adspicientis et oblecta-*  
*mentum mentis*, et varia complectitur scripta,  
elegantiore litteras spectantia, vel soluta oratione  
vel ligata composita a *Nâr ed-dîno Abû*  
*-Imatn 'Alî bin Sûdân el-Beschbaghâwî\*\**).  
Folia 1—27. ad supplendum codicem ab initio  
mitulum recentiore tempore adjecta esse viden-  
tur. Inscriptio foli 1. duplicem ejusdem libri  
designationem exhibet: هذا ديوان نزعة أنفوس  
؛ ومضحك العبوس وديوان قرة الناظر ونزعة الناظر،  
sed hoc errore factum est librarii, qui inscriptionem  
exaravit, ut e praefatione cognoscitur, cujus  
initium fol. 1. v. hoc est: الحمد لله المنعم عند قبض  
النفوس بشرح الصدور،  
antea se composuisse similis argumenti librum,

\* Legendum fortasse: الأحبار.

\*\* In limine praefationis vocatur is: نور الدين أبو المنن  
، على بن الجناب أنسيفي الشاعري البشباغوى،  
أبو المنن الجناب السيفي على بن  
Fol. 29. r. سودون البشباغوى (البشباغوى leg.)،  
Conf. ديوان ابن سودون، Conf.  
Casirius, vol. I. n. 366., ubi perperam legitur: Ali  
abeschbari, vulgo Ebn Sudun, et n. 448.

نزعة أنفوس ومضحك العبوس،  
i. e. *Oblectamentum animorum et risum movens*  
austero; illi vero, quae jam prodeat, novae  
quasi ejusdem libri editioni, in meliorem or-  
dinem redactae, nomen se imposuisse: قرة الناظر  
؛ ونزعة الناظر، unde apparet in inscriptione hanc  
solam designationem fuisse commemorandam.\*  
— Fol. 2. v. de divisione hujus collectionis in par-  
tes duas (شهران) agitur, quarum prior seria com-  
prehendit, ludicra posterior, in quinque capita  
distributa: الشطر الأول يشتمل على المدح والعتدل وغيرهما:  
من الجدييات الشطر الثاني يشتمل على أنواع من الأناويل  
الهنريبات وفيه خمسة أبواب، 1 في القضايد وانتصاديق،  
2 في الحكايات، 3 في الموشحات انبنايه\*\*، 4 في دوبييت  
وانواع من المواليه\*\*\*، 5 في انظر انجيبه وانحف  
، الغريبه. Aliam deinde sectionem a. 856. (Chr.  
1452.) Qahirae se addidisse narrat noster.  
Pars prior incipit fol. 3. r.; posterior fol. 34.  
r. extr.; appendix, cui inscribitur: وهذا ما قلته  
في طريقة الحجم، fol. 111. r. extr. Subscriptio  
finalis, fol. 115. r., absolutam esse docet co-  
dicis scriptionem mense Ramadhân a. 972.  
(Chr. 1565.)

\*) Minus accurate 'Hâg'i Chalfa quoque vol. IV. pag.  
512. n. 9409. de ratione egit, inter utrumque  
librum intercedente. — Casirius, locis in annota-  
tione superiore laudatis, prioris editionis titulum  
affert; num recte, dubitare licet. Ea enim, quae  
de divisione libri tradit ad n. 366., concordant cum  
codice nostro, et ipsa prima libri verba, quae  
commemorat, in eodem codice formulam libri idem est.

\*\*) Quid significet vox هباييه nobis non constat, sed  
fortasse derivata est a nomine Hibet allâhi, fil.  
Senâ el-mulk, hominis de hoc carminum genere  
optime meriti; vid. quae Hammerus edidit in dia-  
rio: Journ. Asiat. 3<sup>e</sup> série, vol. VIII. pag. 163.

\*\*\*\*) Fol. 83. v. hujus capitis inscriptio sic se habet:  
في ذواييت والرجل والموانيا،  
generibus conferre juvabit Journ. Asiat., l. I., pag.  
163. extr.—165.

**CODICES NARRATIONES ET SIMILIA CONTINENTES, QUAE AD LITTERAS  
ELEGANTIORES PERTINENT.**

**CCXXIV.**

(N. 38. in 8vo; olim N. 25. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 81. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, continens *Consessus*, qui vocantur, XXXI., compositos ab *Abū -Iḥādhl Aḥmed bin el-Ḥusein el-Ḥamadāni*, vulgo *Bed' ez-Zemān* dicto, de quo vid. Ibn Challikān, edit. de Slane, vol. I. pag. 56. sq.; Silvestre de Sacy Chrestom. Arabe, 2<sup>e</sup> édit. vol. III. pag. 259. sqq. Fol. 1. r. inscriptum est: مقامات انشاعها الاستاذ الجليل ابو الفصّل اسد بن الحسين اليمداني الحافظ بديع الزمان رحمة الله امين. Praemissa est fol. 1. v. praefatio brevis, de ipso scriptore ejusque consessibus agens. *Consessus* primus incipit pag. eadem, lin. antep.; clauditur codex fol. 81. r. *Consessus* illi, quos ediderunt Silvestre de Sacy in Chrestom. Arab. et Grangeret de Lagrange in Anthologia Arab., omnes in codice nostro reperiuntur. Ultima pars codicis inde a fol. 80. r. alia manu exarata est, quam quae praecedunt.

**CCXXV.**

(N. 39. in 8vo; olim N. 10. in 8vo.)

*'Haririi Consessus quinquaginta*; codex in 8vo, foll. 340. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus. Textus Arabicus in consessibus XXXIV. prioribus vocalium signis instructus est; reliqua char. paulo minore eleganter quidem scripta sunt, sed vocalibus carent. XXV. consessus priores notis praeterea in margine et inter lineas adscriptis aucti sunt, partim Arabicis, partim Persicis atque Turcicis. Incipit liber fol. 1. v., absolvitur fol. 340. r.

**CCXXVI.**

(N. 128. in 4to; olim N. 51. in 4to.)

*Consessuum 'Haririi apographum alterum*, in 4to, foll. 300. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum, vocalium signis instructum passimque notis auctum, inter lineas adscriptis. Incipit praefatio fol. 1. v.; desinit liber fol. 300. r. Fol. 300. v. inter alia legitur: عذّه للقس لاوندیوس سانه; quem sacerdotem, *'Halebi* natum, a. 1760. Romae vixisse constat e codice CCLXIX., ejus manu exarato et *'Omari bin el-Fāridh* carmina continente.

**CCXXVII.**

(N. 129. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, cui hunc titulum praefixit ipse Reiskius: "*Abi Mohammed el-Kasem ben Ali Haririi Quinquaginta consessus Arabici*. E codice MSS. descripsit Jo. Jacobus Reiske." Desunt tamen consessus tres priores, quos quoniam a. 1731. ediderat Alb. Schultens, describere noluit Reiskius, ut in fine pag. 23. annotavit. Est vero hoc apographum codicis Wolfiani, quondam Hinckelmanniani\*), qui nunc in Biblioth. Civit. Hamburgensis asservatur sub N. CLXVIII.; vid. Reiskens Lebensbeschr. pag. 14., coll. pag. 164. n. 30. — Paginae 1. inscriptus est titulus Arabicus, adjectis iisdem fere versibus, qui leguntur in limine editionis Ill. de Sacy. Prae-

\*) Ut monet Reiskius in praefatione ad editionem consessus XXVI., quem ex hoc ipso codice typis exprimendum curavit. Ejusdem codicis mentionem fecerunt ipse Hinckelmannus in praef. ad Corani editionem et Wolfius in Bibl. Hebr. vol. IV. pag. 776.

fatio incipit fol. 2.; passim adjectae sunt notulae et vocabulorum interpretatio vel Latina vel Germanica. Scholia Arabica e regione textus paginae sequenti inscripta sunt. Pagg. 24—26. scholia nonnulla longiora ad consessus tres priores continent, quae suo editionis Schultensianae exemplo commode adscribere non potuit Reiskius. Pagg. 27. et 28. excisae sunt; nihil tamen deesse videtur. Pag. 29. incipit consessus IV. Inde a pag. 41. scholia Arabica in ipso margine juxta textum Arabicum scripta sunt. Desinit liber pag. 596., ubi notatum est: "Incepi d. 24. Jan. abs. d. 4. April. 1737. Jo. Jac. Reiske. Laus sit Deo."—Pag. 597—602. carmen legitur, cui inscriptum est: *ولله تحريري رحمه الله يمدح نصير الدين سعد الملوك*, Adjecta est in margine interpretatio Latina. Aliud sequitur carmen pag. 602—607.: *كتب الامير نجم الدولة احمد بن ابي الفتح المختار محمد بن ابي الخير الى تحريري رحمه الله تعالى*, et responsum 'Haririi pag. 608—613. Utrique carmini adjecta in margine interpretatio Latina\*). Subscriptio in fine pag. 613. haec est: "Laus Deo d. 13. April. h. X. mat. perfecti tandem laborem longe taediosissimum sessarium et quamplurimis incommodis, sanitatisque ac oculorum noxis implicatum." In fine codicis adjectum est fol. unum, variis annotationibus repletum.

## CCXXVIII.

(N. 130. in 4to.)

*Consessuum 'Haririi apographum quartum*, in 4to, foll. 131. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum, vocalibus tantum non ubique instructum et quondam b. P. Lemmingio, cum Parisiis discederet, ab Ill. Sil-

\*) Haec omnia e cod. Hamburgensi deprompsit Reiskius, non vero descripsit epistolas illas, ab 'Haririo compositas, quae in cod. Hamb. vocantur: *الرسالة السنينية*, et *الرسالة الشينينية*, et in cod. Lipsiensi quoque leguntur; vid. Catal. Fleischeri, n. CCLXXXVI.

vestre de Sacy dono datum. Cujus rei testis est inscriptio prioris e duobus foliis, codici praefixis, sed numeris non signatis. Ejusdem folii pagina altera sequentisque pag. prior quinquaginta consessuum indicem Arabicum continent. Ipsius codicis fol. 1. r. titulus legitur Arabicus; praefatio incipit fol. 1. v. In margine per totum codicem, paucis exceptis paginis, adjecta sunt scholia Turcica, hominis Europaei manu scripta\*), et vocabulorum non paucorum interpretatio Gallica. Absolutus est codex, ut docet subscriptio finalis, fol. 130. v., mense G'umâdâ secundo a. 1171. (Chr. 1758.), manu 'Abd el-Qâdiri, fil. Muszâfae, el-Hallâq (tonsoris). Infra adscriptum est: *تملكه بالكتابة العبد الفقير الى رحمة ربه يوسف ابن شكر الدين البيشار*, et:

*لحظ يبقي زمانا بعد كاتبه*,

*وكتاب لحظ تحت الارض مدفون*,

Fol. 131. r. annotationes variae leguntur, in his notitia de 'Haririi consessibus a Schultensio Latine et a Venturio Gallice versis.

## CCXXIX.

(N. 131. in 4o; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 2. in 8vo.)

Codex in 4to, fol. 174.\*\*\*) chartae orientalis laevigatae, partim char. Neschi, partim char. Nesta'liq, bene sed non una manu exaratus, continens *Ibn Nubbâtae Commentarium in Ibn Zeidûni epistolam* laudatissimam, de qua vid. 'Hâg'i Chalfa vol. III. pag. 358. sq.,

\*) Haec scholia quid valeant, de Saeyus monet in inscriptione, codici praemissa: "Illud" (Lemmingium) "monitum volumus, ne adnotationibus ad oram chartarum scriptis multum tribuat, quae nempe virum arabicae linguae cognitione non satis imbutum, autorem habuisse nobis videntur."

\*\*) Numeris signata sunt a librario folia 172.; primum enim folium, titulum tenens et praefationis initium, signare neglexit, atque ultimum, cui index historicus inscriptus est.

coll. vol. II. pag. 102. n. 2093.)\* De commentario quoque vid. vol. III. l. l. et pag. 590. n. 7095.; in utroque tamen loco ipsum libri nomen corrigendum ex inscriptione codicis nostri.\*\*\*) Conf. praeterea quae de Ibn Nubbâta monuit Kraffius, die Handschriften der K. K. Akad., pag. 180.\*\*\*) — Haec fere codici praemissa est inscriptio †): كتاب شرح العيون في شرح رسالة [ ] ابن زيدون المشهورة عن لسان ولادة بنت المستنكى بالله رحمة الله تعالى أمه ، et supra eam annotatur : لابن نباتة ، Praefationis initium concordat cum eo, quod legitur apud Hâg'i Chalfam; ipsa epistola cum commentario incipit fol. 4. r. Absoluta est scriptio, ut in fine notatur, fol. 172. v., mense Reb' priore a. 1047. aut 1049. (Chr. 1637. aut 1639.); non enim liquet, utrum سبع legendum sit an تسع .

## CCXXX.

(N. 132. in 4to.)

Codex Reiskianus in 4to, ejusdem *Commentarii in Ibn Zeidûni epistolam apographum*

\*) Corrigenda ex Hâg'i Chalfa quae minus accurate de hac epistola tradidit P. de Gayangos, the hist. of the Moh. dynasties in Spain, vol. I. pag. 341. sq. et pag. 473.

\*\*) Idem error corrigendus est in Catal. Bibl. Lugd. ad n. 1576. Hammerus in diario Wiener Jahrb. vol. LXIII. Anzeigbl. pag. 22. n. 88. commentarii nomen recte expressit, erravit in designando auctore.

\*\*\*) Verendum ne in errore incidit doctissimus juvenis, immatura morte patriae suae litterisque nuper ereptus, duos statuens homines ejusdem plane nominis, G'elâl ed-dîn Mu'hammed bin Mu'hammed ibn Nubbâta el-Fâriql (el-Miszri), quorum alter mortuus sit a. h. 762. (Chr. 1369.), alter a. 768. (Chr. 1369.) — Ceterum commentarii in epistolam Ibn Zeidûni auctor ab Hâg'i Chalfa quidem Abû 'Abd allâh vocatur, a Reiskio vero, librum Raudh el-achjâr secuto, Abû Bekr'; utrum sit verius, dijudicare non audemus.

†) Incommodo loco huic inscriptioni insertum erat nomen auctoris hujus commentarii: لابن نباتة ، jam vero haec verba maximam partem deleta sunt.

continens, quod e codice Lugdunensi, olim Warneriano, descripsit Reiskius; vid. praefationem ad editionem epistolae Ibn Zeidûni Reiskianam, pag. V. sq.; Prodidagmata ad Hâg'i Chalfae tabulas, pag. 231. sq. n. 8.; Reiskens Lebensbeschr., pag. 158. sq. Conf. praeterea Schurreri Biblioth. Arab. pag. 227. sq. Ligaturae ipse Reiskius inscripsit: "Ibn Zaiduni Resalet"; codicis vero folium primum, cui titulus videtur fuisse inscriptus, excisum est. Pag. 1. incipit "Praefatio Ibn Nebata\*);" pag. 2.: "Vita auctoris et occasio scriptae epistolae"; pag. denique 7. ipsa epistola cum commentario\*\*); Arabice omnia, cum notis marginalibus Reiskii, passimque Rasmussen. Pag. 173. subscriptio finalis codicis Lugdunensis legitur, a. h. 973. scripti; infra Reiskius annotavit: "Absolvi d. 27. Septembr. 1740. Lugd. Batav."

Fluxerunt ex hoc apographo praeter editionem epistolae Ibn Zeidûni Reiskianam, quae Lipsiae prodit a. 1755., repetitam cum commentarii specimine in Hirtii Institutionibus arab. linguae, pag. 483—515., ea quae publici juris fecit b. J. L. Rasmussen in Additamentis ad hist. Arabum ante Islamismum, pag. 1—40.

## CCXXXI.

(N. 133. in 4to; olim N. 38. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 68. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus\*\*\*). Continentur hoc volumine quae sequuntur:

\*) Ita Reiskius scripsit, contra auctoritatem Hâg'i Chalfae, vol. I. pag. 143. n. 20.

\*\*) Sed non integrum Ibn Nubbâtae commentarium hoc codice contineri e comparatione cum codice praecedente intelligimus. Nam iis, quae ibi leguntur fol. 4. r.—15. v., ad editionis Reiskianae pag. primam et pag. secundae lineam primam pertinentia, in apographo Reiskiano cod. Lugd. una tantum pagina et quod excurrit respondet. Similiter in apographo Reiskiano desiderantur quae continentur codicis praecedentis fol. 170. r.—172. v.

\*\*\*) Fol. 1. recentiore manu suppletum est.

## I. Libellus, cui inscriptum est fol. 1. r.:

الدرة المنيرة في مناقرة الجسر والجزيرة انشأه ابي الفتح محمد  
الازعري المودن رحمه الله ام . i. e. *Margarita splendens*, liber agens *de certatione pontis cum insula*, auctore *Abū-lfaḥ Muḥammed el-Asherī*, praecone sacro; stilo ornato scripta disputatio de virtutibus et amoenitate pontis, ni fallimur, ejus qui ostiis canalis magni Qā-hirini impositus est,\* in insulae, quae appellatur الوسطى eademque esse videtur, quam nunc vocant er-Raudha. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الفتاح، والصلوة والسلام على سيد الملأج، الحمد لله الملك البهر، الذي اجري الذكر، نفع كل فاجر وبهر، Compositum esse libellum a. h. 879. (Chr. 147 $\frac{1}{2}$ .) peroratio docet. Subscriptio finalis fol. 18. r. nomen auctoris ita exhibet: محمد ابو الفتح بن محمد المودن الازعري، et codicem nostrum scriptum esse docet mense G'umādā secundo a. 1009. (Chr. 1600.) — Sequitur:

II. Fragmentum ornato stilo itidem compositum, alia manu exaratum cui inscriptum est fol. 19. r.: كتاب الوصفيين الظرفيين في مفاخرة الحرميين، i. e. *Descriptiones lepidae duae, versantes in contentione duarum urbium sanctarum\*\**. Continet prooemium, cujus auctor nobis ignotus se in hoc opere faciendo virum eloquentissimum 'Ali b. Jusuf ez-Zarendi aemulatum esse dicit. Initium, fol. 19. v.: الحمد لله الذي ألبس أطواق العلبيا سوائف الحرميين الشرفيين، Abrumpitur oratio in fine fol. 29.

III. Similis argumenti liber, sed simpliciter scriptus, hanc habet inscriptionem fol. 30. r.: الحجج المبينة\*\*\* في التفضيل بين مكة والمدينة

\* A C. Niebuhr in itineris edit. Germanica vol. I. pag. 110. vocatur is: قنطرة فم الخليج.

\*\* Infra titulum et in margine carmina nonnulla minora adscripta sunt, quae ad ipsum librum non pertinent.

\*\*\* Apud 'Hāg'i Chalfam vol. III. pag. 18. legendum est: المبينة pro المبينة.

لشيخنا الحافظ أجتهد جلال الدين ابي الفصل عبد الرحمن السبوي الشافعي، i. e. *Argumenta dilucida de praeferenda Mekka aut Medina*, auctore clarissimo *G'elāl ed-din Abū-lfaḥl 'Abd er-Rāḥmān es-Sujātī*. Praefationis initium, fol. 30. v.: الحمد لله الذي فضل بعض خلقه على بعض حتى: Dividitur hic libellus in tres sectiones: في اسما عذيين البلدين، et: في التفضيل بينهما، et: في حد عذيين الحرميين، Accedit coronis, excerpta continens e libro: اخبار المدينة للزبير ابن بكار. Desinit liber fol. 39. r.

IV. Fol. 40. r. varia inscripta sunt poetica, eadem manu qua reliqua pars codicis usque ad finem fol. 68.; sed infra recentiore manu annotatum est: نوابغ الريحشري رحمه الله تعالى، quod proxime sequentia spectat. Nam fol. 40. v.—47. r. lin. 2. leguntur *Zamachscharii dicta* illa praeclara, quae vocantur: الكلم النوابغ، quarumque maximam partem edidit H. A. Schultens in *Anthologia sententiarum Arabicarum*. Lugd. Bat., 1772. 4to.\*\*)

V. Haec excipit fol. 47. r. lin. 3.: الرسالة العقلية لدجلال الدواني رحمه الله، i. e. *Tractatus de calamo*, auctore *G'elāl ed-din (Muḥammed) ed-Deḥānī*, cujus mentionem fecit 'Hāg'i Chalfā, vol. III. pag. 430. n. 6280. Conf. quae de hoc scriptore annotavimus ad codicem Bibl. Regiae Persicum N. VIII. — Sequitur deinde:

VI. Fol. 49. v.: الرسالة العقلية من منشآت مولانا علا الدنيا والدين على جلبي أفندي الشينيم بقنارا قاضي i. e. *Tractatus de calamo*, quem composuit *'Alā ed-dunjā ved-dīn 'Alī C'elebī Efendī*, vulgo *Qanālī* dictus, de quo vid. 'Hāg'i Chalfā l. l. n. 6282.\*\*\*) Scripsit hunc trac-

\*\* Simillima haec sunt iis, quae leguntur in limine libri *الحاجرة* ab eodem scriptore concinnati; vid. ad cod. CZLVIII.

\*\*\* Fol. 40. v. in margine adscriptae sunt observationes variae, a *Zamachscharii* libello alienae.

\*\*\*\* Initium libri post *Besmelam* secundum codicem nostrum hoc est: نك الحمد يا من أكرم الخلق،

tatum in honorem clarissimi Icti Abū -ssu'ūd, vulgo Chāg'a C'elebī dicti. Desinit liber fol. 52. v. lin. 4.

VII. Fol. 52. v. lin. 5. — 53. r. paenult. leguntur *descriptiones poeticae calami*, auctoribus *صهبا الدين بن الاثير*, *موفق الدين ابن الامدى* و *صهبا الدين بن حجة* *تقى الدين بن حجة* *atque atramentarii*, auctoribus *شمس الدين المزين* *et حجة*.

VIII. Fol. 53. r. extr. inscriptio legitur tractatus insequentis: *رسالة في السكين لابن حجة*, i. e. *Tractatus de scalpro*, auctore *Ibn 'Hug'g'e*. Initium, fol. 53. v., post Besmelam hoc est: *هذه رسالة السكين للفاضل تقى الدين ابن حجة الحج*, *قال يقبل الارض انى قامت حدود مكارمها*, Desinit fol. 54. v. lin. 5. Hunc libellum excipit:

IX. Fol. 54. v. — 56. v.: *رسالة مفاخرة السيف*, *واقلم لابن الوردى رحمه الله*, i. e. *Ibn el-Werdii tractatus de certatione gladii et calami*, de quo diximus ad cod. CCXVII.

X. In fine fol. 56. legitur inscriptio libelli insequentis, in eodem argumento versantis\*), quem scripsit *Ibn Nubbata* ille, de quo dictum est ad cod. CCXXIX.: *المفاخرة بين السيف واقلم* للشهيد الامام الفاضل الاديب جمال الدين ابى بكر محمد بن الشيخ الحداد شمس الدين محمد بن محمد ابن نباتة المصرى كتب بها الى الامير ناصر الدين الدوادار رحمة الله عليهم. Initium post Besmelam, fol. 57. r.: *يقبل الارض بانقر لا زالت اقلام النعم ساجدة بامر*, Desinit liber fol. 64. v.

XI. Fol. 65. r. disticha nonnulla leguntur, inscriptiones coronae imperatoris Anúschirwán et praecepta varia. Quae excipiunt fol. 65. v. — 68. v. *Praecepta*, quae fautori suo *Abū Júsuf Ja'qúb bin Ibrahim*, supremo Baghdádi judici, *scripsit clarissimus theologus Abū Hanúfa*: *وصية الامام الاعظم اجتهيد ابو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى لابي يوسف رضى الله عنهما*. Initium hoc est: *فقال يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته*. Fol. 68. v. in margine adscripta est narratiuncula,

\*) Hebraice quoque idem argumentum tractatum est a Charizio in libri Tachkemóni consensu XL.

Abū Hanífam spectans; item disticha nonnulla ab ipso composita.

## CCXXXII.

(N. 134. in 4to; olim N. 20. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 116. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens *collectionem narrationum lepidarum*, quae vocatur: *كتاب المختار من نوادر الاخبار\**, congestam a *Schems ed-dīno Abū 'Abd allāh Mu'hammed bin A'hmmed el-Muqri el-Anbāri*, eodem fortasse scriptore, cujus mentionem fecimus ad cod. CXXXVIII. Praefationis initium: *الحمد لله المنعم* الكريم، *ذى الفضل العظيم*، in sectiones (فصول) decem, quarum prima incipit fol. 3. r. Desinit liber fol. 111. v., absolutus mense Ramadhán a. 1173. (Chr. 1760.), manu 'Omari bin 'Omar el-Bedrāwī el-Azherī. — Narrationes XXXV. ex hoc codice deprompsit clar. Freytag, in chrestomathia Arab. grammatica hist., quae prodit Bonnae a. 1834. 8vo., pag. 31—83. Conf. censuram ejus libri, quam b. C. T. Johannsen, professor Hauniensis, inseruit diario: *Jahrbücher für wissensch. Kritik*, 1835., vol. prioris pag. 692. sqq. — Accedunt in fine codicis, fol. 111. v.—114. v., *excerpta varia*, ligata oratione scripta, *e libro confabulationum nocturnarum* (المسامرات) clarissimi *Mu'hji ed-dīn Mu'hammed Ibn 'Arabi*, الكبريت dicti, aliisque libris; sed haec ad praecedentem collectionem non pertinent.

## CCXXXIII.

(N. 135. in 4to; olim N. 20. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 180. chartae Marocanae, char. Africano recentiore haud male scriptus, aliam *collectionem narrationum lepi-*

\*) Sic legitur in titulo libri, fol. 2. r., et in ipsa praefatione, fol. 2. v. In catalogo librorum, ex 'Häg'i Chalfa excerpto, cod. nostro CLXXII., legitur: *في نوادر الاخبار*.

*darum* continens. In limine libri, fol. 1. v., post Bismelam leguntur haec: الحمد لله هذا كتاب عجيب في الحكايات والمصححات والغرائب، مصححات الملوك، أعلم أرشدك الله حكي انه كان شابا من اولاد النخار، الح. Desinit liber fol. 180. v.

## CCXXXIV.

(N. 136. in 4to; olim N. 80. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 50. chartae Marocanae, char. Africano satis bene scriptus, *narrationes nonnullas fabulosas* \*) continens, quarum hic habes indicem: 1. Fol. 1. v.—17. v.: قصة مدينة *Narratio de urbe aenea*, quae legitur in clarissima illa MI Noctium collectione, edit. Bûlâqensis vol. II. pag. 37—52., edit. Habichtiana, vol. VI. pag. 343—401. — 2. Fol. 18. r.—21. r.: حديث ارم ذات العباد *Narratio de splendissima urbe Irem*; vid. MI Noctium edit. Bûlâq. vol. I. pag. 451—454., edit. Habicht. vol. VII. pag. 171—175. — 3. Fol. 21. v.—28. v. med.: قصة بشر العابد مع عند رحمينا الله، *Narratio de amoribus Bischri et Hindae*. Initium: يقال أن أول عاشق كان في الاسلام فتى من العرب، اسمه بشر بن حازم من بني جيبنة من عرب الحجاز، 4. Fol. 28. v. med.—31. v.: حكاية وصاح اليماني مع خير القصور ابنة الملك مكاييد واسمه زهر اليرباض رحمهم الله *Narratio de amoribus Wadhhdâ'hi Jemansis et Chair el-quszûrae*, filiae regis cujusdam Indici. Initium: ذكروا وائله أعلم بغيبه انه كان فيما مضى من احاديث الامم السانفة ملكا من ملوك الهند يقال له مكاييد اندخور واسمه زهر اليرباض، قصة الجمجمة: 5. Fol. 31. v. lin. antepaen.—35. r. lin. 1.: *Narratio de calca, quam in itinere offendit D. N. Jesus*; eadem, quae versibus Turcicis expressa legitur in cod. Biblioth. Senat. Lips. CCCXV, 6. — 6. Fol. 35. r. lin. 2.—47. v.: حديث الورد في الاكمام، *Narratio de amoribus el-Ward fi takmâmae*;

\*) Praefixus est codici titulus, qui sic se habet: "Ignoti auctoris collectio historiarum et sermonum memorabilium. Arabice, ex Africa."

vid. MI Noctium edit. Bûlâq. vol. I. pag. 546—562., edit. Habicht. vol. V. pag. 34—95. — 7. Fol. 47. v. lin. antep.—48. r.: حديث ابليس *Narratio de Ibliso et Nû'ho* (Diabolo et Noacho). — 8. Fol. 48. r.—50. v.: *Narratio de genio et fascinatrice*. حديث الفتى التي مع المرأة الساحرة.

## CCXXXV.

(N. 137. in 4to; olim N. 15. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 48. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens *Historiam Meg'nûni et Leilae*, narratam ab *Abû Bekro el-Walîbî*, sub junctis carminibus, quae tribuuntur Meg'nûno. Titulus fol. 1. r. in scriptus: اخبار مجنون نبلى واشعاره واسمه اخبار مجنون نبلى واشعاره واسمه قيس بن الملوخ العقبلى ما عنى بجمعه وتدوينه العلامة ابو قل ابو بكر النوالى. In initium libri, fol. 1. v., post Bismelam et 'Hamdalam: بكر النوالى رحمه الله ام، كان من حديث مجنون بنى (sic) عامر وليلى العامرية انها قلت ابو بكر النوالى رحمه الله هذا من جملة: 48. r.: ما تناق البينا من اخبار المجنون واشعاره وما كان محولا من قصيدة او خبر اعرضنا عن كتبه والله تعالى أعلم بالتصواب الح.

## CCXXXVI.

(N. 40. in 8vo; olim N. 80. in 8vo.)

Codex in 8vo minore, foll. 110. chartae Europaeae, char. Neschi bene scriptus. Hoc volumine continentur:

I. Fol. 1—41. *Historia fabulosa 'Haïqâri*, Persici philosophi, qui San'hârîbi aetate vixisse fertur. Fol. 1. r. in scriptum est: "L'histoire d'Aykar; c'est une fable Arabe fort belle;" et alia manu exaratum: "Ex libris Sancti Montis Carmeli. 1670.;" infra denique priore illa manu: "Ce Livre à esté appliqué par N. R. P. Prouinçial a nostre Bibliotheque de Paris." Initium libri, fol. 1. v.: نبتدى بعون الله الح، قصة حيقار الحكيم الفارسى الفيلسوف الماعمر



الذى كان على ايام سخاريب الملك ملك الموصل ، كان في ايام سخاريب ابن سرحادوم ملك اتور ونيوا للكيم الماهر ، حيقار الفارسى الخ ، . Insuper fol. 4. v.—13. r. apophthegmata 'Haiqâri (امثال حيقار) . Clauditur liber fol. 41. v., ubi triplex legitur subscriptio, prima Arabica: عدا\* ما انتيا اليينا من خيم حيقار ؛ للكيم الخ ، altera Arabica, sed char. Syriaco exarata ؛ الحمد لله رب العالمين امين ، ؛ tertia Gallica: "Escrit par le Koury\*\*" Shahedeh prestre Surien en Alepp." — Hanc narrationem in suam editionem interpretationis Gallicae MI Noctium recepit b. Caussin de Perceval, vol. VIII. pag. 167. sqq.; conf. Germanicam interpretationem, Wratislaviae editam, vol. XIII. pag. 86—126. — Foliis 42—46. nihil est inscriptum.

II. Fol. 47—61. Sectio bipartita, alia manu et minus bene scripta. Pars prior hanc habet inscriptionem, fol. 47. r.: "Ce liure est curieux; ce sont diuerses prieres Arabes, que font les [Pre]stres en Ensevelissant les Chrestiens orientaux, en forme d'Exhortations pathetiques;" et fol. 47. v.: بسم الله الواحد الايدى ؛ ترتيبه تغال في جنواز الازى السمردى وبه نستعين ، ترتيبه تغال في جنواز

\* Sic pronuntiatione Syriaca in hoc codice usitata.

\*\* I. e. الحورى ، parochus.

المكاهن\* ) وفي اربعة وعشرين بيتا ، incipiens fol. 54. v. lin. 5., continet *consolationem de liberis mortuis* : تعزية للاولاد المنتقلين ، . Subscriptio, fol. 61. v.: "Escrit par le Shiammas Aslan le gret" (sic) "en Alepp." — Folia 62. 63. nihil habent scripti.

III. Fol. 64—91. *Vigiliae* in honorem S. Virginis, eadem manu scriptae, qua codicis sectio prima. Fol. 64. r.: "Seherat ou Vigiles, c'est a dire de fort belles Louanges de la ste Vierge, que les suriens chantent en Alepp," cet. Initium, fol. 64. v.: بسم الاب الخ ، ترتيب خدمته المديج الذى لا يجب ان يجلس فيه وهو لسيدتنا والدة الله الخ ، . Subscriptio, fol. 91. r.: كملت السهر انه الخ ، et infra: "Cela á este Escrit par le koury Shahedeh Prestre surien d'Alepp." Fol. 91. v.—95. r. nihil scriptum est.

IV. Fol. 95. v.—110. v. *Hymni, καθίσματα* [sessiones] nominati, qui in cod. nostro LXXVII. leguntur. Inest lacuna post fol. 102. a medio hymno VII. usque ad finem hymni XIII.; hymni vicesimi initium tantum adest\*\*).

\* I. e. في جنازة الكهنة ؛ formae sunt linguae Arabicae recentiori propriae.

\*\* Turbatus est a bibliopego foliorum ordo ; fol. quod nunc est 98. collocandum erat ante fol. 97., similiterque fol. 100. ante fol. 99.

## CODICES POETICI.

### CCXXXVII.

(N. 138. in 4to; olim N. 2. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 209. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim rubicundae, char. Neschi pulchro et antiquo scriptus, corpus poëtarum Arabicorum vetustissimorum continens, quod vocatur: كتاب الحماسة *el-Hamása*, collectum a clarissimo poëta *Abü Temnám*. Fol.

1. r. leguntur titulus et decem capitum index; ipse liber incipit fol. 1. v. Vocalium signa per maximam codicis partem adjecta sunt, annotationes rarissime. Subscriptio finalis, fol. 201. v., absolutum esse docet hoc exemplum Damasci, mense Rebi' priora a. 738. (Chr. 1337.), a Ja'qûbo bin Jâsuf bin Abi -Imâ'hâsin, scriba. Accedunt fol. 202. r.—209. r. supplementa nonnulla ad 'Hamásam et varia excerpta, cum

soluta oratione scripta, tum ligata, eadem, qua totus codex, manu exarata, e Mutenebbio, e collectaneis Taqijj ed-dîni bin Ma'hbûb, e scriptis 'Hasani el-Baszri, cet. — Codex a b. von Haven Constantinopoli emtus; vid. J. D. Michaelis lit. Briefwechsel, T. II. pag. 40. n. 13.

## CCXXXVIII.

(N. 139. in 4to.)

*Ejusdem 'Hamâsae apographum* Reiskianum, cum scholiis, in 4to. Titulus codici praefixus hic est: "Hamasa Abi Temami cum scholiis excerptis Merzukii\*) et Tebrizii; descriptis Jo. Jac. Reiske e cod. msto arabico Bibl. Leidens. n. 569.\*\*)" Ipse liber occupat paginas 765. Subscriptio Reiskii: "Absolvi per Dei gratiam d. 12. Maji 1740." Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 159. n. 14.

## CCXXXIX.

(N. 41. in 8vo.)

Altera collectio carminum Arabicorum, quae innouit sub nomine *'Hamâsae posterioris*, congesta ab *Abû 'Ubâde el-Welîd bin 'Ubeid el-Bu'hteri\*\*\*)* et e codice Lugdunensi†) Reiskii manu descripta, in 8vo. Titulus codici prae-

\*) Annotavit Reiskius ad nomen Merzûqii: "obiit anno 421."

\*\*) In Catal. Bibl. Lugd. impresso n. 1569. Exaratus est is a. h. 704. — In margine Reiskius inter alia annotavit: "Haec est Hamasa orientaliū. At Hamasa occidentaliū est: صفوة الأدب وديوان العرب لأبي العباس أحمد بن سلام الروزي الأديب، d'Herbel. p. 797. a." Quae corrigenda ex parte ex 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 104.

\*\*\*) Haec nobis verissima nominis forma visa est. Alios videmus scribere Abû 'Abbâde vel Abû 'Ibâde, quod minus probamus. In efferendo cognomine Bu'hteri secuti sumus auctoritatem libri Raudh el-achjâr, Bibl. Reg. cod. CCX.; Sujâtius tamen in libro Lubh el-lubâb formam Bu'hturi tantum commemorat.

†) Vid. Catal. Bibl. Lugd. impressum, n. 1570.

fixus\*) hic est: كتاب الحماسة تأليف أبي عبيدة الوليد ابن عبيد الجحترى اختاره من اشعار العرب للفتح بن خاقان معارضه لكتاب الحماسة الذى افقه ابو تمام حبيب بن اوس النطائى، رواية ابي العباس احمد بن محمد المعروف بابن ابي خلد Hamasa posterior, "الاحول عن ابييه عن الجحترى، quam Abu 'Obadah el Walid filius Obeidi Bo'htarita e carminibus praestantissimorum poetarum Arabum selegit jussu et in usum el Fatah filii Chakan, ad exemplum Hamasae prioris, quam collegit Abu Temam Habib filius Aus, Thajita; ex editione Abil Abbas Ahmed, vulgo Ibn Abi Chaled Paeti, quam hic publicavit ex fide sui patris, qui librum hunc studuerat, explicuerat et explicari audiverat sub et ab ipso Bo'htarita." — Folium sequens in pagina priore carmen Arabicum exhibet, cui inscriptum est: للجحترى فى الفتح بن خاقان، Collectionis capita CLXXIV. paginas occupant 367. Pag. 368. subscriptio legitur codicis Lugdunensis. Infra annotavit Reiskius: "Nulla aderat nota scribae aut anni. Ego vero absolvi d. 10. Septembr. 1740." Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 164. n. 32. — Ceterum de Bu'hterio praeter 'Hâg'i Chalfam, vol. III. pag. 115. et 266. sq. vid. clar. Freytagii Selecta ex hist. Halebi, pag. 92. sqq., et Hamakeri Spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 15. n. 48.

## CCXL.

(N. 42. in 8vo.)

Collectio carminum, quae vulgo vocatur *Dîwân Hudeilitarum*, cum commentario *es-Sukkariî*, a Reiskio e codice Lugdunensi\*\*) descripta, in 8vo. Titulus atque subscriptio finalis in hoc codice desiderantur; sed in dorso ligaturae Reiskii manu, ut videtur, scriptum est: "Diwan Hudeil." Conf. etiam Reiskens Lebensbeschr. pag. 163. n. 25. Totus liber

\*) Praecedunt titulum folia duo, quibus annotationes nonnullas et sententias Arabicas inscripsit Reiskius.

\*\*) Vid. Catal. Bibl. Lugd. impressum, n. 1619. — De Sukkarîo vid. ad cod. nostrum CCL.

occupat paginas 341. Initium, pag. 1., post Besmelam:

شعر مالك بين الثمرت  
تقول العاذلات أكل يوم، لسرة ملك عنق شحاح،

Annotationes Reiskii passim adscriptae sunt.

## CCXLI.

(N. 140. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, cui praefixus hic titulus: "المعلقات السبع" *Septem Moallekat* seu Carmina Poetarum quorundam Arabum Paganorum ante Muhammedem ob praestantiam suam communi suffragio in templo Meccano suspensa. Cum Commentario Abi Zacaria Jahij" (sic) "Tebriziensis. E codice Warneriano Bibliothecae Academ. Leidensis\*) descripsi. Jo. Jac. Reiske. Lugd. Batav. 1738. mense Nov. Dec." In margine hujus folii et in praecedentibus duobus atque insequente folio varias annotationes exaravit Reiskius; ipse vero liber occupat paginas 281. Pag. 1. incipit "Tebrii in suos ad septem Moallekat Comm. Praefatio"; pag. 2. Amru el-Qaisi carmen; pag. 58. Tarafae; pag. 101. Zuheiri; pag. 128. Lebidi; pag. 175. 'Antarae; pag. 211. 'Amri; pag. 246. el-'Hâriji. Codex Lugdunensis, teste subscriptione finali, pag. 281., absolutus est mense Szafer a. 1016. (Chr. 1607.) Adscriptae sunt annotationes Reiskii permultae. In fine codicis, pag. 282. sq., idem adjicit "Nahasi\*\*") ad Carmen quintum aliquot notas, quas propter angustiam margini non potuit adscribere."—Conf. Reiskens Lebensbeschr. pag. 160. n. 15.

## CCXLII.

(N. 141. in 4to; olim N. 73. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 126. chartae orientalis laevigatae, partim char. Neschi, partim char. Nesta'liq scriptus, collectionem continens poë-

\*) Vid. Catal. impressum, n. 1560.

\*\*\*) I. e. الخنساس، de quo vid. Ibn Challikân, edit. de Slaue. vol. I. pag. 41. sq.

matum, in Oriente maxime celebratorum. Foliis 1. r.—5. r. varia inscripta sunt, et Arabica et Turcica, ab ipsa illa collectione aliena, traditionem propheticam spectantia, preces, disticha atque alia. Deinde sequitur:

I. Fol. 5. v.—7. v. *El-Ṭantarânî* carmen notissimum, a clar. Silvestre de Sacy in Chrestomathia Arabica editum.

II. Fol. 8. v.—13. v. Clarissimum *el-Bûszirî* carmen, quod vocatur *el-Burde*.

III. Fol. 14. v.—15. r. Carmen *Taqijj ed-dini es-Subkî*, char. Nesta'liq scriptum, cum introductione filii ejus, Tâg' ed-dini es-Subkî. Initium carminis:

صرفت الى رب الأنام مقالى، ووجهت وجهى نحوه ومبارى،

De utroque scriptore vid. F. Wüstenfeld, die Academiën der Araber, pag. 37. sqq. 40. sq.

IV. Fol. 15. v.—17. r. *Ka'bi bin Zuheir* carmen laudatissimum, cujus prima sunt verba: بانئت سعاد، a cl. Freytagio editum.

V. Fol. 21. v.—22. v. Poëma Arabicum, quod *Surata psalterii* appellari solet, de quo vid. Fleischerus in Catal. Bibl. Senat. Lips. pag. 434. col. 2. 535. col. 1.

VI. Fol. 23. v.—24. v. Poëma, quod appellatur: القصيدة المنفرجة، de quo vid. Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 551. sqq. et Fleischerus, II. II. Incipit illud in apographo nostro ab eo versu, qui alibi quintus est:

اشتدى أزمة تنفرجى، قد آذن نيلك بالبلج،

VII. Fol. 25. v.—27. v. lin. 2. Poëma *Abû-Ifat'hi el-Bustî*, de quo egit Hâg'i Chalfa vol. IV. pag. 533. n. 9450., a Baillie in libro the 5 Books upon Arab. Grammar editum, vol. III.

VIII. Fol. 27. v. med.—29. v. Poëma theologicum, auctore *Sirâg' ed-dîn 'Alî bin 'Uṣmân el-Ūschî el-Ferghânî*, quod a primis ejus verbis vocatur: قصيدة يقول العبد، a b. Petro a Bohlen editum est sub titulo: Carmen arabicum, Amâlî dictum, breve religionis Islamiticae systema complectens. Regiom., 1825. 4to. Conf. Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 558. sqq.; Catal. Bibl.

Senat. Lips. pag. 434. col. 2., ubi tamen repou-  
endum esse الاوشى pro الاويسى ipse nos edo-  
cuit Fleischerus, laudans Qâmûsum s. v. اوش  
et Sujâtîi Lubb el-lubâb s. v. اوشى.

IX. Fol. 30. r. *Preces Arabicae* interpo-  
nuntur, char. Nesta'liq exaratae. Sequitur:

X. Fol. 31. v.—79. r. *Collectio poëmatum*  
*Chalifae 'Alî bin Abî Tâlib*, quae in praefat-  
ione appellatur: انوار العقول من اشعار وصى الرسول،  
i. e. Lumina mentium, e carminibus mandatarii  
legati divini collecta; char. Nesta'liq scripta.  
Praefationis initium: الحمد لله الذى ذلت لعزته  
الجبالة وتضعضت دون عظمته الاكسرة،  
Ipsa car-  
mina, secundum rhythmum finalem alphabetice  
digesta, incipiunt fol. 33. v. Aliud ejusdem  
collectionis exemplum exstat in Bibliotheca  
Regia in codice Arabico-Persico, quem recen-  
sebimus infra inter codices mixtos, n. IV.\*)  
Subjungitur denique\*\*):

XI. Fol. 82. v.—111. r. *Szafijj ed-dîni*  
*Abû -Imâ'hâsin 'Abd el-'Azîs bin Serâjâ bin*  
*Abî -Iqâsim el-'Hillî es-Sunbîsî\*\*\*)* poëma,  
quod vocatur: الكافية البديعية فى المدائح النبوية،  
i. e. carmen de laudibus Prophetarum, institutio-  
nem idoneam exhibens ad artem ornate dicendi,  
cum praefatione. Carminis initium hoc est:

ان جيت سلعا فسل عن جيرة العلم،

واقتر السلام على عرب بذى سلم،

Conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. II. pag. 33. sq. In  
codicibus CCIV. et CCV. singuli versus ejusdem  
carminis in commentario critico inveniuntur. —  
Accedunt:

XII. Fol. 112. r.—115. v. varia, char. Nes-

sta'liq mediocriter scripta, in his excerpta e  
libro: زبدة الامثال، i. e. *Cremor procerbiorum*,  
auctore: (?); المولى مصلح الدين الكلسولوى; recensus  
verborum significationis oppositae: كلمات شتى  
; من الاضداد جمعيتها ورتبتها كما هو المعتاد،  
tractatus denique Arabicus, cui Turcice inscriptum:  
مرحوم وغفور الشيخ وفا قدس سره حضرت تلمينك اعتقادہ  
متعلق رساله سيدر، — Fol. 125. v. preces  
nonnullae et alia leguntur, pessime exarata.  
Reliqua nihil continent scripti.

### CCXLIII.

(N. 52. in fol.; olim N. 43. in fol.)

Codex in fol., foll. 85. chartae, ni fallimur,  
Europaeae, char. Africano recentiore satis bene  
scriptus, *anthologiam poëticam* continens. Fol.  
1. r. lingua Hispanica, sed char. Rabbिनico  
inscriptum est: "El nombre de este libro es  
onde gabla el discreto gablas bien iguales como  
en ---; tambien cantares diferentes y so-  
nes (?) diferentes." Fol. 1. v. disticha leguntur  
duo, ex ipsius collectionis insequentis initio  
repetita. Fol. 2. r. praemissa *Hamdala* hunc  
exhibet titulum: هذا كناش محتوي على مقطعات اشعار  
وقصايد للمتنبي اى الطيب ونغيره وبعض صنيعات  
وتوشحات واعروبى وموال وغير ذلك مما لم يذكر والسلام،  
Paulum diversa est inscriptio fol. 2. v.:  
كناش مشتمل على مقطعات من الاشعار وبعض قصايد من ديوان  
المتنبي عفا الله عنا وعنه الخ،  
Sequuntur deinde poë-  
mata varia, Mutenebbii maxime. Fol. 62. r. in  
fine paginae annotatur: انتبى ما حضر للكاتب من  
قصايد المتنبي الخ، Clauditur codex fol. 85. r.

### CCXLIV.

(N. 142. in 4to; olim N. 64. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 143. chartae laevigatae,  
char. Neschi satis bene scriptus, continens  
*collectionem poëmatum Schihâb ed-dîni 'Ahmed*  
*bin el-'Huscîn*, vulgo *Ibn el-'Alif* dicti, et  
*majorum ejus posterorumque*. Fol. 2. r. legitur  
titulus: ديوان للشيخ - - شهاب الدين احمد العيلفى  
، المدي، nulla propinquorum ejus commemora-

\*) Conf. Wiener-Jahrb. vol. XCVII. Anzeigbl. pag.  
25. n. 167.

\*\*) Foll. 80. et 81. nihil continent scripti, nisi quod  
fol. 81. v. lineae nonnullae Turcicae orationis le-  
guntur, char. Nesta'liq male exaratae, quibus sub-  
scriptum est, si bene legimus: من مولانا ابى رحمة  
الله تع،

\*\*\*) السنسبى; sic legitur in cod. nostro; at Sujâtîus  
in libro Lubb el-lubâb habet: السنسبى.

tione facta et corrupto Schihâb 'ed-dini nomine, quod rectius in praefatione scribitur: أحمد بن الحسين الشهير بابن العليّ العكبيّ العدنانيّ اليمينيّ قرّ الملكيّ قرّ المدنيّ الشهير بشاعر البطحا ، Quo epitheto honorifico "poëtae territorii Meccani" ornavit eum dominus ejus es-Sajjid Berekât, urbium sanctarum praeses. Praefationis initium, fol. 2. v.: الحمد لله في الابتداء والختام والصلوة الخ. Promittit collectionis auctor, cujus nomen nos latet: كلامه (كلام شهاب الدين) وكلام (i. e. كلام شهاب الدين) واصله الكرام وأخلاقه. Ipsa poëmata, alphabetice digesta, incipiunt fol. 3. r.; desinit liber fol. 141. v. Sed folia 140. et 141. recentiore manu suppleta sunt. Fol. 142. r. et v. nonnulla inscripta sunt, quae ad collectionem nostram non pertinent, in his auctoris anonymi poëmation.

### CCXLV.

(N. 143. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 47. chartae Europaeae, char. Africano recentiore atramento pallido male exaratus, *anthologiam poëticam* continens, in tres sectiones divisam. Sectio prima, fol. 1. r.—18. v., omnia Bismela hanc habet inscriptionem, quae hominem in litteris plane rudem prodit: وعاد من صبح المنسرج. Primi carminis initium\*):

سلام على الاحباب في القرب والبعد ،

سلام كما عب النفسيم على الورد ،  
Poëtarum nomina non laudantur. Subscriptio, fol. 18. v.: كدل عدا الكناس بحمد الله وحسن عونه . — Sectioni secundae, fol. 19. r.—28. v., inscriptum est: وعادا ما تكتب من عرف العجم الى اعرف وعادا ما تخطوف من المايه . Subscriptio priori similis. — Inscriptio sectionis tertiae, fol. 29. r.—47. r.\*): وعادا ما يستعمل من الخراج المشرف من كمل عدا الكناس الذي كان فيه من ضيع الخراج (?) المشرف وله ايضا من رمل المايه وله ايضا من غربت الحسين وله ايضا كمل بحمد الله وحسن عونه اميين ،

### CCXLVI.

(N. 144. in 4to, olim N. 75. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 52. chartae Europaeae, char. Africano mediocriter scriptus, *Collectanea poëtica* continens. Undecim folia priora et foll. 41—44. 46. r. 47. r. 52. r. recentiore manu eaque pessima suppleta sunt; foll. 1. v. 10. v. 40. v. 52. v. nihil est inscriptum. Neque titulus adest, neque subscriptio finalis, et ipsius poëmatis primi initium mutilum est.

### CCXLVII.

(N. 145. in 4to; olim N. 77. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 114. chartae orientalis, char. Africano mediocriter partimque pessime a diversis hominibus scriptus, usu valde tritus, *Collectanea* continens *poëtica* ejusdem fere erotici argumenti, cujus sunt duo nuper commemorati. Praemissis fol. 1. r.—4. r. versibus iisdem, quos habet cod. antec. fol. 1—4. r., fol. 4. v. post Bismelam sequitur haec inscriptio: وهذا كناس مجتمع على عجائب وغرائب ، quam excipit poëma, cujus hoc est initium\*):

فاح الورد والسوسان ما بين الغصان ،

Alia deinde leguntur poëmata usque ad finem fol. 98., ubi notatur: انتيت . Alia adduntur poëmata, fol. 99. r.—114. v., cum introductione, soluta oratione scripta. Sed haec omnia pessime scripta, ita ut legi vix possint.

### CCXLVIII.

(N. 43. in 8vo.)

Codex Reiskianus bipartitus, in 8vo. Pars prior *Amru el-Qaisi carmina* continet. Praemissis annotationibus nonnullis, hunc Reiskius praefixit titulum: ديوان امرئ القيس ابن الحجر الكندي ، "Amraelkeisi, Principis Cenditae, Muhammedis coetanei, Carmina, ex recensione Abi Osamah; descripsi e Cod. MS. Legati Warneriani n. n.

\*) Cfr. cod. CCZLVII. fol. 69 v. sqq.

\*\*) Fol. 46. r. tamen nihil continet scripti.

\*) Cfr. fol. 4. v. cod. antec.

901. n. v. 528.\*) in Bibliotheca Leidensi, mense Febr. 1739." Ipsa carmina cum praefatione occupant paginas 1—104. Primo loco posita est Mu'allaqa Amru el-Qaisi; quam excipit reliquorum poematum corpus, cujus editio debetur clar. Mac Guckin de Slane. In fine legitur subscriptio codicis Lugdunensis, a. h. 545. (Chr. 1159.) exarati.

Altera codicis pars hunc habet titulum, paginae 1 inscriptum: "مقتلعات من مرثى،" *Epicedia vetusta*, ex Recensione Ibn Alarabi,\*\*) et collectione Weziri Ilkamel, Abilkasem Hosein." Occupant haec poemata, a diversis poetis condita, paginas 3—35. Unde ea deprompserit Reiskius non adscripsit, neque eorum fit mentio in vita Reiskii, Germanice scripta, pag. 165. ad n. 39.

## CCXLIX.

(N. 44. in 8vo; olim N. 39. in 8vo.)

*G'elâl ed-dîni es-Sujâti in clarissimum poemâ Ka'bi bin Zuheir Commentarius*, qui vocatur: "كتاب كنه المراد في بيان بانث سعاد،" i. e. Ultimus terminus desiderii, commentarius in carmen بانث سعاد; codex in 8vo, foll. 105. chartae orientalis laevigatae, partim albae, partim variis coloribus tinctae, char. Neschi bene scriptus. Fol. 1. r. legitur titulus. Praefationis initium, fol. 1. v.: "الحمد لله الذي جعل قصيدة كعب،" على ناطقها ابرك كعب، Commentarius incipit fol. 6. v., absolvitur fol. 105. v. Exaratus est codex mense Scha'bân a. 1116. (Chr. 1704.); librarii nomen: "بن محمد الشيبان بن التوكيل الملوي (أثووي؟)"

\*) In margine adscriptum est: "p. n. 476. p. v. 365.", quod respicit Catalogos Bibl. Lugd. Vid. Catal. impressum, pag. 476. n. 1665.

\*\*) In margine legitur: "n. nov. 633. p. 475. n. vet. 356. p. 350." — Conf. Catal. Bibl. Lugd. impressum, pag. 475. n. 1624.

## CCL.

(N. 45. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in 8vo, quo continentur post praemissa folia duo, annotationibus repleta:

I. *Corpus poematum G'eriri bin 'Atijja Temimitae*, mortui a. h. 110. (Chr. 723.), de quo vid. Ibn Challikân, edit. de Slane vol. I. pag. 150. sqq., coll. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 270. Titulus, Reiskii manu scriptus, hic est: "الجزء الاول من ديوان جرير بن عنبية،" Pars Prima Operum Poeticorum Gzeriri. Recensuit et scholiis illustravit Abdolwahed Ben Isa Nagzirien-sis. Descripsi ex optimo et antiquissimo Codice Warneriano.\*) Lugduni Batavorum, mense Maio 1739." Sed altera pars non desideratur; incipit ea pag. 161. Totus liber paginas occupat 320. Annotationes multas in margine adscripsit Reiskius, idemque in fine annotavit: "Quod sequebatur, quia ad finem vergebat, et cum aliis sequentibus hinc illinc legi amplius non poterat, chartis humore compactis, describere nunc neglexi. In Bibliotheca Batava, d. 22. Julii 1739."

II. *Schanferae poemâ clarissimum*, a b. Silvestre de Sacy in Chrestomathia Arabica editum, cujus haec est inscriptio: "لامية العرب،" Schanfarii vetusti Poetae Carmen Lamicum Arabicum cum brevissimis scholiis. Descripsi e Codice Warneriano Bibliothecae Lugduno-Batavae.\*\*\*) Joan. Jacob Reiske. Leidae d. 19. et 20. Martii 1739." Ipsum carmen cum subscriptione codicis Lugdunensis folia occupat tria: in margine et in dorso tituli nonnulla annotavit Reiskius.

\*) In margine legitur: "n. nov. 633. p. 475. n. vet. 356. p. 350." — Conf. Catal. Bibl. Lugd. impressum, pag. 475. n. 1624.

\*\*) In margine: "Codex legati n. 65. p. 322. vet. Cat." Novi catalogi numerum et paginam non adiecit Reiskius; sed vid. Catal. impressum pag. 474. n. 1613. Conf. praeterea Reiskens Lebensbeschr. pag. 169.

### III. *Corpus poematum Tahmāni bin 'Amr*

*Kilābitae*. Titulus: ديوان طهمان ابن عمرو الكلاني. "Dahmani fil. Amru Celabitae, Poetae ex in-eunte secundo post Muhamedem saeculo Carmina. Recensuit et Codicibus schollis illustravit Succkariensis. E Codice Warneriano Bibliothecae Leidensis \*) desumsi. Lugd. Bat. 1739. 22. 23. Mart." Occupant ea poemata folia septem. Glossae adscriptae sunt in margine.

Accedit in fine codicis praeter annotationes nonnullas, ultimo folio inscriptas, initium "Vitae Sukariensis, Auctore Anonymo, ex Scheda praemissa Diwan Hudeil, difficillime scriptae." Integrum ea exhibet nomen Sukkarii: الحسن بن الحسين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن العلاء بن ابي صقر المعروف بالسكري ابو سعيد. Natus est a. h. 212. (Chr. 827.), mortuus a. 275. (Chr. 889.) — Ceterum de codice nostro conf. Reiskens Le-bensbeschr. pag. 164. n. 31.

## CCLI.

(N. 146. in 4to; olim N. 33. in Svo.)

*Prima pars corporis poematum Abū -l-'Ab-bāsi 'Abd allāh, 'Abbāsidae, notissimi sub nomine Ibn el-Mu'tazzi; codex in 4to, foll. 101. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter et a diversis fortasse hominibus scriptus. Fol. 1. r. legitur titulus: ديوان ابن المعتز استناد الشعراء. والبلغا رحمه الله امين. Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الملك الوهاب الغفور التواب. Continet praefatio variorum narrationes et judicia de poeta nostro, nato a. h. 247. (Chr. 861.), mortuo a. 296. (Chr. 908.); ejus quoque scriptorum pars enumeratur; quorum tituli cum iis non omnino consentiunt, quae recenset Ibn Chal-likān in vita Ibn el-Mu'tazzi, edit. de Slane vol. I. pag. 363. sqq. Et hic quidem allegantur: — مفاتيح الاخوان، — وهرم الربيع، — طبقات الشعراء، et; ولجوارح،*

pars prima sequitur, in decem capita divisa est, diversa poematum genera (فنون) complectentia et alphabetice digesta, quorum tria hic continen-tur: المديح، والغزل، والفخر. Editoris nomen le-gitur in limine capitis primi: هذا ما جمعه الشيخ الامام المحدث الهمام الصولي بعد وفاته\*)، الفن الاول، في الفخر، تافيه الالف، In fol. 56. et fol. 58—100. carmina marginem quoque occupant; sub-sistit vero codex versus finem capitis tertii, quo carmina encomiastica continentur. Fol. 101. nonnulla inscripta sunt, quae huc non perti-nent.

## CCLII.

(N. 53. in fol.; olim N. 10. in fol.)

*Alterra pars poematum ejusdem Ibn el-Mu'tazzi, in fol., foll. 144. chartae orientalis laevigatae char. Neschi distincte scripta, sed madore laesa. Fol. 2. r. inscriptus est titulus: الجزء [الثاني] من شعر ابي العباس عبد الله ابي المعتز بالله; فيه المدح والتمزيات والغزل والنزهد والشبيب، capitum ordo diversus est ab ea recensione, quam sequitur codex praecedens; sic enim in hoc codice disposita sunt: Cap. I. المديح fol. 2. v.—31. v., quae poemata in ordinem alphabeticum digesta fol. 72. v.—100. v. cod. praeced. inveniuntur; Cap. II. التمزيات fol. 31. v.—75. r.; Cap. III. الغزل fol. 75. r.—fol. 126. r., quae in cod. praeced. fol. 43. v.—fol. 72. v. leguntur; Cap. IV. النزهد والشبيب fol. 126. v.—fol. 144., ubi sub-scriptio finalis legitur: [س عبد الله] ابن المعتز بالله تماماً كاملاً والحمد لله الخ.*

## CCLIII.

(N. 147. in 4to.)

Codex Reiskianus, in 4to, continens *Ibn Durcidi carmen clarissimum*, ab Ever. Schei-dio, Agg. Haitzma et L. N. Boisen, Dano, editum.

\*) Vacuum est spatium inter voces الهمام والصولي. Ipsum nomen enim ante cognomen esz-Szauli aut esz-Szūli minio exarare neglexit librarius. De pronuntiatione cognominis الصولي vid. Sujūti librum Lubh el-lubāb, edit. Veth. pag. 163.

\*) In margine: "cod in 4to, num. legati Warn. n. 338. p. 348. vet. Cat." Vid. Catal. impressum pag. 475. n. 1627.

Titulum codici praefixit Reiskius duplicem, alterum Latinum, Arabicum alterum: "Venustum ac illustre Poema Ibn Doreid cum scholiis excerptis Ibn Chaluwiae\*) et Lachamaei, e duobus Codd. MSS. Bibl. Leidensis descripsi m. Majo 1739. Jo. Jac. Reiske". كتاب المقصورة الدريدية من انشا الشيخ ابي بكر محمد بن الحسين بن دريد الازدي شرحه ابو عبد الله الحسين ابن خالوية وتيم من نسخة. — عني بشرحه القاضي ابو سعيد الحسن السيرافي.

Codices Lugdunenses, quibus usus est Reiskius in concinnando hoc libro, codices esse debent Catal. impressi 1591. et 1592., continentes commentarium Ibn Chälaweihî, et 1593., qui commentarium Ibn Hischâmi el-Lachmi exhibet. Folio, quod excipit titulum, annotationes nonnullae inscriptae sunt, e codicibus Lugdunensibus depromptae. Ipsum carmen cum praefatione commentatoris occupat fol. 4—30. Scholia nonnulla leguntur in margine. — Accedunt in fine codicis ejusdem *Ibn Dureidi carmina nonnulla*, in quibus voces diversae significationis, sed formae similis et exitu tantum in vocalem brevem aut longam distinctae, artificiose copulantur. Titulus: كتاب المقصور والممدود نضماً انشا الشيخ -- ابي بكر -- بن دريد الازدي. Infra adjecta est series virorum doctorum, quorum fide genuina ejus libelli forma inde ab Ibn Dureidi tempore propagata est. Quinque paginas occupant carmina. Initium carminis primi:

لا تتركن الى البيوتى ، وانك مفارقة الجواء ،

\*) In margine adscriptum est ad nomen "Ibn Chaluwiae": "obit a 370. v. Randh p. 49." Et sic corrigendus Herbelotius s. v. Khalouiah. Ceterum pro *ابن خالوية* Ibn Chaluwiae praestat scribere:

*Ibn Chälaweihî*; vid. 'Häg'i Chalfa, vol. I. pag. 356. extr.; et Lachamaei nomen mutandum in *Lachmaei* (الخلمى) vid. vitam Ibn Dureidi apud Ibn Chalikänüm, edit. de Slane vol. I. pag. 698. lin. 3. a fine, et apud Hamakerum in Spec. Catal. Bibl. Lugd. pag. 36. sq; item Prolegomena ad carminis Ibn Dureidi edit. Boisenianam, pag. 24.

## CCLIV.

(N. 54. in fol.; olim N. 4. in fol.)

*Corpus poematum el-Mutenebbii*, in fol., foll. 183. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime exaratum. Titulus inscriptus est fol. 1. r. Incipit liber fol. I. v. post Besmelam his verbis, introductionis causa praemissis: ولد ابو الطيب احمد بن الحسين بالكوفة في كنده سنة ثلاث وقلانماية وقل الشعر وهو صبي في المكتب فن اول شعره الخ. In fine codicis fol. 183. r. similiter legitur notitia brevis de morte Mutenebbii, mense Ramadhän a. 354. (Chr. 965.) interemti\*). Foliis primis scholia nonnulla adscripta sunt.

## CCLV.

(N. 55. in fol.; olim N. 3. in fol.)

*Idem poematum corpus cum commentario Wähidii*, in fol., foll. 437. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. Titulus legitur fol. 1. r.: كتاب شرح ديوان ابي الطيب احمد بن الحسين المنتدى رحمه الله شرحه الشيخ -- ابو الحسن على ابن احمد الواحدى النيسابورى رحمة الله تعالى عليه ام ، الحمد لله على سواغ -- وبعد فان الشعر النعم وله الشكر على جلايل القسم -- ، انفا كلام واعلا نظام\*\*). Ipsa carmina et commentarius incipiunt fol. 3. r. Subscriptio finalis, fol. 437. v.: هذا آخر ما اشتمل عليه ديوانه الذى رتبته بنفسه وهو خمسة آلاف واربعمائة وعشرون وثلاثة وثلاثون اشراغ من كتابه هذا الشرح في شعبان سنة ثلاث وثمانين واربعمائة. Sed hoc de apographo antiquiore intelligendum, paucis post Wähidii mortem annis exarato. Mortuus est is a. h. 468. (Chr. 1078.); vid. 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 306.\*\*\*)

\*) Legitur quidem in codice nostro: a. 356.; sed minus recte. Vid. Ibn Chalikän, edit. de Slane vol. I. pag. 51. sqq; 'Häg'i Chalfa, vol. III. pag. 306.

\*\*\*) Recedunt paulatim haec verba ab iis, quae laudat 'Häg'i Chalfa l. l.

\*\*\*) Apud Casirium vol. I. pag. 74. n. CCCVI. mortuus esse dicitur a. 464.



**CCLVI.**

(N. 56. in fol.; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 5. in fol.)

Codex in fol. min., foll. 215. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, sed omissis haud raro punctis diacriticis, continens *primam partem ejusdem commentarii in Mutenebbii poemata*. Praefatio incipit in dorso ejusdem folii, numero non signati, cui inscriptus est titulus, nunc vehementer laesus. Foll. 8—17. recentiore manu suppleta sunt. Annotationes passim adscriptae in margine. Respondet finis hujus partis primae iis, quae leguntur in cod. praecedente fol. 192. v. lin. 1. Conf. cod. CCLIV. fol. 76. v. extr.—77. r. lin. 4. Subscriptio fol. 213. r.: [ع] *حجر الحجر*. *الأول من ديوان المتنبي بشرحه الخ*, Absoluta est scriptio mense Mu'harrem a. 648. (Chr. 1250.)

**CCLVII.**

(N. 57. in fol.; olim N. 35. in fol.)

*Mutenebbii poemata* cum scholiis copiosis, et in margine et inter lineas adscriptis; codex in fol., foll. 98. chartae orientalis laevigatae, usu aliquantum tritus, char. Neschi bene scriptus, sed omissis interdum punctis diacriticis. Fol. 1. r. versus quatuor carminis Hafizi leguntur, quorum ultimus hic est:

حافظ أب رخ خود بر درهر سفله مریز،  
حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم،

vid. Diwan. Hafizi, Calc. 1791., fol. 90. r. Incipit liber fol. 1. v., desinit fol. 98. r. in medio carmine eo, quod legitur in cod. CCLIV. fol. 180. r.—181. v. Excerpta videntur scholia e commentario maxime Wähidii, quem exhibent codices praecedentes. Sed non pauca in hoc codice desiderantur carmina.

**CCLVIII. CCLIX.**

(N. 46. et 47. in 8vo.)

*Poëmatum Mutenebbii apographum Reiskianum*, duo volumina complectens, in 8vo. Vo-

lumi priori, post praemissum folium unum, annotationibus variis repletum, hic titulus a Reiskio praefixus est: *ديوان أبي الطيب المتنبي*, "Abi Da'ib Motanabbii Arabis inter Principes Poetae Carmina omnia. Cum scholiis excerptis Abil Hosein\*) Ali ben Ahmed Wahediensis. E Codice Warneriano Bibliothecae Leidensis\*\*) descripsi Jo. Jac. Reiske; mens. Martio 1739. Lugduni Batav. Tom. I." Folium sequens inter alia exhibet "Testimonium Abilolae de Motanabbio e Comm. Wahidai ad 287. lin. antep." Carmina cum commentario occupant paginas 1—214. et 219—350. Nihil tamen deest. Passim adjectae sunt notae, Latine aut Germanice scriptae. Pag. 351. leguntur subscriptio hujus partis, e codice Lugdunensi deprompta, ipsiusque Reiskii notula: "Ego absolvi primam hanc partem die 30. Martii 1739." Pag. 352. nominum indicem continet.

Voluminis posterioris inscriptio haec est: "Pars Altera Operum Poeticorum Motanabbii cum paucis quibusdam scholiis Wahidai. E Codice" cet. "mens. Aprili 1739. Leidae." In dorso tituli annotationes nonnullae Reiskii leguntur. Pagg. 353—626. reliquam partem poematum Mutenebbii cum scholiis continent atque notis marginalibus Reiskii; pag. 627. subscriptionem finalem codicis Lugd.; pag. 628. notulas aliquot Reiskianas.

**CCLX.**

(N. 48. in 8vo; olim N. 37. in 8vo.)

*Anthologia, e carminibus Ibn el-'Hag'j'aj' excerpta*, in 8vo, foll. 122. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene, sed non eadem manu scripta. Titulus, fol. 1. r. inscriptus: *تلذيف المزاج من شعر ابن الحجاج، اختيار*

\*) Ita Reiskius; sed praestat: Abū -l'hasan.

\*\*) In margine: "Codex in 4to. Num. legat. 230. num. cat. rec. 542." — Vid. Catal. Bibl. Lugd. impressum pag. 472. n. 1555.

الاديب الفاضل الارباب الشيخ جمال الدين محمد الشيبخ  
 ، المسمى رحمه الله تعالى ،  
 i. e. Blandimen-  
 tum temperamenti e carminibus Ibn el-'Hag'-  
 g'ag'i captum; collegit G'emal ed-din Mu'ham-  
 med, vulgo Ibn Nebata (Nubbata) dictus. Conf.  
 'Hag'i Chalfa, vol. II. pag. 415. Vitam Ibn  
 el-'Hag'g'ag'i, mortui a. h. 391. (Chr. 1001.),  
 enarrat Ibn Challikân, edit. de Slane vol. I.  
 pag. 228. sq.; conf. quoque 'Hag'i Chalfa, vol.  
 III. pag. 244. De Ibn Nubbata, mortuo a. h.  
 768. (Chr. 1366.), vid. quae monuimus ad  
 cod. CCXXIX. Incipit Ibn Nubbatae praefatio  
 fol. 1. v. his verbis: الحمد لله على جد الزمان وعجزه ،  
 وحزن الخال وسيله ،  
 carmina, alphabetico ordine  
 disposita, occupant foll. 2. r. — 122. v. lin. 1.  
 Subscriptio finalis: نجر اختار الموجود من شعر ابن  
 حجاج رحمه الله وبعد في بعض النسخ زيادة لم يتفق الوقوف  
 عليها هكذا قل مختصره امام البلغا ملك المتاديين الشيبخ  
 جمال الدين ابن نباته رحمه الله فيما وجد في نسخة عليها  
 خطه ومنه علفت هذه النسخة السعيدة وصلى الله الخ ،

## CCLXI.

(N. 148. in 4to; olim N. 87. in 4to.)

*Collectio carminum clarissimi poetae Abû  
 -'Alâ, quae appellatur: سقفت الزند i. e. Scin-  
 tillae igniario excussae; codex in 4to, foll.  
 142. chartae orientalis vetustae laevigatae,  
 char. Neschi mediocriter scriptus et omissis  
 saepissime punctis diacriticis, aqua aliquantum  
 laesus. Nonnulla quidem scholia inter lineas  
 adscripta sunt, aliaeque non pauca in margine  
 adscripta, in priore maxime codicis parte; non  
 tamen omnino executus est librarius consilium,  
 quod indicat titulus, cum annotationibus variis  
 fol. 1. r. inscriptus: كتاب ايضاح سقفت الزند وصو [ع] =  
 من شعر ابى العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان انعرقى ،  
 Hoc enim nomine designatur Tebrizii com-  
 mentarius in librum Siqf ez-Zend ipsiusque*

\*) Ita scriptum est in eodice nostro; sed conf. quae  
 monuimus ad cod. CCXXX.

auctoris commentarius ضوء السقفت; vid. codi-  
 cis sequentis Reiskiani subscriptionem finalem,  
 pag. 572. Conf. praeterea de ipsa hac collec-  
 tione et utroque commentario 'Hag'i Chalfa, vol.  
 III. pag. 601. sqq. In limine libri, fol. 1. v.  
 lin. 1—6, brevissima legitur introductio gene-  
 neologica et historica, cfr. Ibn Challikân, edit.  
 de Slane vol. I. pag. 47. sqq.; quam sequitur  
 usque ad fol. 2. r. lin. 3. inf. prooemium Abû-l-  
 'Alâi في سقفت الزند, vid. cod. sequ. pag. 8—9.\*)—  
 Ipsa carmina incipiunt fol. 2. v.; explicit liber  
 fol. 140. v.\*\*\*) In epilogo Tebrizii titulus repe-  
 titur: هذا اخر ايضاح سقفت الزند وصو [ع] = من شعر ابى  
 العلاء الخ. Accedit fol. 141. r. vita Abû-l-'Alâi,  
 cui inscriptum est: مولد ابى العلاء. In fine paginae  
 sequitur subscriptio librarii, quae codicem abso-  
 lutum esse docet mense Ramadhân a. 523. (Chr.  
 1129.), ab Abû -'Fhasan 'Alî bin Nasr b. Mu-  
 'ammed b. 'Abd esz-Szamad el-Fandûreg'i  
 (الفندورجى); de quo cognomine vid. Sujûtium in  
 libro Lubb el-lubâb s. v. Foll. 141. v. 142. r. et  
 v. varia leguntur, quae huc non pertinet, in his  
 poëmatum Persicum, punctis tamen diacriticis  
 destitutum. — Ceterum conf. quae de Abû-l-  
 'Alâo disputaverunt Silvestre de Sacy in chre-  
 stom. Arab., edit. 2ae vol. III. pag. 89. sqq.;  
 J. Vullers in prolegomenis ad edit. Mu'allaqae  
 'Hâri9i, cui Abû -l-'Alâi carmina duo annexit.

## CCLXII.

(N. 49. in 8vo.)

Codex Reiskianus, in Svo, *Tebrizii com-  
 mentarium in eandem carminum collectionem*  
 continens. Post folium unum, cui notulas non-  
 nullas inscripsit Reiskius, legitur titulus: شرح

\*) Fol. I. v. in margine adscripta est notula, quae  
 Abû -l-'Alâum natum esse perhibet a. h. 399 Sed  
 id errore nititur hominis, qui negligenter textum  
 inspexerat; natus est poeta noster a. h. 363. (exerente  
 a. Chr. 973.), mortuus a. 449. (Chr. 1057.)

\*\*) Turbatus est a biblioepogo foliorum ordo; collocanda  
 enim sunt fol. 75—121. ante fol. 60—74.

ديوان سقط الرند شعر الشيخ العلامة ابي العلا احمد ابن عبد الله بن سليمان التنوخي المغربي للششيخ ابي زكريا يحيى الخطيب التبريزي، Sequuntur: pag. 1. "Tebrizii praefatio"; pag. 3. "Abilolae \*) praefatio ad Commentarium suum proprium"، المقدمة التي ذكر ما في المقدمة من pag. 6. وقدمها ضوء السقط، pag. 8. خطبة سقط الرند، والغريب، Pag. 14. nihil scriptum est; pag. 15. denique incipit "Carmen Primum Abilolae a Jacobo Golio ad finem grammaticae Erpen. editum, p. 228. etc." Sequuntur pag. 35. et 36. a—e. carminis secundi versus priores novem cum commentario. Haec excipit altera quasi codicis sectio, pag. 1—572., primum versus illos novem sine commentario repetens, idem deinde carmen cum commentario ad finem perducens atque sequentia carmina persequens. In fine adjecta subscriptio codicis, ut non dubitamus, Lugdunensis, Catal. impressi pag. 473. n. 1574. aut 1575.: هذا اخر؛ ايضا سقط الرند وضوء الخ، quae verba verum hujus commentarii nomen continent. Exaratus est ille codex a. h. 589. (Chr. 1193.) Accedunt pag. 573. Genealogia Abū l—'Alāi (نسب ابي العلا) et de natalibus et vita ejus notitia (موند) eadem, quae fol. 141. r. cod. praeced. legitur. Pag. denique 574. et 575. epilogus legitur Tebrizii, qui in cod. praeced. fol. 140. v. invenitur. — Conf. de cod. nostro Reiskens Lebensbeschr. pag. 164. n. 33.

### CCLXIII.

(N. 58. in fol.; olim N. 7. in fol.)

*Szalāh ed-dini Chalil bin İbek esz-Szafedī\*\*)* Commentarius in clarissimum poemam compositum ab *Abū Isma'il el-'Husein bin 'Alī*, notissimo sub nomine *el-'Tughrāi*,

\*) Haec pronuntiationem viris doctis plerisque jam minus probari notum est.

\*\*) Mortui a. h. 764. (Chr. 1363.) Vid, quae de hoc scriptore disputavit clar. Grangeret de Lagrange, anthol. Arabe, pag. 134.

mortuo circa \*) a. h. 515. (Chr. 1121.); codex in fol., foll. 303. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi medicriter scriptus. Commentarium appellavit auctor: غيث الادب الذي انسجم في شرح لامية العجم، i. e. Pluvia studiorum humanitatis, effusa in explicando poemate Lāmijet el 'Ag'em.\*\*). Paucis eum commemorat Hāg'i Chalfa, vol. IV. pag. 340. sq. Fol. 1. r. legitur titulus partis prioris eleganter exornatus: الاول من الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم للامام صلاح الدين خليل ابن ابيك الصغدی سقا الله تراه، الحمد الذي شرح: Praefationis initium, fol. 1. v.: صدر من تادب، ورفع قدر من تاحل العلم وتاهب، Introductionis causa vita poetae enarratur ducibus Ibn Challikān, 'Imād ed-din, Ibn Aḥir aliisque fol. 4. r. sqq., cui annexa est tractatio de Alchymia fol. 5. v.—fol. 8. r.; sequuntur disputatio de nomine carminis fol. 8. r.—fol. 11. v.; fragmenta ex poesi Togrāi fol. 11. v.—16. r.; disputatio de العروس والقافية et العروص fol. 16. r.—20. r., quam excipit commentarius singulorum versuum in tres partes divisus: المعنى، الأعراب، واللغة. — Fol. 154. r. et v. subscriptio legitur partis prioris: هنا انتهى الجزء الاول من غيث الادب الذي انسجم ا. ح. Indicatur fol. 154. v. nomen librarii Ibrahim bin Muḥammed b. el-Fadhl. et scriptionis tempus, a. h. 831. (Chr. 1427.) — Parti posteriori item praefixus est titulus ornatissimus, priori similis, fol. 155. r. Totus liber clauditur fol. 303. r., ubi subscriptio legitur, priori simillima.

### CCLXIV.

(N. 149. in 4to; olim N. 31. in 4to.)

*Collectio carminum*, quae composuit *Abū 'Abd allāh 'Ahmed bin Muḥammed*, vulgo *Ibn*

\*) Ipsi anno 515. mortem ejus assignat Hāg'i Chalfa, vol. I. pag. 255. n. 503.; sed conf. Ibn Challikān in vita hujus poetae, edit. de Slane vol. I. pag. 235. sq.

\*\*) Corrigendus est hujus libri titulus apud Hammerum, Wiener Jahrb. vol. LXIV. Anzeigebl. pag. 2. n. 106.

*el-Chajjât* (sartoris filius) dictus, Damascenus, mortuus a. h. 517. (Chr. 112<sup>3</sup>); codex antiquus, in 4to, foll. 137. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptus. De hoc poeta ejusque libro vid. Ibn Challikân, vol. I. pag. 65. sqq.; Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 245.; conf. etiam Casirius, vol. I. pag. 110. sq. n. 373.; sed codex ille Escorialensis LII. tantum carmina continet, excerpta fortasse e collectione nostra. Fol. 1. r. legitur titulus: ديوان الشيخ ابي عبد الله احمد بن محمد الحياط الدمشقي, in margine vero recentiore manu adscriptum: هذا ديوان ابن الحياط عليه الرحمة وفي حاشيته كتاب نصيحة الملوك لحنة الاسلام الامام الغزالي برد الله مضجعه ونفعنا بعلومه. Ipsa illa carminum collectio incipit fol. 1. v. Primo carmine celebratur princeps (sic) ابو منصور اتق, qui Damascum venit a. h. 487. aut 489. Desinit liber fol. 137. v. Sed in margine inde a fol. 10. r. usque ad fol. 70. v. recentiore manu, eaque satis rudi, alia adjecta sunt, Arabice scripta, quae pertinent, ut in margine tituli annotatur, ad clar. theologi *Ghazali* librum, qui vocatur: نصيحة الملوك i. e. Admonitio regum; vid. Flügel in Wiener Jahrb. vol. XCVII. Anzeigbl. pag. 25. n. 164.\*)

## CCLXV.

(N. 150. in 4to; olim N. 57. in 4to.)

*Corpus poematum Nászih ed-dini Abû Bekr Ahmed bin Mu'hammed b. el-Husein el-Arag'ânî*, in 4to, foll. 297. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptum. De hoc poeta, a. h. 544. (Chr. 1149.) mortuo, ejusque libro vid. Ibn Challikân, vol. I. pag. 69. sqq.; Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 260. sq. Codicis nostri fol. 1. 2. nihil scriptum est; fol. 3. r. septem leguntur poemata a variis poetis composita. Fol. 4. v. 5. r. vita Arrag'ânî enarratur, duce Ibn Challikân. Fol. 5. r. praeterea

\*) In cod. nostro CLXXII. hic liber Persice scriptus esse perhibetur.

inscriptus est titulus: هذا ديوان القاضى الغاضل الاديب ابو (sic) بكر احمد بن محمد بن الحسين الارجاني (الملقب ناصر\*) الدين رحمه الله تعالى امين, Infra adjecta sunt disticha nonnulla, composita ab ابو اغارات طلائع بن رزيق الملقب الملك الصالح\*\*) وزير مصر, et ab الفرج عبد الواحد بن نصير الخزومي الشاعر et ابو الفرج المعروف بابن بعا\*\*\*). Carmina alphabetico ordine disposita incipiunt fol. 5. v. Primo carmine celebratur Chalifa el-Mustazhhir billah. Lacunae subinde exstant in codice nostro, ut fol. 55. r. sq. 99. v.—100. v. 149. v. 192. r. 235. v. 258. r. 277. r. sq. Explicit liber fol. 294. v.; absoluta est scriptio mense Rebi' secundo a. 1099. (Chr. 1688.), manu 'Hasani bin 'Ali b. A'hmed el-Haddad el-Mekki er-Rûmî. Disticha nonnulla in fine paginae exarata sunt, folia vero 295—297. nihil continent scripti.

## CCLXVI.

(N. 151. in 4to; olim N. 30. in 4to.)

*Corpus poematum clarissimi Icti et poetae Abû l-Hasan 'Umâre el-Jemenî*, in 4to, foll. 217. chartae orientalis vetustae laevigatae, char. Neschi antiquo optime scriptum. Fol. 1. v. variae leguntur notitiae, de vita et morte maxime hujus poetae agentes, quarum prima manu Ramadhâni cujusdam el-Ghatifi exarata et e libro ثمرات الاوراق deprompta est, cfr. cod. CCXV. fol. 11. sq.; alia e Sujûtîi libro بغية الوعاة في طبقات الخويين والغلغاة excerpta, de quo vid. Flügel in Wiener Jahrb. vol. LX. Anzeigbl. pag. 10. n. 329.; tertia denique e Szafedii commentario in Tughrâii poema Lâmicum, cfr. cod. Bibl. Reg. CCLXIII. fol. 253. r. Uberius de 'Umara egit Ibn Challikân, vol. I. pag. 523. sqq., sed ibi praenomen ejus est Abû Mu'hammed, contra auctoritatem codicis nostri. Mor-

\*) Legendum est ناصر الدين et similiter corrigendum in vita ejus, fol. 4. v.

\*\*) Vitam ejus enarrat Ibn Challikân, vol. I. pag. 335. sqq.

\*\*\*) Conf. Ibn Challikân, vol. I. pag. 414. sq.; sed ibi legitur: بن نصير pro بن ناصر.

tuus est a. h. 569. (Chr. 1173 $\frac{1}{2}$ ), a Szaláh ed-dino in crucem sublatu. Libri titulu, fol.

2. r.: ديوان شعرائ الحس عمارة بن ابي الحس الحكى . اليمى الخ . Et similiter fol. 2. v. in limine carminis primi, a. 556. compositi, scriptum est:

قال الشيخ الاجل ابو الحسن عمارة اليمى . Clauditur codex fol. 215. v., ubi in margine carmen aliquod 'Umarae recentiore manu adscriptum est et variorum hominum, qui hoc libro usi sunt, subscriptiones leguntur, in his una, a. h. 604. (Chr. 1207 $\frac{1}{2}$ ) exarata. Foll. 216. 217. nihil continent scripti.

### CCLXVII.

(N. 152. in 4to; olim N. 19. in 4to.)

*Corpus poëmatum Kemâl ed-dîni Abû 'Ihasan 'Ali*, vulgo *Ibn en-Nebih* dicti et a. h. 619. (Chr. 1223 $\frac{1}{2}$ ) mortui; in 4to, foll. 47. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptum. Conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 251. Titulus, fol. 1. r. inscriptus: عذا ديوان سيدنا ومولانا القاضي على كمال الدين ابو الحسن بن الحمد . انبيه الخ . Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذى بث ارواح العقول فى اجساد الصدور . Dedicata est haec collectio Sultâno Muzhaffir ed-din Abû 'Iftâh Mûsâ, fil. clarissimi Sultâni el-Malik el-'Adil Seif ed-din Abû Bekr bin Ajjûb. Ipsa carmina incipiunt fol. 2. r.; clauditur codex fol. 45. v., exaratus mense Szafer a. 157. (i. e. 1157., Chr. 1744.), a Chalilo ibn es-Sajjid 'Ali esz-Szamâdi (الصمدى). Foll. 46. 47. nihil est inscriptum. — Ceterum conf. Uri ad cod. Bodl. 1297.; Casirius, vol. I. pag. 90. ad codd. CCCXLII. et CCCXLIII., ejusdem poëtae carmina continentes, sed a nostra collectione fortasse distinguendos. In codice nostro carmina alphabetico ordiae non sunt disposita, ut in cod. Escorialensi CCCXLIII., si modo fides habenda Casirio.\*)

\*) Primum carmen codicis Escur. CCCXLIII. legitur in cod. nostro fol. 3. r. sqq.; exeunt tamen versus ejus in litteram v.

### CCLXVIII.

(N. 50. in 8vo; olim N. 12. in 8vo.)

*Corpus poëmatum clarissimi Abû 'Hafsz 'Omar bin Abi 'Ihasan bin 'Ali*, vulgo *Ibn el-Fâridh* dicti et a. h. 632. (Chr. 1235.) mortui; in 8vo, foll. 94. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene et accurate scriptus. Vid. vitam ejus poëtae apud Ibn Challikânûm, vol. I. pag. 533. sq.; conf. 'Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 247. sq.; Silvestre de Sacy, chrestom. Arabe, edit. 2a, vol. III. pag. 130. sqq.; Granget de Lagrange, anthol. Arabe, pag. 117—121. Collegit haec poëmata 'Ali, auctoris nepos, cujus praefatio incipit in codice nostro fol. 1. v., explicit fol. 23. r. Praefationis initium: الحمد لله الذى خص حبيبه الاسى بمقام العز والكرامه . Subscriptio finalis, fol. 93. v.: تمرد ديوان الشريف الخ . Accedunt fol. 94. r. et v., alia manu exarata, carmina duo, quorum prius composuit 'Afif ed-dinus et -Tilimsâni.

### CCLXIX.

(N. 59. in fol.; olim N. 58. in 8vo.)

*Alterum ejusdem libri exemplum*, in fol., paginarum 124., in charta orientali firma char. Neschi bene scriptum. Praefatio incipit pag. 1., sed recedunt paululum prima ejus verba ab iis, quae e codice praecedente depromsimus. Hic enim legitur: الحمد لله الذى اختص حبيبه الاسى بمقام قن قوسين او ادى . Ipsa carmina incipiunt pag. 29. Subscriptio finalis, pag. 124.: وقد تجز الغرض من عذا الديوان الشريف على انتمام والكمال وقبول على نسخته خط ولد الشيخ قوبلت على الشيخ وعلى بذل الجهد والثناء . والحمد لله على ذلك . وعلقيا الفقير على التلماوى خذله نفسه . Infra legitur: وكان كاتبه وناسخه الفقير - النفس لاندبيوس ساهم . الخلى بمدينة روميه الكبرى بتاريخ شهر اب فى اواخره سنة . سنين وسبعماية ولف مسجيه . De hoc presbytero Lavendio Sâlim conf. ad cod. Bibl. Reg. CCXXVI.

## CCLXX.

(N. 153. in 4to; olim N. 68. in 4to.)

*Corpus poëmatum Behâ ed-dini Abû-lfadhl Zuheir bin Mu'hammed bin 'Alî*, in 4to, foll. 129. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi optime scriptum. Conf. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 282. n. 5445. Titulus, fol. 1. r.: هذا ديوان العلامة العبد البارح البليغ السيد الامام البحر (الخبر: leg.) الهمام بها الدين شرف الفضلا سكردان الشعرا والفصحا ابو (sic) الفضل زهير المهلبى المصرى الحى. Infra praeter alia leguntur poëmatia duo, quibus celebratur Behâ ed-dinus noster, alterum a Sa'd ed-dino Ibn el-'Arabî, alterum a Zein ed-dino el-Ma'hâsini compositum. In praefatione, fol. 1. v., cujus prima verba attulit Hâg'i Chalfa, auctoris nomen plenius hoc modo traditur: قال الوزير صاحب الفاضل الرئيس البليغ البارح الامام العلامة البحر الهمام بهاء الدين جمال الاسلام مفخر العلماء شرف الفضلا سكردان (sic) الشعرا والفصحا ابو الفضل بن زهير (sic) بن صاحب محمد بن صاحب على بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبى الصالحى المصرى الحى. Natus esse dicitur Meccae a. h. 581. (Chr. 1188.) Ipse poëta deinde narrat, hoc volumen se collegisse et ordine alphabetico disposuisse carmina, quae condiderit adolescens. Incipiunt ea fol. 2. r., absolvuntur fol. 126. v. Subscriptio finalis, de vita et morte poëtae maxime agens. fol. 127. r. occupat. Mortuus esse dicitur Qâhirae, a. h. 656. (Chr. 1258.), quocum non consentiunt quae narrat Casiriûs, vol. I. pag. 139. ad cod. CCCCLXXV., eadem carmina continentem. Exaravit codicem et absolvit mense Rebi' secundo a. 1015. (Chr. 1606.) Zein ed-dinus bin Chalil el-Achnâi (الاخنائى). Quae fol. 128. r.—129. v. a diversis hominibus negligenter exarata sunt, ad ipsum librum non pertinent. — Ceterum conf. Catal. Bibl. Reg. Paris. n. 1448. et Herbelotius s. v. Dhehir.

## CCLXXI.

(N. 51. in 8vo; olim N. 29. in 8vo.)

*Poëmata in laudem Prophetæ*, quibus inscriptum est: هذه القصائد الوتريات i. e. carmina praecipua lege non praescriptas [الوتر] continentia, auctore Meg'd ed-din Mu'hammed bin Abi Bekr bin Reschid Baghdâdensi, a discipulo Mu'hammed bin 'Abd-el-'Aziz in versus quinaros redacta et edita; cod. in 8vo, foll. 67. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene exaratus.\*) Titulus fol. 1. r.: هذه القصائد الوتريات نظم العارف العلامة مجد الدين محمد بن أبى بكر بن رشيد الواعظ البغدادى رحمه الله تعالى أمين، الحمد لله الذى فضل بعض النبيين. E nonnullis hujus praefationis locis apparet, poëtam in Hispania a. 652, (Chr. 1252.) in Aegypto a. 661. (Chr. 1262.) vixisse. Praefationem editoris nuper commemorati fol. 3. r.—3. v. sequuntur inde a fol. 3. v. Qaszidae XXIX. secundum litterarum Arabicarum numerum\*\*), quae singulae XXI. versus continent. Exordium cujusque versus ex more celebrato orientalium tria hemistichia faciunt, auctore Mu'hammede bin 'Abd-ul-'Aziz scriba, discipulo Meg'd ed-Dini, cujus in praefatione fol. 3. r.—3. v. nomen integrum invenitur: محمد بن عبد العزيز الوراق ابن الشيخ الفقيه مجد الدين محمد بن عبد الملك بن شعبان التخمى الاسكندراني hemistichia illa versum textus quinarium [التخميس] reddunt; vid. Freytag, Darstellung der arab. Verskunst, pag. 408. sqq. — Desinit liber fol. 67. r., ubi subscriptio finalis legitur: كملت هذه القصائد مع تخميسها على يد مكلمنا الحقيق عبد الله الاداكلى الحى (Chr. 1173.)

\*) Folia 1—3. recentiore manu minus accurate suppleta sunt.

\*\*) Paenultima littera est لا.

## CCLXXII.

(N. 154. in 4to; olim N. 67. in 4to.)

*Commentarius in Bûszîrii carmen clarissimum, el-Burde* dictum; in 4to, foll. 83. chartae orientalis laevigatae, char. Nests'liq mediocriter scriptus. Commentarii auctorem, cujus nomen in codice nostro non reperitur, discimus ex 'Hâg'i Chalfa, qui vol. IV. pag. 525. sq. e praefatione in commentarium *Muhji ed-dîni Muhammed bin Musz'afa*, vulgo *Scheichsâde* dicti et a. h. 951. (Chr. 154½.) mortui, eadem verba laudat, quae leguntur in limine codicis nostri, fol. 1. v. Ipsum carmen cum commentario incipit fol. 4. r., explicit fol. 82. r. Passim adjecta sunt in margine scholia, exordia versuum similia, quae in cod. antec. inveniuntur, versiones Persicae et Turcicae. Specimen exordii versus primi sit:

ما بأل قلبك لا ينفك ذا المسم ،  
 مذ بان أهل الحمى والبيان والعلم ،  
 وانهد مدمعك القاني بمنيسم ،

Specimen versionis Persicae sit primum distichum:

ای زیاد صحبت یازنت اندر ذی سلم ،

اشک چشم آمیختی با خون روان کشته بهم ،  
 cfr. Fleischer cat. biblioth. Lips. p. 434. — Exaravit codicem 'Ali bin Scha'bân a. h. 1034. (Chr. 162½.) — E duplici inscriptione fol. 83. r. et v., altera Germanica, Latina altera, hunc librum discimus ad spolia ex expugnatione urbis Budae a. 1686. reportata pertinuisse, et a. 1717. Lehmanno, Krempensium in Holsatia antistiti, dono datum esse.

## CCLXXIII.

(N. 155. in 4to.)

*Ejusdem carminis el-Burde apographum Reiskianum cum commentario*, in 4to. Titulum codici praefixit Reiskius, pag. 1.: "Al Bordah, carmen Arabicum laudes Muhammedis prophetae celebrans, ex gemino codice msto Bibl. Regiae Dresdanae descripsit mense Febr. 1748. Jo. Jacobus Reiske." Idem infra notulas nonnullas adscripsit. Pag. 2. legitur "Particula praefationis ad codicem A. Dresdanum." Est ea praefatio commentarii, quem scripsit 'Ali bin Meg'd ed-dîn es-Suhrwerdtî el-Bisîâmî, de quo vid. 'Hâg'i Chalfa, vol. IV. pag. 525.\*) Sequitur pag. 3. "Praefatio ad codicem B. Dresdanum, e quo solo sequentia describemus;" et haec quidem praefatio in commentarium Châlidî bin 'Abd allâh \*\*) el-Azherî; vid. 'Hâg'i Chalfa, l. I. pag. 526. In fine ejusdem paginae ipsum poëma incipit atque commentarius. Explicit liber pag. 25. Subscriptio Reiskii: "mense Febr. 1748." — Conf. Catal. Bibl. Reg. Dresd. n. 219. et Reiskens Lebensbeschr. pag. 165. n. 40.

## CCLXXIV.

(N. 156. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 2. in 4to.)

*Carminis el-Burde apographum*, ab Europaeo aliquo homine scriptum et Europaeorum more a sinistra incipiens. Titulus, codici praefixus: "Carmen in Laudem Mohammedis scriptum ex MSS. codic. qui in Biblioth. Colleg. Emanuelis Cantabrigiae asservantur." Sequuntur folia 17., quorum in parte anteriore inscriptum est illud poëma cum variis lectionibus; in parte aversa annotationes et supplementa nonnulla leguntur. Sequitur fol. 18. r. 19. r. 20. r. "Praefatio Autoris in hoc Carmen compositum in laudem Mohammedis." Fol. 21. r. 22. r. ex libro aliquo MS. exordia bina singulis versibus praemissa, transcripta sunt; — alterum

\*) Sed ibi pro es-Suhrwerdtî impressum est esch-Schâhrûdî, idemque nomen Fleischerus deprompsit e cod. Dresd. 219.

\*\*) Fleischerus ad cod. Dresd. 219. pro 'Abd allâh habet 'Ubeid allâh. Eundem tamen scriptorem esse suspicamus, cujus mentio facta ad cod. CXc.

quinque hemistichia continens Mu'hammedis bin el-Wefâ [cfr. Hâg'i Ch. T. IV. p. 533.], alterum, quod in margine Cod. CCLXXII. legitur, tria.

## CCLXXV.

(N. 157. in 4to.; olim N. 65. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 263.\*) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens *collectionem poematum Szafijj ed-dini 'Abd el-'Azîs bin Serâjâ bin 'Ali el-Hillî*, mortui a. h. 759. (Chr. 1358.); de qua vid. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 291.; clar. Bernstein in Prolegomenis ad Szafieddini carmen, a. 1816. Lipsiae editum, pag. 3. sq.

Fol. 1. r. inscriptus est titulus: عَذَا دِيوَانِ الصَّفِيِّ الخَلِيِّ رَحْمَةُ اللهِ، Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذي علم الانسان البيان ومن عليه به، v.: Dividitur totus liber in capita XII., sectiones XXX. completentia:

Cap. I. fol. 4. r.—fol. 20. r.

في القنطرة والحجاسة والتحميص على الرياسة،

Cap. II. f. 20. r.—f. 78. v.\*\*)

في المدح والتناء والشكر والثناء،

Duae hujus capitis sectiones titulos inscriptos habent *المنصريات* et *الناصريات*, encomia continentes Nâzir ed-Dini Muhammedis b. Qalawûn, domini Aegypti, et Manszûri Nag'm ed-dîni Abû-l-Fat'h b. Gâzi.

Cap. III. f. 78. v.—f. 90. v.

في الضربيات [Cynegetica] وأنواع الضغفات،

Cap. IV. f. 90. v.—f. 113. v.

في الأخوانيات وصدور مراسلاته،

Cap. V. f. 113. v.—f. 145. r.

في مراثي الأعبان وتغاري الأخوان،

Cap. VI. fol. 145. r.—f. 177. v.

في الغزل والنسيب وظم أريف التثبيب،

Cap. VII. fol. 177. v.—206. r.

في الخمرات والتبذ والزهريات،

Cap. VIII. f. 206. r.—f. 219. r.

في الشكوى والعتاب وتقاضي الوعد والجواب،

Cap. IX. fol. 219. r.—f. 229. r.

في الهدايا والأعتذار والاستعطاف والاستغفار،

Cap. X. f. 229. r.—f. 239. v.

في العويص والالغاز والتقييد للايجاز،

[De arte vocis varia significatione adhibendae punctis diacriticis mutatis; de aenigmatibus et versibus memorialibus.]

Cap. XI. f. 239. r.—f. 252. v.

في المذموم والأعاجي والامحاض والنساجي،

Ultima sectio hujus capitis poemata lasciva et obscoena continet.

Cap. XII. f. 252. v.—f. 261. r.

في الأدب والزهديات ونوادير مختلفات،

Subjunguntur fol. 261. v. 262. r. disticha haec, auctore clar. Qanâli Zâde [مولانا علي افندي]، [ابن امر الله المعروف بقنلى زاده supremo Anatoliae judice, de quo vid. ad cod. CCXXXI.:

أرى في صدغك الموعج دلاً، علينا نقننة من مسك خالك،  
فصبح دانه بانتقنن ذاك، فيها أنا عانك من أجل ذك،  
et carmen eroticum, cujus hoc est initium:

سلام على من ليس يحفظ لى عيدي،

ومن دابة نسيان ما صبح من ودي،

Codex Qahirae emptus a b. von Haven; vid.

J. D. Michaelis litt. Briefwechsel, vol. II. pag. 40. n. 12.

## CCLXXVI.

(N. 60. in fol.; olim N. 14. in fol.)

Codex in fol., foll. 286. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi magno optime scriptus, poemata continens in laudem Prophetae, condita a Schems ed-dîno Abû 'Abd allâh Mu'hammed bin 'Abd allâh bin Mu'hammed, vulgo

\*) Non pauca codicis folia recentiore manu suppleta sunt, ut fol. 1—3. 9—20. 35. 38. 42. 47. 50. 246—261.

\*\*) Falso sectio II. Cap. I. في التحميص على الرياسة fol. 38. r.—f. 59. v. Cap. II. a librario adscripta est.







dictum fol. 133. v.—139. v.; in alia carmina ejusdem auctoris 140. v. et 175. v.; in carmen Behâ ed-dini Zuheiri fol. 150. v. [cfr. Cod. CCLXX. fol. 111. r.]; in carmen satis longum Abû-s-Su'ûdî fol. 154. r.—168. r.; in carmen minus Muhammedis Wefâi fol. 168. r., quod quidem in cod. nostro CCLXXVII. non reperitur; in celeberrimum carmen Burde dictum fol. 291. r.—315. v. — Desinit codex fol. 403. r., ad finem perductus mense G'umâdâ posteriore a. 1060. (Chr. 1650.)

### CCLXXXII.

(N. 163. in 4to; olim N. 21. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 74. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte quidem, sed non eleganter, neque eadem manu scriptus, continens *poëmata in laudem Prophetarum*, composita a *Schems ed-dino Mu'hammed es-Szâ-lîhi*, Damasceno. Titulus, fol. 1. r. inscriptus:

هذا الديوان النبوي للمرحوم الشيخ العلامة شمس الدين محمد الصالحى الدمشقى الح، Introductionem poëticam, cujus initium hoc est:

هل ظننى زورود على العهود كما كان،

أم حال ومددت دونى ذلك أزمان؛  
carmina in ordinem alphabeticum disposita sequuntur.

Desinit liber fol. 74. r.; absoluta est scriptio mense Mu'harrem a. 1026. (Chr. 1616.)

### CCLXXXIII.

(N. 61. in fol.; olim N. 19. in 8vo.)

Codex in fol. minore, foll. 235. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter scriptus, continens *collectionem poëmatum Schihâb ed-dini el-Chafâg'î*, ejusdem, ut videtur, poëtae, quem clar. de Hammer vocat: Schihâb ed-din A'hmed bin Mu'hammed bin 'Omar el-Chafâg'î, et mortuum esse tradit a. h. 1069. (Chr. 1658<sup>9</sup>); vid. Wiener Jahrb. vol. LXXXVI. Anzeigebl. pag. 41. et 51. sqq. Idem scripsit

commentarium in librum celeberrimum 'Harfrii *درة العوآص* et Sultano Turcico Murâdo IV. dedicavit; cfr. fol. 26. v. codicis nostri. Vid. praeterea H. Ch. T. III. p. 206. Fol. 1. r. annotatur: *ديوان الشهاب لفجاجى رحمه الله تعالى الح*; et infra: *شهاب افندى رحمه الله تعالى امين*. Praefationis initium, fol. 1. v.: *ما انتظم من عقد ثناء في جيد الأيام*. Carmina incipiunt fol. 4. r., desinunt fol. 235. r.

### CCLXXXIV.

(N. 164. in 4to; olim N. 46. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 74. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi eleganter quidem scriptus, sed minus accurate, continens *corpus poëmatum*, quae composuit *A'hmed bin Abi -Iqasim el-Chalâf el-Andalusî*. Fol. 1. r. legitur:

هذا ديوان العلامة بن خلوف الاندلسى عفى عنه.  
Initium praefationis, a collectore scriptae, et ejusdem, quae in cod. sequenti fol. 1. v. lin. 1—12. legitur, fol. 1. v.: *ومن عليه*

*حمد لمن خلق الانسان، وبن عليه*. Poëtae nomen plenius exhibet praefatio, pag. eadem: *فهذى ما وجد من نظم العبد الفقير* — *أحمد بن أبى القاسم الخلوف رحمه الله تعالى*, يقول. Deinde incipiunt ipsa poëmata, ad alphabeticum ordinem disposita, exceptis minoribus, quae collectionem claudunt fol. 64. v.—74. v. Scriptio absoluta in Aegypto mense *Âu -Ihig'g'e* a. 1118. (Chr. 1707.)

### CCLXXXV.

(N. 62. in fol.; olim N. 25. in fol.)

Codex in fol., foll. 39. chartae orientalis, char. Neschi satis bene scriptus, continens *collectionem poëmatum*, quae composuit *Ibn Meng'ek Bâschâ*.\* Titulus, fol. 1. r. recentiore manu inscriptus: — *هذا ديوان الاديب* — *أبن منجك باشا رحمه الله تعالى الح*. Praefationem praemisit idem editor anonymus operis antee-

\* Si modo ita pronuntiandum est hoc nomen: *منجك باشا*.

dentis, cujus initium, fol. 1. v., hoc est: **حمد**  
 لمن خلق الانسان ومن عليه بيديع الامتنان . In hac  
 praefatione nomini Ibn Meng'ek Bäschâ adji-  
 tur: ابن المرحوم محمد باشا . Poëmata incipiunt fol.  
 3. r., desinunt fol. 38. v., ubi subscriptionem  
 finalem sequi debebat collectio carminum beati  
*Ibn ed-Durre*; sed praeter inscriptionem nihil  
 reperitur.

## CCLXXXVI.

(N. 165. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 376. chartae Europaeae,  
 char. Africano satis nitide sed litteris minus-  
 culis et minus distinctis exaratus, *carmen Maq-*  
*szūra Imâmi Abû-l-Hasan 'Hâzimi*, Carthagine  
 nova Hispaniae sec. XIII. p. C. degentis, cum  
*commentario amplissimo Mûhammedis bin A'h-*  
*med Granadensis* continet.

Fol. 1—4. nihil scripti continent; fol. 5. r.  
 titulus legitur: شرح الفقير الامام ابى عبد الله محمد بن  
 احمد انشريف الغرناطى على مقصورة حازم رحمه الله بتمه .  
 Infra titulum et in margine traditio de libera-  
 litate 'Hasani bin Sahl Veziri, quae apud Ibn-  
 Challikânium ed. de Slane p. 209. invenitur, et  
 versus aliquot Zubeiri bin Bekkâr atque 'Abd  
 el-Qâdiri Gilâni theologi celeberrimi leguntur.

Fol. 5. v.—6. v. praefatio commentatoris  
 post Besmelam sic incipiens: الحمد لله الذى علم  
 بالعلم وحدانا الخ ,

--- مقصورة الاسم الواحد على الحسن حازم بن محمد بن  
 حسن ابن حازم الانتصارى القرشاجى  
 المقصود الاسم الواحد على الحسن حازم بن محمد بن  
 انتصارى القرشاجى . . . . .  
 الكلام وما بحسن وصلى الله على سيدنا محمد افضل من  
 سمعت به الاذان ونشرت اليه الامين  
 sequitur fol. 17. r.

—26. v. tractatio uberius commentatoris de no-  
 minibus troporum, qui in loco prooemii occurrit.  
 Fol. 26. v. initium carminis metro **الرحز** compositi  
 et minio exarati commentario subjecto legitur:

له ما قد حجت يا يوم انوى ،

على فادى (sic) من تباريح الجوى ،  
 لقد جمعت انظم والاطلام اذ ،  
 واريت شمس الحسن في وقت الضحى ،

Poëma el-'Hâzimi mille versus continens, quare  
 الخليفة المستنصر بالله امير المؤمنين أبوا (sic) عبد الله  
 - عوصاحب افریقیة أبوا (sic) عبد الله محمد بن الأمير أبى  
 [cfr. Zكرياء يحيى بن أبى عبد الواحد بن أبى حفص  
 Casiri T. I. N. CCCLXXX. et T. II. p. 226].

Regnum Tunetanum is tenuit sec. XIII. p. Ch.;  
 confudit eum Casirius sub numero CCCCLII.,  
 ubi idem carmen commemoratur, cum Cha-  
 lifa Fathimidico Mustansziro billah [† 427.  
 p. II.]; a quo poëta noster praemium mille  
 denariorum aureorum accepisse dicitur fol. 15.

وقد ذكر أن أمير المؤمنين أبى عبد الله  
 المستنصر صاحب افریقیة وصل أبى الحسن حازم على مقصودته  
 هذه بألف دينار من الذهب العين بحساب دينار لكل بيت ،  
 — Epilogus commentatoris f. 374. v. legitur, et  
 infra eadem pagina nomen scribae على  
 ممتنقى بن على invenitur; absolutus est  
 codex noster a. 1241. p. II. = 182½ p. Ch.

Fol. 375. r. poëmation 11. versus continens  
 adjunctum est, quo opus praecedens celebratur.

Accedunt foll. 375. v. et 376. particulae  
 duae Ibn-Challikâni, vita Abû Suleimâni bin el-  
 Qirriat et fragmentum vitae Hammâdi  
 dicti, quod verbis abrumpitur: فقدت في نفسى من  
 فهذا كنت اخاف vid. ed. de Slanii p. 121. sq.  
 et 240.

Codex noster ad libros b. Falbii pertinens  
 a bibliotheca regia cum aliis codd. orient. suis  
 locis commemorandis comparatus est.

## CODICES DE AMORE ET RE VENEREA.

## CCLXXXVII.

(N. 166. in 4to; olim N. 36. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 304. chartae Europaeae laevigatae, char. Neschi bene scriptus, continens librum, qui vocatur: كتاب تزيين الاسواق. كتاب ترتيب احوال العشاق، i. e. *Fora, amantium condicionibus belle expositis ornata*. Hoc enim nomine in ipsa praefatione (fol. 4. r.) designatur, in titulo tamen, fol. 1. r. legitur: كتاب تزيين الاسواق بتفصيل اسواق العشاق تأليف الشيخ العلامة داوود البصير الحكيم رحمه الله رحمة واسعة أم، Sed haec mendose scripta sunt et reponendum est: ut كتاب تزيين الاسواق بتفصيل اشواق العشاق، in cod. Gothano, de quo egit Kosegarten in praefat. ad chrestom. Arab. pag. X. Aliud ejusdem libri exemplum sine dubio continet cod. Gothanus 956. Auctorem Möllerus vocat Sein ed-din David et-thabib; de quo nos quidem nihil compertum habemus.\*) Praefationis initium, fol. 1. v.: الحمد لله الذى اطلع فى بروج اعتدال القديود، اسواق الاشواق، concinnati ab Abū-Ḥasan Ibrahim bin Ḥasan b. 'Omar er-Rabbāṭ\*\*)، noti sub nomine el-Beqā'i, qui vestigia pressit Abū Bekri Muhammedis bin Ḥunein el-Baghdādī es-Serrāg\*\*\*) in libro: مصارع العشاق. Dividitur liber Davidis nostri in introductionem, quinque capita, coronidem; indicem e cod. suo MS. dedit Hammerus, Wiener Jahrb. vol. LXIII. Anzeigebl. pag. 16.; sed

\*) A clarissimo medico Davide Antiocheno, cocco, nostrum distinguit codicis titulus, adjecto epitheto: البصير.

\*\*) In cod. Bibl. Reg. CLXXII. idem scriptor vocatur: البقاي أبراهيم بن فتره،

\*\*\*) In cod. CLXXII. vocatur is: أبو محمد جعفر بن أحمد المعروف بالسراج القفاري، Conf. Kosegarten, l. 1. pag. X. sq.

in nostro codice hae sunt capitum inscriptiones: ٢ فى عشاق للجوارى، ٣ فى عشاق الغلمان، ٤ فى ذكر خلق العشاق فيما سوى البشر، Et hoc quidem caput divisum est in duas sectiones (توعان)، quarum prior est: فى الجن؛ فى الحيوان والنبات والمعدن والعناصر والافلاك، posterior: نكت وحجايب ولطاييف. Introductio incipit fol. 5. r.; clauditur coronis fol. 301. v., ubi in subscriptione finali hoc modo expressum est libri nomen: تزييد الاسواق بتفصيل اشواق العشاق، — Excerpta nonnulla e cod. Gothano publici juris fecit Kosegarten in chrestom. Arab. pag. 22—27.

## CCLXXXVIII.

(N. 167. in 4to; olim N. 34. in 8vo.)

Codex in 4to, foll. 176. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus, continens librum, qui vocatur: كتاب تحفة العروس، i. e. *Donum sponsi et oblectamentum animorum*, auctore Abū 'Abd allāh bin Abī 'Abd allah Muḥammed bin 'Ahmed bin Muḥammed bin Abī -Iqāsīm et -Tegāni; de quo vid. Ḥāg'i Chalfa, vol. II. pag. 232., Casirius, vol. I. pag. 164. n. DLIX. Libri titulus auctorisque nomen leguntur fol. 2. r. Praefationis initium, fol. 2. v.: الحمد لله الذى سوعنا الفصل جزيلًا وفضلنا على كثير من خلق تفصيلًا، Dividitur totus liber in capita XXV., quorum primum incipit fol. 5. r., desinit ultimum fol. 176. r. Absoluta est scriptio mense Schawwāl a. 1125. (Chr. 1713.); librarii nomen: محمد محتر. Edita sunt hujus libri praefatio et Capita I., VII., VIII. transcriptione lithographica et caractere Africano, Parisiis et Algeriae a. 1848.

## CCLXXXIX.

(N. 168. in 4to; olim N. 78. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 64. chartae orientalis laevigatae, char. Africano bene scriptus. Continent:

## I. Librum obscoenissimum, qui vocatur:

، كتاب الرّوض العاطر في نزهة الخاطر، i. e. *Hortus fragrans de deliciis animi*, auctore Abà 'Abd alláh 'Omar bin Mu'hammed en-Nefzáwi, ut legitur in limine libri, fol. 1. v. Praefationis initium: الحمد لله الذي جعل اللذة الكبرى للرجال في فروج النساء. Idem scriptor jam antea minoris molis librum composuerat, in eodem argumento versantem, cui titulus: ، تنوير النّوّاع في احرار الجماع،

hunc vero nostrum scripsit instigante Mu'hammed bin 'Awáne ez-Zewáwi, Weziro 'Abd el-'Azizi, principis Tunetani. Divisus est in capita XXI., quorum primum incipit fol. 4. r., desinit ultimum fol. 61. r. Absoluta est scriptio mense Ramadhán a. 1133. (Chr. 1721.); librarii nomen: عبد الخائق بن الشاحلي الشاوي ثم النوراي نسبة: ، الان اللهنوني اصلا. — Sequitur:

II. Fol. 61. v.—64. v. *Initium narrationis de Mejnáno et Leilá*, eadem manu scriptum, qua superior liber. Inscriptio: قصة ليلى العنبرية. مع عشيقها قيس بن الملوح رحمة الله عليهما. Conf. cod. Bibl. Reg. CCXXXV.

## CCXC.

(N. 169. in 4to; olim N. 18. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 50. chartae orientalis, char. Neschi bene scriptus, continens librum, qui appellatur: ، i. e. *Afflictio querentis et lacrima stentis*. Est idem liber obscoenissimus, qui reperitur in cod. Bibl. Senat. Lips. CCXCVI. fol. 21. r.—49. v.; vid. Fleischerum pag. 533. sq. Adscribitur in titulo codicis nostri, fol. 2. r., *G'emál ed-dino Júsuf*, concionatori in templo Szaláhico Babylone (للخطيب بالجامع الصلاحي ببابل). Sed in

codice sequenti, eundem librum continente, in cod. Escorialensi CCCCXXIX. \*) et in cod. Gothano 100., \*\*) auctor fuisse perhibetur clar. *Szaláh ed-dinus esz-Ssafedí*, de quo vid. ad cod. CCLXIII.; atque apud 'Hág'i Chalfam T. V. p. 344. liber ejusdem nominis adscribitur *Zein ed-dño* cuidam *Mansúr*; ita ut de ea re non satis constet. Incipit liber fol. 1. v., clauditur fol. 49. v., exaratus manu Suleimáni bin 'Husein ibn el-Emir G'anum (جانم) el-Jeschbeki. Comparavit hunc librum in Oriente b. von Haven, teste inscriptione folii 50. r.: صح انه بقى هذا الكتاب ملك الخواجا فون هاون.

## CCXCI.

(N. 170. in 4to; olim N. 82. in 4to.)

*Ejusdem libri exemplum alterum*, in 4to, foll. 69. \*\*\*) chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptum, sed minus accurate, quam codex superior. Titulus fol. 1. r. in-scriptus: كتاب لوعة الشاكى ودمعة الباكي للششيخ الامام: ، العالم العلامة صلاح الدين الصفدى رحمه الله تعالى. Incipit liber fol. 2. r., desinit fol. 69. r.

## CCXCII.

(N. 52. in 8vo; olim N. 40. in 8vo.)

Codex in 8vo, foll. 142. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi mediocriter exaratus †), continens librum, qui in praefatione vocatur: ، i. e. *Oblectamentum cordium, de rebus agens*,

\*) Codex CCCLXXXV. (Casir. vol. I. pag. 114.), in quo nomen scriptoris non reperitur, eundem plane librum continet, quem codices Haunienses.

\*\*) Non erat referendus hic codex inter codices theologicos, si eundem librum continet, quem codices nostri.

\*\*\*) Foll. 1—8. et 64—69. recentiore manu eaque satis rudi suppleta sunt.

†) Foll. 1—30. recentiore manu suppleta sunt.

*quae in libris non reperiuntur.* In titulo fol. 1. r. post vocem *الالباب* perperam additum est: *والمستطاب*. Auctoris nomen ibidem ita scriptum est: *للسيخ احمد التينغاشى المالكي المغربي*. Legendum videtur: *التينغاشى* aut *التينغاشى*; conf. Flügel in prooemio ad *Häg'i Chalfae* vol. II. pag. IV.; Fleischer in catal. Bibl. Senat. Lips.

pag. 507. not. Sed num is recte auctor habendus sit obscoenissimi hujus libri, affirmare non possumus. In praefatione fol. 4. v. et in limine capitis primi scriptor solo nomine *A'h-med* designatur. Praefationis initium, fol. 1. v.: *لحمد لله الذى علم طبع الانسان في الملال وعجزه عن تحمل الاثقال والتقال*. Dividitur liber in capita XII. Desinit codex fol. 142. v.

## CODICES DE ARTE PHYSIOGNOMICA ET ONEIROCRITICE.

### CCXCIII.

(N. 171. in 4to; olim N. 16. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 48. chartae orientalis laevigatae, partim char. *Nesta'liq*, partim char. *Neschi* mediocriter scriptus, continens librum, qui vocatur: *كتاب كشف الحلال في وصف الحلال*, i. e. *Detectio condicionis, qui liber versatur in describendis naevis*, auctoremque habet secundum *Häg'i Chalfam* T. V. p. 204. *Szala'h ed-dinum esz-Szafedi*, eundem de quo diximus ad cod. CCLXIII. In hoc quidem codice nostro neque auctoris nomen reperitur, neque libri nomen integrum; sed conf. codicem sequentem. Fol. 1. r., *Europaea*, ni fallimur, manu inscriptus est titulus: *كتاب في وصف الحلال وما جاء في تشبيهه*, ووصفه. Praefationis initium, fol. 2. r.: *الحمد لله على ما اتمم وتحقيق ما اشكل سببه وايهم*, Dividitur liber in tractatus introductorios duos, quorum hae sunt inscriptiones: *المقدمة الاولى في الحلال لغته وما له بذلك من التعلق*, *المقدمة الثانية في حقيقته معنى وسبب وجوده في الاشارة وما يدل عليه في اختصاصه*, et in *conclusionem* (نتيجة) *فيها جا في ذلك من رقيق*: *النظم وبديعه وجميل القول وصنيعه*. *Poëmata* hujus partis ad ordinem alphabeticum disposita sunt. Incipit liber fol. 3. r., desinit fol. 47. v. Absolvit codicem mense *Mu'harrem* a. 996. (Chr. 1587.) *Suleimán bin Dáúd Efendi*.

### CCXCIV.

(N. 172. in 4to; olim N. 32. in 8vo.)

*Ejusdem libri apographum alterum*, in 4to, foll. 58.\*) chartae orientalis laevigatae, char. *Neschi* optime scriptum. Fol. 1. r., magnifice exornatum, titulum exhibet, litteris *Kuficis* scriptum: *كشف الحلال في وصف الحلال*. Infra char. *Neschi* elegantissimo et auro obducto exaratum legitur: *بسم الخزانة العالمة العلانية ابن فضل الله صاحب دواوين الانشاء الشريف*. Incipit praefatio fol. 1. v., desinit codex fol. 58. v.

### CCXCV.

(N. 173. in 4to; olim in Bibl. Univ. Haun. N. 6, 1. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 31. chartae, ut videtur, *Europaeae*, char. *Neschi* satis rudi scriptus, continens *fragmentum libri de oneirocritice*, qui in praefatione appellatur: *كتاب الاشارة في علم العبارة*, i. e. *Liber indicii, agens de scientia interpretationis somniorum*. Idem liber est, quem *Häg'i Chalfa*, vol. I. pag. 307. n. 760., vocat: *اشارة الى علم العبارة*, et conscriptum esse

\*) Foliorum ordo a bibliopecto nonnihil turbatus est; quod nunc est fol. 9., praecedere debebat folium 7.

narrat ab *Abū 'Abd allāh Mu'hammed bin 'Ahmed bin 'Omar es-Sālīmī*. Fol. 1. r. in limine libri titulus legitur, mendosissime scriptus, et sic fere ad mentem ejus, qui haec scripsit, restituendus: هذا الكتاب تعبير الاحلام تمت. Praefationis initium congruit cum eo, quod

expressit 'Hāg'i Chalfa. E quinquaginta libri capitibus, quae recensentur fol. 4. v.—7. v., fragmentum nostrum octo priora et noni partem continere debebat, sed folia nonnulla desunt post fol. 8. et 26. Abrumpitur codex fol. 30. r.

## CODICES VARI ARGUMENTI.

### CCXCVI.

(N. 174. in 4to; olim N. 27b. in 4to.)

Codiculus in 4to, foll. 6. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus, continens tractatum, qui vocatur: كتاب ترغيب، *Exhortatio fidelium ad habitandam Syriam*, conscriptum ab *'Izz ed-dīno Abū Mu'hammed 'Abd el-'Asīz bin 'Abd es-Selām*, mortuo a. h. 660. (Chr. 126½); vid. 'Hāg'i Chalfam, vol. II. pag. 281. sq.\*) Titulus libri auctorisque nomen leguntur fol. 1. r. Initium, fol. 1. v.: الحمد لله ذي الجود والاحسان. Fol. 3. v. incipit sectio, cui inscribitur: فصل في تفضيل دمشق على الخوص،. والفصل والامتنان. Desinit liber fol. 5. r. — Junctus erat antea hic tractatus cum codicibus LXXII. LXXIII. XLVIII. LII.

### CCXCVII.

(N. 175. in 4to; olim N. 26. in 8vo.)

*Szalāh ed-dīni Chalil bin Aibek es-Sza-fedī* liber, qui vocatur: كتاب تشنيف السمع في وصف الدمع، i. e. *Exornatio auris, liber qui versatur in describendis lacrimis*; codex in 4to, foll. 88. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus sed aqua nonnihil laesus. Titulus auctorisque nomen leguntur fol.

2. r. Praefationis initium, fol. 2. v.: الحمد لله الذي جعلني ممن سما بالعلم وسمع، Eodem modo quo codices CCXCIII. et CCXCIV. compositus, duos continet hic liber tractatus introductorios: المقدمة الاولى في ما يتعلق بالدمع من اللغة وذكر ما تراه وما وبيان اسماء العين الخ، المقدمة الثانية في ذكر سببه نقل وما ورد في ذلك من الاحاديث وذكر سببه عقلا الخ، et conclusionem (تنبیجة) in 37 sectiones divisam, anthologiam poetiam exhibentem. Incipit tractatus prior fol. 17. v., posterior fol. 21. v., conclusio fol. 28. v. Desinit liber fol. 88. r., ad finem perductus mense Rebi' secundo a. 1006. (Chr. 1597.), manu 'Alii bin Mu'hammed bin 'Isā el-Bu'heiri el-Azheri. — De libri auctore conf. ad cod. CCLXIII.

### CCXCVIII.

(N. 176. in 4to; olim N. 85. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 123. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi distincte scriptus. Titulus, fol. 1. r. inscriptus, hic est: كتاب الاشربة: واختلاف الناس فيها تأليف ابي محمد عبد الله ابن مسلم بن قتيبة رحمه الله تعالى امين، وكتاب تنبيه السمروري الشرب تأليف ابي العباس عبد الله بن المعتز بالله امير المؤمنين رحمه الله عليه امين، والحمد لله وحده الخ. Continet enim hoc volumen:

I. Clarissimi *Ibn Quteibae* librum de potentis diversisque de iis hominum sententiis, quem laudant *Ibn Challikān*, edit. de Slane vol.

\* Idem est scriptor, cujus mentio facta est ad cod. CCXZ.



I. pag. 352. et Hâg'i Chalfa T. V. p. 43. Initium libri fol. 1. v. post Besmelam atque enumerationem virorum doctorum, quorum fide genuina libri forma servata erat: الحمد لله الذى وجدنا له دينه المسمى، عدادنا لدينه المسمى، Desinit liber fol. 51. v., exaratus mense *Si* - l'hiġ'g'e a. 981. (Chr. 1574.) — Sequitur deinde, eadem manu scriptus:

II. *Ibn el-Mu'tazzi similis argumenti liber*, cujus nomen integrum legitur fol. 53. r.: كتاب فصول التماثيل في تباشير السرور، Praemittitur libro notitia de vita auctoris et chalifae sequentis Muqtadiri billah († 320. p. H.), fol. 52. v. et inferiori parti fol. 53. r. transversis lineis inscripta; conf. quae annotavimus ad cod. CCLI. Initium, fol. 53. v.: الحمد لله اجلالا لوحداثيته، واخلاصا لربوبيته، Dividitur liber poetas quamplurimos laudans in sectiones (فصول) quattuor; desinit fol. 123. r.

## CCXCIX.

(N. 177. in 4to; olim N. 62. in 4to.)

Codex in 4to, foll. 290. chartae orientalis laevigatae, char. Neschi satis bene scriptus\*), continens librum, qui vocatur: حلبية (\*\* الكميبة، q. d. *Hippodromus equi fusci*; sed subest allusio ad tritissimam apud Arabes vini appellationem, in quo describendo et laudando hunc librum maxime versari notum est; conf. Hâg'i Chalfa, vol. III. pag. 106. sq.; G. de Lagrange, anthol. Arabe, pag. 164.; clar. E. W. Lane in annotationibus ad librum: the thousand and one nights, vol. I. pag. 216. Auctoris nomen in titulo codicis, fol. 3. r., ita expressum est: الشيخ العلامة العبد اللوزي (اللوزي) محمد النواجي رحمه الله تعالى. Idem apud Hâg'i Chalfam vocatur: *Schems ed-din Mu'hammed bin*

\*) Recentiore manu, eaque non indocta, suppleta sunt folia 63—73. 164—180. 201—281.

\*\*) Errant qui pro حلبية exprimunt: حلبة; vid. Catal. Bibl. Paris, ad cod. 1566; Herbelotium s. v. Heliat al Comait.

*el-Hasan en-Nawwâg'i*\*), et mortuus esse dicitur a. h. 859. (Chr. 1455.) Conf. etiam Casirius, vol. I. pag. 88. ad cod. CCCXXXVII. Praefationis initium, fol. 3. v.: الحمد لله الذى ادار كوس الادب على اهل الذوق، Dividitur totus liber in capita XXV. et coronidem. Caput primum (في اسما الحمة،) incipit fol. 6. r.; desinit liber fol. 287. r. Absoluta est scriptio mense Rebi' priore a. 1032. (Chr. 1623.) — Fol. 287. v. et 288. r. narratiunculae nonnullae leguntur atque alia, quae ad librum superiorem non pertinent, negligenter exarata.

## CCC.

(N. 53. in 8vo.)

*Collectio litterarum mercatoriarum et alius argumenti*, quae continet: 1. 2. Indices mercium Alexandria a navigatore Gallico, Andrea Darbique [اندريا دربيك] nominato, vectarum; tempus indicatum est: dies septimus mensis Reg'eb a. 1067. (Chr. 1657.). — 3. Litteras Arabicas ad Emirum quendam, cujus nomen est 'Alî, in Syria habitantem, mercatorem quendam Europaeum commendantes, de cujus nomine nobis non constat. Subscripserunt nomina sua duo homines, quorum alteri nomen A'hmed. — 4. Apographum mandati, quo Imâmus Szan'âae C. Niebuhrium ejusque itineris socios suae ditionis magistratibus commendavit mense Mu'harrem a. 1177. (Chr. 1763.) E bibliotheca b. Adleri.

## CCCI.

(N. 17\*. in 8vo; ex codd. Falbii.)

Cod. in 8vo, foll. 208. chartae Europaeae, char. Neschi satis bene scriptus, precesiones, formulas talismanicas, similia, quae ad superstitionem Arabum attinent, partim lingua Turcica composita continet. Inter quae notanda sunt:

\*) Ita Flügelius; sed praestat fortasse pronuntiatio: *en-Neudy'i*.

fol. 5. r.—16. v. Calendarium Christianum cum descriptione mensium ejusdem argumenti, quod in cod. XLIX. IV. legitur;

— 21. r.—38. v. الحزب الكبير auctore Abd-l-'Hasan esch-Schādili [+656.=1258.p.Ch.], cujus initium: *وإن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم الخ.*

— 49. r.—52. r. حرب البكر ejusdem auctoris vid. H. Ch. T. III. p. 56. sqq. cfr. Cod. XLIX. IV.

— 53. فصل في فوائد خاتم علي بن أبي طالب.

— 57. v.—62. r. قصيدة دمياطى، cujus initium hoc est:

بدأت بيسم الله ولحمدُ أولاً، على نعم لم تحصى فيما تنزل،  
cfr. Fleischer. Cat. biblioth. Sen. Lips. p. 435.

— 81. r.—90. r. Annus Christianus cum descriptionibus mensium duodecim; eodem modo descriptus annus Muhammedanicus.

— 90. r.—130. r. Astronomica et Astrologica, inter quae hic titulus: هذا القوائين الأيام طيبات: (sic) tractationi Turcicae inscriptus est.

— 152. r.—156. v. carmen, المنفرجة i. e. consolatorium dictum, cfr. Cod. CCXLII. N. VI. et Fleischeri Cat. bibl. Sen. Lips. p. 435. Titulus hic inscriptus est: (sic) هذا لدعاء منفرجى، et versus primus sic legitur:

أشدد أزيمة تم فرجى، قد اذن ليلى بالبلاجى،

— 189. r.—203. v. Opusculum, cui inscriptum est: هذا لكتاب (sic) المسمى بسبحة العشاق، i. e. *corona precatoria amantium*, poema Turcicum, commentarium in centum traditiones propheticas continens auctore Latifi. Cfr. H. Ch. T. III. p. 576. Cetera folia varia *tasbeeh* continent.

In locis quibusdam codicis annus scriptio- nis indicatur 1244. et 1247. (1828. et 31. p. Ch.); in fol. 1. r. annus 1251. legitur.

## CCCH.

(N. 54. in 8vo.)

Ingens collectio foliorum non compactorum in 8vo, *precaiones* continentium, *formulas talismanicas, similia*, quae Arabum superstitio-

nem spectant, diversis temporibus a diversis hominibus char. Africano scriptorum.

## CCCHH.

(N. 178. A. et B. in 4to; ex codd. Falbii.)

A. Fragmenta, char. Africano varia manu mediocriter exarata, varii argumenti. Fol. 1. r. desinit narratio de palatio aureo, cujus subscriptio finalis haec est: انتهى ما وجدناه مفيداً من حديث قصة قصر الذهب الخ

Fol. 1. v.—33. v. sequitur opusculum, cui titulus inscriptus est: كتاب الزهر النافع في وصف من كتاب الزهر النافع في وصف من *liber floris odoriferi de descriptione virorum, qui culpis et maleficiis immunes fuerunt.* Traditiones multifarias argumenti paraenetici continet.

Fol. 33. v.—48. tractatio historici argumenti, cui inscriptum est: غزوة تكريت لعلي بن أبي طالب، *Expeditio Tacritensis 'Alii bin Abi Talib*, quam initio chalifatus contra praefectum Tacritensem Sa'ih el-Gassani, qui rebellaverat, fecit.

Fol. 48. v. in epilogo scribae annus 1157. (1743. p. Ch.) invenitur; in fine 5. versus leguntur, quorum hoc est initium:

كتب وقد أيقنت لا شك أنني،

ستغنى يدى يوماً ويبقى كتابى،  
cfr. cod. CCIV. — Accedunt 3. folia traditiones et alia nullius momenti continentia.

B. Fragmenta *historiae 'Antari* manu Europaea exarata; inscriptio legitur in medio libro: هذا كتاب الساع (sic) من سيرة الامير عنتر بن شداد بن قراد صاحب الطعن والطراد. Cfr. Cat. Cod. orient. Bibl. Bodleyanae P. II. vol. II. p. 150. N. CLXV.

## CCCIV.

(N. 179. A. et B. in 4to.)

A. *Collectio fragmentorum variorum*, in 4to, unde pauca hoc loco commemoratione digna videntur; in his:

I. Initium tractatus, qui vocatur: زخر I. Initium tractatus, qui vocatur: زخر، اعايديين، i. e. *Thesaurus adorientium*, auctore

fol. 10. Praefationis initium: الحمد لله الذى هدانا للاسلام واكرم علينا بانواع الاتصال والانعام ، ورسالة في فضائل رجب وشعبان وفضيلة شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن وفضيلة (sic) يوم العيدين يوم المغفرة للصائمين من رب الانام وفضيلة الايام العشر من ذى الحجة الى بيت الله الحرام وفضيلة يوم عاشوراء ويوم الجمعة يوم العتاق من النيران ، Subsistit fragmentum nostrum in capite de praesstantia mensis Ramadhân.

II. Initium libri (\* المنبهات , traditiones continentis, auctore *Ssafijj ed-dino A'hmed bin'Ali*, vulgo *Ibn'Hug'r* dicto, aut fortasse *Ibn'Hug'g'e*; non enim liquet; fol. 20. Initium: الحمد لله الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم (\*\*).

III. Initium compendii *jurisprudentiae secundum statuta Imâmi esch-Schâfi'i*, auctore *A'hmed bin el-Husein el-Iszfabânî*, fol. 10.

IV. Tractatio fol. 3. de occulta significatione litterarum, quae in initiis Surarum inveniuntur. B. Accedunt plurima fragmenta Coranica, varia manu exarata.

### CCCV.

(N. 180. in 4to.)

*Collectio fragmentorum* variorum minoris momenti, inter quae inveniuntur:

I. tria ultima folia còd. antiqui char. Neschi majore satis bene exarati; continent traditiones de Loqmâno ad proverbialia varia declaranda spectantes. Adnotatur fol. 3. r. هذا اخر المجلس ، et fol. 3. v. scriptio a. 619. (1223. p. Ch. n.) absoluta esse dicitur.

II. Fragmentum versionis Psalterii, fol. 12. mediocriter scripta a. 1687. p. Ch. n.

III. plagula una in fol., cui inscriptum: „*Diplique des Eueques et Patriarches des Grecs*, ou sont specifies seulement le nom des villes, vilages et Prouinces ou ils sont de residence“. Exarata est haec enumeratio a. Chr. 1733.

\*) Insunt enim: منبهات على الاستعداد ليوم المعاد.

\*\*) Eadem verba leguntur in limine cod. Regii CCLXXVIII.

### CCCVI.

(N. 55. in 8vo.)

*Collectio fragmentorum* in 8vo et forma minore, e qua commemoranda sunt:

I. Finis opusculi de flexione linguae Arab. appellati, inde a Cap. V. de formis infirmis, cfr. Cod. CXCL. fol. 33.; fol. 12. continet char. Neschi satis bene scripta.

II. Carmina didactica fol. 11. metro الرجز composita, varii argumenti, charact. Africano pessime exarata.

III. Carmina erotica fol. 24. formae minoris, charact. Neschi satis bene exarata, quae Amrul-Qaiso adscribuntur.

### Nuperrime accesserunt:

### CCCVII.

(N. 23\*. in 8vo.)

Cod. chartae Europaeae laevigatae satis bene scriptus continet كتاب الرياضات i. e. *Liber exercitationum Ignatii Loyolae* ex Latino in Arabicum sermonem per Patrem Jesuitam بطرس Sidone a. 1731. versus. Liber divisus est in proemium, 31. contemplationes [تأمل], 10. explicationes [الاعتبار] in dies 10. distribuendas.

### CCCVIII.

(N. 14\*. in 8vo; ex codd. Falbii.)

Coranus fol. 304. in 8vo, char. Neschi nitide exaratus, punctis aureis ornatus. — Nomen scriptoris indicatur: على بن سليمان افندى a. 1087. (1677. p. Ch.) In dorso ligaturae corio impressum est: لا تمسه الا المطهرون.

### CCCVIX.

(N. 106\*. in 4to; ex codd. Falbii.)

Cod. in 4to, fol. 87. char. Neschi satis bene scriptus eadem quattuor opuscula de grammatica Arabica, quae cod. CXCL. continet. Accedunt fol. 75. v.—fol. 86. v. tabulae flexionis verbi قصم cum explicatione Turcica. Exaratus est codex noster a. 1185. (1777. p. Ch.)

## Corrigenda et Addenda.

- P. 14. I. l. 12. continuo l. continuo.
- 22. I. l. 22. رَدِّقًا l. رَدِّقًا.
- 40. II. l. 19. الصَّخِيحِ l. الصَّخِيحِ.
- — l. 8. inf. حَمَر l. تَم.
- 44. II. l. 12. يَعْمُ حَكْمَهُ l. يَعْمُ حَكْمَهُ.
- — l. 14. الْمُنْقَلِبَةِ l. الْمُنْقَلِبَةِ.
- 46. I. l. 13. inf. الْفَلُوةِ l. الْفَلُوةِ.
- — II. l. 7. inf. سَلِيمِ الْجُرُثِ l. سَلِيمِ الْجُرُثِ
- 47. I. l. 2. رُقَيْبِكَ l. رُقَيْبِكَ.
- 48. I. l. 6. quibæ l. quæ.
- 49. I. l. 4. بِئِشْعَتِ l. بِئِشْعَتِ
- 52. I. l. 13 inf. Pro verbis: „Commentarius in librum“ legendum est: Commentarius in poëma didacticum metro الْحَرْجِزِ compositum, versus 314. continens, cui nomen: الْمُرْشِدِ  
الْمُعَيَّنِ الْحَرْجِزِ
- 52. II. Ad n. 4. notandum est: tractatus es-Senūsii [عقيدته] sub titulo editus est: El-Senūsī's Begriffsentwicklung des muhammedanischen Glaubensbekenntnisses von M. Wolff. Leipzig, 1848. quem Fleischerus in cat. biblioth. Dresd. n. 216, 2. commemorat.
- P. 53. II. De codice LXII. notandum est, eum apographum cod. superioris esse.
- 54. I. l. 8. يَأْمِنُ لَا يَحُوطُ leg. يَأْمِنُ لَا يَحُوطُ.
- — l. 5. inf. الْمُخْتَصِمِ l. الْمُخْتَصِمِ, de quo opere cfr. H. Ch. T. V. p. 451.
- 55. II. l. 9. inf. وَتَسْعَةُ l. وَتَسْعَةُ, et quae sequitur adnotatio de congruentia versuum numeri in cod. Dresd. omittenda est.
- 58. I. l. 11—12. وَالْبِشْرِيَّاتِ النَّذِيرَاتِ l. وَالْبِشْرِيَّاتِ النَّذِيرَاتِ  
وَالْبِشْرِيَّاتِ النَّذِيرَاتِ
- 59. I. l. 5. السَّكَنْدَرِي l. السَّكَنْدَرِي.
- — II. l. 3. السَّكَنْدَرِي l. السَّكَنْدَرِي.
- 61. II. l. 7. De significatione verbi „cathismata“ cfr. Relandi de religione Muhammedica ed. alt. Trajecti ad Rhenum 1717 p. 91. adn. b.
- 70. I. l. 13. continuatio l. continuatio,
- 73. II. l. 6. N. LVI, 5. I. N. LXI, 5.
- 73. II. Ad. N. XCIII. notandum est:

Desinit cod. inde a f. 209. v. in carmen versus 119 continens, cui inscriptum est: هذه قصيدة جامعة لغالب ما تقدم من احوال يوم القبامة واسمها قلادة الدر: انشور في ذكر البعث والانشور cfr. N. XCV.

P. 74. I. l. 2 inf. et sqq. Ad verba: Incipit codex etc. notandum est: Fol. 3. ante fol. 2 errore bibliopecti positum est, ita ut unum tantum folium intercidisse videatur.

— 75. I. in adn. l. 3 inf. bibliopecta l. bibliopecto.  
— II. l. 11 inf. tabulas IX — leg. tabulas VIII —

— 76. I. l. 5. — نلاديب I. لا —

— 79. II. l. 7. Ante verbum „Absolvitur“ inserendum est: Fol. 435. r. haec adnotatio legitur: تم في النسخة التي نقلت منها هذه هناك فيها بياض نحو عشرين سطرا ثم عقب ذلك بقوله [leg.: بيزرة]; sequitur tractatus de arte falconaria in مقدمة 3. مباحث. divisus, qui fol. 442. v. his verbis concluditur: فهذا جماع ما تدعو اليه الحاجة من هذه الصناعة وما عداه فتطويل بلا فائدة والله سبحانه الخ

— 80. II. l. 9. الغدا I. الغدا.

— — l. 12. Post verba: „varia medicamenta“ adde: numero 550.

— 85. I. l. 3. add. Chrest. Ar. par de Sacy. T. 1. p. 390. sq. et Anth. Gr. p. 433.

— 85. II. lin. ult. post: شباب الدين adde nomen: احمد.

— 86. II. lin. 11. G'enâbii l. G'ennâbii.

— 88. I. l. 8—10. Verba: „omisso — اما بعد“ delenda sunt; codex enim ut superior incipit.

— 88. II. l. 9. „Omari“ leg. „Uṣmâni“, et l. 11. pro „sequitur vita etc.“ leg. „continuantur traditiones de Uṣmâno Chalifa, quas excipiunt etc.“

P. 89. II. l. 4. inf. زهير I. زهير.

— 93. II. l. 17. Pro „Caput primum“ l. Praefatio [المقدمة], et post „fol. 3. v.“ adde: caput primum fol. 9. r. Legitur fol. 82. r.: هذا اخر ما يسر الله جمعه من هذا التاريخ وقد رأيت ان اذيت ههنا الارجوزة التي نظمها لما شملتها المسماة أحسن السلوك في نظم من ولي مدينة الزبيد من الملوك quod poema vita auctoris sequitur inde a fol. 85. r.—87. r.

— 95. I. Ad N. CXLIII. addendum est: Versio Anglica hujus operis sub titulo edita est: the history of the temple of Jerusalem translated from the Arab. Ms. of the Imâm Jalal-Addin al-Siuti with notes and dissertations by the Rev. James Reynolds London 1836.

— 95. II. l. 8. كتاب I. كان.

— 96. I. Ad N. CXLVII. I. notandum est: Inter foll. 8. et 9. aliquid excidisse videtur; ad II. l. 14. inf. pro „a. 930.“ l. 902. [Chr. 1499]; numerus Arabicus enim ثنتين legendus esse videtur, ita ut emendatione excipationis sequentis non opus sit.

— 100. II. l. 11. Post verba „vel potius ab a. 591.“ addendum est: deest enim fol. unum.

— 101. I. l. ult. حميت I. حمية.

— 102. II. l. 2. Pro Abî-rrebî' Suleimân l. Jûsuf Abi Ja'qûb.

— 106. I. l. 16. inf. et II. l. 11. inf. pro foll. 240. l. foll. 237., quo errore numeri in columnis sequentibus minus accurate indicati sunt; sic quoque in adnot. l. 4.—3. inf. l.: „ut folium 26. excipiant quae nunc sunt folia 28. 29. 27. 31. 32. 30. 35. 33. 34. 36.“ et l. 2. inf. pro „fol. 38.“ leg. 37.; l. 5. inf. leg. „bibliopecto“.

- P. 108. I. l. 11. inf. Pro *به فبئعه* l. *بها فبئعه*; et II. l. 5. pro *عمن سواء* l. *عده سواء*.
- 109. I. l. 5. inf. مقترض l. مقترض.
- 110. II. l. 3. In nota ad verba *والقضب على* *والشمسية* addendum est: „et cfr. N. CLXXXIII, IV., ubi idem opus adest“, quare verba: „sed in bibliotheca Regia non reperiuntur“ tantum de utroque opere antecedente valent.
- 110. II. Ad N. CLXXVI. notandum est: De auctore commentarii ex locis hujus operis in cod. CLXXXIV. ad verba allatis, ubi nomen indicatum est, certo statuendum est, Ibn el-‘Häg’ib hunc commentarium *الإيضاح* nominatum conscripsisse.
- 111. I. l. 4. Pro *رب يسر* l. *رف يسر*, sic ut verbum *الله* initium textus sit, quod sequitur explicatio commentatoris: *أجر على أئح*; l. 5. pro *للأمر* l. *للأم*.
- 112. II. l. 3. inf. Post verba „commentarium in Ibn el-‘Häg’ibi Kâfiam“ addendum est: editum Calcuttae a. 1818.
- 113. II. Initium descriptionis Cod. CLXXXIV sic emendandum est: „*Commentarius in Ibn el-‘Häg’ibi tractatum de flexione grammatica et orthographia*, qui *الشافية* vocatur, auctore ignoto. Textus plerumque lineis rubris distinctus est.
- 114. II. Ad N. CLXXXVII. notandum est: de Bedr ed-Dino el ‘Aini, scriptore illustrissimo, cfr. Quatremère *histoire des Sultans Mamlouks* T. I. Partie II. p. 219—228, ubi opus nostrum p. 225. 10. nominatum est.
- 115. I. l. 12. *المفتن* l. *المفتن*.
- — l. 16. *رفيق* l. *رفيق*.
- — l. 22. *Szin’häg’i* l. *Szin’häg’i*.
- P. 117. I. l. 9. Pro „Hasani bin Jusuf“ l. Jûsuf bin ‘Hasani.
- 117. II. l. 4. inf. *رحمة الله* l. *رحمة الله*.
- 118. II. De cod. CXCIX. cfr. ‘Häg’i Chalfâ T. V. p. 586.
- 119. I. in adn. lin. ult. „es“ leg. „est“.
- 121. I. l. 12. Ut sensus verborum Arabicorum prodeat, post *وقف* hoc inserendum est:
- وعلى ذلك يتخرج المغزاة: وروحوونه  
إن هند المديحة الحسنة وأى من أضمرت خي وقاء
- 121. II. l. 19. Post nomen „el-‘Hilli“ addendum est: quorum singuli versus in commentario afferuntur.
- 122. In indicatione paginae 122. pro 221. leg.
- 122. I. l. 9. Post verbum „videtur“ supplendum est: sic quoque lacuna post f. 78. adest.
- 122. I. In lin. ult. notae ultimae post „pag. 5. sqq.“ addendum est: *cujus excerpta germanice vertit et publici juris fecit: Zeitschrift d. d. m. Gesellsch. 5ter Band II. III. Heft. p. 179. sqq. et 289. sqq.*
- 123. I. Ad n. II. supplendum est: cfr. editio cl. Fleischeri: ‘Ali’s 100 Sprüche Leipzig 1837.
- 124. II. l. 1. *البدايه* l. *في بدايه بدايه*.
- 124. I. Sub n. CCX. l. 5. post nomen *محمد* *لأبي أحمد* inserendum est.
- 126. I. l. 13. Ante verbum „Continet“ inserendum est:
- „In opere illo majore versus poetarum in quinque classes divisi erant: *المطرب*, *المرفص*, *المظبول*, *المتروك*, *المسجوع*, *المقبول*, quarum definitiones

fol. 2. v.—3. r. leguntur, unde utriusque prioris, المرخص, المطرب, specimina in hoc libro afferuntur.

P. 127. I. l. 15. Pro „pag. 42—44. capitis tertii etc.“ l. „pag. 42—44. capitis tertii ejusdem sectionis pars et capitis quarti partis secundae libri primi particula: de ignibus Arabum“.

P. 129. II. l. 20. Pro الدول I. الدولة.

— 130. I. l. 14. Post „el Busti“ inserendum est: cujus idem poëma celeberrimum allatum est, quod in Cod. CCXLII. VII. legitur“; post Ibn en Nebih: „cfr. Cod. CCLXVII. f. 17. r.“

— 131. I. l. 18. الخطيب I. الخطيب.

— 143. II. l. 2. inf. العليف I. العيلف.

# **INDICES.**





# I.

## INDEX

scriptorum Arabicorum, quorum in hoc catalogo  
mentio facta est.

Nomina cum verbis ابن et ابو composita.

|                                             |                                              |                     |                                         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| ابن ابي حنبلې                               | p. 95. I.; 127. II.; 131. II.                | ابن خولوف           | p. 158. II.                             |
| أبى زندقه                                   | p. 109. I.                                   | الخبائط             | p. 151. I.                              |
| ابى عصيبية                                  | p. 108. II.                                  | دريد                | p. 105. I.; 129. II.; 147. I.; 159. II. |
| أنثيم                                       | p. 150. II.                                  | الدرة               | p. 159. I.                              |
| أجرؤم                                       | p. 115. I.                                   | الربيع              | p. 93. II.                              |
| اسرايل                                      | p. 130. I.                                   | زيدون               | p. 130. I.; 135. II.                    |
| الاعراق                                     | p. 125. II.; 138. II.; 145. I.; 153. I.      | الساعات             | p. 54. I.                               |
| الانبارى                                    | p. 119. II.                                  | السبكي              | p. 82. II.                              |
| ايبيك                                       | p. 130. I.                                   | النسكيت             | p. 119. II.                             |
| بسام                                        | p. 103. I.                                   | سودون               | p. 133. I.                              |
| البواب                                      | p. 107. I.                                   | الشحنة              | p. 85. I.                               |
| البيطار                                     | p. 79. II.; 80. I. sq.                       | شقرة - nomen falsum | p. 86. I.                               |
| الجزار                                      | p. 79. I.                                    | شيه                 | p. 88. II.                              |
| جزلة                                        | p. 80. I.                                    | الطوسي              | p. 131. II.                             |
| الحاجب                                      | p. 110. II.; 111. II.; 112. I. sq.; 113. II. | خافر                | p. 123. II.                             |
| حجه                                         | p. 121. I.; 128. I.; 138. I.; 166. I.        | عبد السلام عن الدين | p. 59. I.; 163. I.                      |
| الحجاج                                      | p. 148. II.                                  | عنا انه اسكندري     | p. 59. I.                               |
| حجر                                         | p. 166. I.                                   | العليف              | p. 143. II.                             |
| خالويه                                      | p. 147. I.                                   | عباس القرظي         | p. 130. II.                             |
| خطيب النصرية                                | p. 93. II.                                   | فارس                | p. 119. II.                             |
| الخطيب الغرناطي                             | p. 131. I.                                   | فراش                | p. 89. I.                               |
| خفاجه الاندلسي                              | p. 132. II.                                  | قتبيد               | p. 81. I.; 82. I.; 163. II.             |
| خلدون                                       | p. 84. II.                                   | القرية              | p. 159. II.                             |
| خلكان - verba ejus de Abú-l-Faragio laudan- |                                              | مالك                | p. 113. II.                             |
| tur                                         | p. 84. I.; 89. I.; 150. II.; 159. II.        | مرشد                | p. 120. II.                             |

- أبو حشيشة p. 107. I.  
 - حفص عمر p. 55. II.  
 - حنيفة p. 55. II.; 138. I.  
 - حيان الغرناطي p. 131. I.  
 - داود سليمان بن الأشعث الساجستاني p. 49. I.  
 - زيد سعيد بن أوس p. 119. II.  
 - زكريا التميمي p. 126. II.; 141. I.; 142. I.; 150. I.  
 - سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي p. 78. II.  
 - السعد p. 113. I.; 158. I.  
 - شراعة p. 107. I.  
 - شامة p. 100. I.  
 - صخر p. 107. I.  
 - المتنبى v. الطيب
- أبو أحمد بن الخطيب قاسم بن يعقوب الأماسي p. 124. I.  
 - اسحاق إبراهيم بن أبي الفتح ابن خفاجة p. 131. I.; 132. II.  
 - اسحاق القاسم محمد بن عمر الزحشمي p. 83. II.  
 - البقاي العكبري p. 110. II.  
 - بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني p. 110. I.  
 - بكر محمد بن أنوليد القرشي الفهري الظرطوشي p. 109. I.  
 - بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي p. 105. I.  
 - بكر بن محمد بن أبي بكر الفارسي p. 80. II.  
 - بكر محمد بن زكريا الرازي p. 78. II.  
 - بكر بن علي الحموي ابن حجة p. 121. I.; 128. I.  
 - تمام حبيب بن أوس p. 126. II.; 140. I.  
 - جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد p. 79. I.  
 - الحسن الشاذلي p. 46. II.; 165. I.  
 - الحسن علي بن محمد الجرجاني ابن خطيب النصرانية p. 93. II.  
 - الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي p. 102. I.  
 - الحسن علي ابن بسام p. 103. II.  
 - الحسن علي الكندي p. 126. II.  
 - الحسن علي ابن ذى الوزراتين أبي عبد الله ابن الخطيب p. 131. I.  
 - الحسن عمارة بن أبي الحسن الحكي p. 152. I.  
 - الحسن حازم p. 159. I.  
 - الحسين مسلم بن الحجاج القشيري p. 49. I.  
 - الحسين أحمد بن محمد ابن حمدان القدوري p. 54. I.  
 - الحسين عبد الرحمن بن عمر الصوفي الرازي p. 67. II.  
 - الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الأديوسي p. 89. II.
- العباس أحمد بن أحمد بن محمد } p. 46. II.  
 ابن عيسى البرنوسي المدعو بيزروق }  
 - العباس أحمد ابن عطاء الله السكندري p. 59. II.  
 - العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي p. 86. II.  
 - العباس محمد بن يزيد p. 105. II.  
 - العباس أحمد بن سلام الروزي p. 141. I.  
 - عبد الله محمد بن علي الأندلسي } p. 45. II.  
 الحاج الشاطبي الترعوري }  
 - عبد الله محمد بن اسمعيل الجعفي البخاري p. 49. I.; 93. II.  
 - عبد الله محمد بن يوسف السنوسي p. 52. II.  
 - عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن سليمان } p. 73. I.;  
 ابن أبي الربيع النقيسي الأندلسي الغرناطي } 74. I.  
 - عبد الله ياقوت بن عبد الله p. 75. II.  
 - عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي p. 104. II.  
 - عبد الله محمد بن داوود الصنهاجي p. 115. I.  
 - عبد الله الأزرق الغرناطي p. 131. I.  
 - عبد الله محمد المائلي p. 131. I.  
 - عبد الله بن أبي عبد الله محمد النجاشي p. 160. II.  
 - عبد الله عم النقراري p. 161. I.  
 - عبد الله محمد بن أحمد الساملي p. 163. I.  
 - عبد الله محمد الشمران الغرناطي p. 131. I.  
 - عبد الله محمد المقرئ p. 91. II.; 138. II.  
 - عبادة الوليد ابن عبيد الأحمر p. 141. II.  
 - أبو العيم p. 107. I.  
 - العتاعية p. 131. II.  
 - عثمان النهدي البصري p. 88. II.  
 - العز عبد المغيب بن زعيم القرني p. 89. II.; 90. I.

- p. 80. I. - علي يحيى بن عيسى ابن جزلة  
 p. 126. II.; 149. I.; 150. I. - العلاء احمد المعري  
 ابو عمارة البصرى p. 131. I.  
 عيسى محمد بن عيسى الترمذى p. 49. I.  
 العيال النهدي p. 107. II.  
 - غالب احمد بن الحسن بن احمد بن عبد الله بن البنا  
 p. 89. II.  
 - الغارات طلبيع بن رزيك الملك الصالح  
 p. 151. II.  
 - الفتح البستي p. 130. I.; 142. II.  
 - الفتح محمد الازهرى p. 137. I.  
 - الغداء p. 75. II.; 84. I.  
 - الفرج p. 83. II.  
 - الفرج البيضا p. 151. II.  
 - الفرج علي بن الحسين بن محمد الاصبهاني  
 p. 106. I. sq.  
 - الفرج ابن الجوزي p. 57. II.  
 - الفضل احمد بن الحسين الهمداني  
 p. 134. I.  
 - القاسم بن ضجوا p. 52. II.  
 - القاسم عبيد الله بن عثمان بن يحيى بن حنيفا  
 p. 89. II.  
 - القاسم عبد الكريم بن محمد الراشعي القزويني  
 p. 418. II.  
 - القاسم محمد بن ابراهيم بن خيرة بن المداعي  
 p. 125. I.  
 - مدين p. 92. I.  
 - محمد الحسين بن مسعود القراء البغوي  
 p. 48. II.  
 - - عبد الله بن ابي زيد انفيرواني  
 p. 52. I.; 53. II.  
 - - عبد الواحد بن عاشر الاندلسي ثم القاسي  
 p. 52. I.  
 - - عبد الله بن مسلم بن قتيبة  
 p. 81. I.; 163. II.  
 - - البلنسي العبدري p. 77. II.  
 - - اسمعيل بن علي بن اسمعيل الخنزي  
 p. 89. II.  
 - - عبد الملك ابن محمود الوراق  
 p. 103. I.  
 - - بن عبد العزيز السلمى p. 131. II.  
 - - القاسم بن علي الحريري  
 p. 134. II. sq.  
 - منصور عبد الملك النعاني  
 p. 122. I. sq.  
 - منصور الجواني p. 126. II.  
 - موسى سليمان بن محمد  
 p. 105. II.  
 - النصر العنبي p. 126. I.  
 - نصر اسمعيل بن حماد الجوهري  
 p. 118. I.  
 - نواس p. 130. I.  
 - حريرة p. 49. II.  
 - الوليد محمد بن الشحنة  
 p. 85. I.  
 - الوليد عبد الملك بن مروان ابن الحكم ابن  
 ابي العاص ابن امية ابو العباس الاموي  
 p. 88. II.
- p. 92. II. - الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الأزرق المكي  
 ابو يحيى عبد الرحيم بن محمد بن اسمعيل ابن ثباتا  
 p. 58. II.  
 - يحيى زكريا الانصاري p. 110. I.  
 - يحيى محمد بن ابي بكر بن عاصم  
 p. 130. II.  
 - يعقوب يوسف السكاكي p. 119. I.  
 - يوسف يعقوب بن ابراهيم  
 p. 138. I.
- ا
- ابن بن عبد الحميد p. 107. I.  
 ابراهيم بن احمد الخدي p. 114. II.  
 ابراهيم بن ابي الحسن علي بن محمد بن المبارك بن بكروس  
 p. 90. I.  
 ابراهيم ابن وصيف شاه p. 98. I.  
 اثير الدين مفتد بن عمر الابيري  
 p. 110. I.; 113. I.  
 احمد بن احمد عبد الحنف السنباشي  
 p. 70. I.  
 - بن ابي القاسم الخلوف p. 158. II.  
 - التيفانسي p. 162. I.  
 - بن الحسين الاصفهاني p. 166. I.  
 - بن عريشاه p. 104. II.  
 - العجمي p. 105. II.  
 - بن علي بن مسعود p. 116. I.  
 - بن محمد بن علي انقري انقبومي  
 p. 118. II.  
 - الشرقي p. 70. II.  
 - المقرئ p. 54. I.  
 - بن يوسف p. 107. I.  
 - بن يحيى بن احمد بن عميرة انصبي  
 p. 103. II.  
 - الحماق بن حنين p. 63. II.  
 - الحماق بن احمد بن علوس  
 scriba p. 55. II.  
 اسمعيل انقراييسي p. 107. I.  
 - اونغ بيك بن شاه رخ بن تيمور كوركن  
 p. 68. II.; 71. II.  
 - امرء القيس p. 126. I.; 142. I.; 144. II.; 166. II.  
 - ائس بن مالك p. 49. II.  
 - اوبس ابن عامر p. 88. II.  
 - ايوب ابن زار p. 60. II.
- ب
- البيضا p. 151. II.  
 بدر الدين ابو عبد الله محمد بن احمد سبط المازديني  
 p. 69. II.; 70. I.; 70. II.; 71. I.

بدر الدين أبو محمد محمود العيني p. 114. II.  
 بديع الزمان الهمداني p. 126. I.; 134. I.  
 برهان الدين أبو الفتح ناصر المنزوي p. 111. I.  
 - الدين الباوني p. 129. I.  
 بطرس فرماچ p. 166. II.  
 بكر بن خارجة p. 107. I.  
 بها الدين أبو الفضل زعيم بن محمد بن علي p. 153. I.;  
 158. I.

## ت

تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي p. 82. II.; 142. II.  
 تقي الدين أحمد بن محمد الشامي p. 114. I.  
 - الدين بن حجة p. 138. I.  
 - الدين السبكي p. 142. II.  
 - الدين محمد بن أحمد بن علي الحسني القاسمي الملكي p. 92. I.  
 تميم p. 126. I.  
 تويت p. 107. I.

## ث

ثابت ابن قرة الحراقي p. 63. II.

## ج

جامع p. 112. II.  
 جبريل بن فرحات الماروني p. 117. I.  
 جرامد الناصري p. 90. II.  
 جريير بن عطيه p. 145. II.  
 جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي p. 90. II.;  
 96. I.; 129. I.; 137. II.; 145. I.  
 جلال الدين لدواني p. 137. II.  
 - الدين القاضي p. 132. I.  
 - الدين محمد ابن نباته الفارقي p. 136. II.; 138. I.;  
 149. I.

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي }  
 بن محمد بن الجوزي الجنبلي } p. 56. I. sq.  
 - الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك p. 113. II.; 129. I.  
 - الدين أبو الحسن علي بن طاهر p. 123. II.  
 - الدين ابن الحجري p. 71. I. (bis.)  
 - الدين عبد الله المارديني p. 69. II.; 70. I.

- الدين الفقي p. 64. I.  
 - الدين موسى بن يعقوب p. 132. I.  
 - الدين يوسف p. 161. I.  
 جندل بن الراعي p. 107. II.

## ح

الحارث p. 142. I.  
 حازم p. 159. I.  
 حافظ p. 148. I.  
 حبيش p. 64. II.  
 الحجاج ابن يوسف بن مطر p. 63. II.  
 حذيفة ابن اليمان p. 88. II.  
 حسام الدين p. 113. I.  
 - nomen scribæ in Corano Cufico obvium p. 43. I.  
 حسن باشا ابن مولد علاء الدين الاسود p. 111. I.  
 الحسن بن وهب p. 107. I.  
 الحسين بن محمد بن الحسن الدياربركي p. 87. II.  
 الحسين بن محمد بن الحسن الصغاني p. 50. I.  
 حماد الراوية p. 159. II.  
 حمزة بن الحسن الاصمهالي p. 83. I.  
 حنين بن اسحق p. 64. II.

## خ

خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزعري p. 115. II.;  
 الخفاف p. 156. I.  
 الخبير الاندلسي p. 131. I.

## د

داود الانطاكي p. 79. I.  
 ديكفوز sive دينقوز p. 116. II.

## ر

الراعي p. 107. I.  
 ربيعة العدوية p. 47. I.  
 رضوان ائندي p. 71. II.

## ز

الزبير بن العوام p. 88. II.  
 زبير بن بكار p. 159. I.



## II.

## INDEX

operum Arabicorum, quorum nomina in hoc catalogo inveniuntur.

ا

- أخفاف الأخصا بقصائل المسجد الأقصى p. 94. I.  
 أخبار الدول واثار الاول p. 86. II.  
 الارجوزة p. 52. II.  
 أزهار الروضتين في أخبار الدولتين p. 100. I.  
 اساس البلاغة p. 119. II.  
 استغفار أفي مدين p. 92. I.  
 اسفار الملوك p. 60. II.  
 اسواق الاشواق p. 160. I.  
 اصطلاح المنطق p. 119. II.  
 الاعجاز والابجاز p. 122. II.  
 اغاثة العارفين وغاية منى الواصلين p. 47. II.  
 الافتتاح p. 111. I.  
 ألغية p. 113. II.; 114. II.  
 الانياب في شرح مشكلات الكتاب p. 45. II.  
 انوار العقول من اشعار وصي الرسول p. 143. I.  
 الانيس المطرب بروح القرطاس في اخبار } p. 102. I.  
 ملوك المغرب وتأريخ مدينة فاس  
 الايضاح p. 110. II.  
 ايضاح سقط الزند وضوءه p. 149. I.  
 ايساغوجي في المنطق p. 110. I.; 113. I.

ب

- بانث سعاد p. 142. II.; 145. I.  
 بحث المطالب وحث الطالب p. 117. I.  
 البحر الزخار والعيلم التبار p. 86. II.  
 البديعية p. 121. II.  
 بذل الاستضاعه في مدح صاحب الشفاعة p. 156. I.  
 البرهق البياني والفتح العثماني p. 46. II.; 121. II.; 142. II.; 154. I.; 158. I.  
 بطاركة الاسكندرية وانصاكيه p. 93. I.  
 بطاركة الاسكندرية وانصاكيه p. 62. II.  
 بغية الطلب في تاريخ حلب p. 94. I.

- بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد p. 93. I.  
 الملتبس في تاريخ رجال اهل الاندلس p. 103. II. sq.  
 النفس في حل الشمس p. 72. I.  
 الوعاة في طبقات الخويين واللغة p. 151. II.  
 ت  
 تأتية الشيخ محمد العلمي p. 58. II.  
 تأريخ الاسلام s. تأريخ الذهبي p. 88. I. sq.  
 - الامم p. 83. I.  
 - الخلقا p. 90. II.  
 - الحميسي p. 88. I.  
 - مختصر الدول p. 84. I.  
 - مصر خط p. 101. II.  
 تباشير السرور في نشراب p. 163. II.  
 تنبيه الاشرع p. 61. I.  
 تحفة الالباب وخبية الاعجاب p. 73. I.  
 - الانام في تاريخ الاسلام p. 88. I.

- الحففة النبوية في تملك آل عثمان اديار المصرية p. 101. I.  
 تحفة الطرنا p. 128. II.  
 - العروس وفضة النفوس p. 160. II.  
 - انكرام باخبار البلد الحرام p. 92. I.  
 تذكرة اولى الالباب والجامع للحجب العجائب p. 79. I.  
 ترغيب اهل الاسلام في سكنى الشام p. 59. I.; 163. I.  
 ترتيب الاسواق بترتيب احوال العشاق s. p. 160. I.  
 بتفضيل اشواق العشاق

- تساييح p. 61. I.  
 تشفيح السمع في وصف الدمع p. 163. I.  
 تصوير صور الكواكب نعبد الرحمن الصوفي p. 67. II.  
 تعزية للاولاد المنتقلين! p. 140. II.  
 التعليم المسيحي على مذهب القنصيل مرتينوس لوزيوس p. 63. II.  
 تقديم ابي بكر p. 121. I.  
 تقويم البلدان p. 75. II.

- تقديم السنة الشمسية p. 72. I.  
 تاختيخ المفتاح p. 119. I.; 120. I. sq.  
 تلطيف المزاج من شعر ابن الحجاج p. 148. II.  
 التنوير في اسقاط التديبير p. 59. II.  
 تنوير النواع في اصرار الجماع p. 161. I.  
 التهنيد p. 110. II.; 119. II.  
 التوراة p. 60. I.
- ث
- ثمرات الاوراق p. 128. I.; 151. II.  
 ثمرات القلوب p. 122. I.
- ج
- جامع المرقصات والمطربات وما يغنون به عن سائر الضبقات p. 126. I.  
 الجامع الصحاح p. 93. II.  
 جداول النسبة الستينية p. 69. I.  
 الجعبة المسيحية القاتوليكية p. 62. I.  
 الجمان في مختصر اخبار الزمان p. 85. II.  
 جنة الوددان في الحسنان من الغلمان p. 131. II.  
 جواهر النحور وروائع الامور وعجائب اندحور p. 97. I.  
 - السلوك فيمن ملك مصر من الملوك [ ] p. 98. I.  
 جواهر الفقه p. 54. II.  
 - القرآن p. 51. I.  
 الجوهر النامعة والنتيجة للجامعة p. 71. II.  
 - النقى في الرد على البيهقي p. 48. I.
- ح
- الحاشية للجيلبية على الفوائد الضبائية p. 112. II.  
 حاشية على تفسير القاسمي ابيضاوي p. 44. II.  
 الحجج المبينة في التفصيل بين مكة والمدينة p. 137. I.  
 حديث ابيس مع نوح p. 139. II.  
 - ارم ذات العباد p. 139. I.  
 - الفتى للحي مع المرأة الساحره p. 139. II.  
 - النور في الاكمام p. 139. I.  
 حرز الاقسام p. 46. II.  
 - الحاربية ibid.  
 حرب الصغبر s. حرب انجم p. 46. I.; 165. I.  
 - انوسل } p. 46. II.;  
 - الشمس }  
 - الفلاح }
- حزب الكبير p. 165. I.  
 حسن الحضرة في اخبار مصر والقاهرة p. 97. I.  
 حكاية ونتاج اليماني مع خيم القصور p. 139. I.  
 حكمة الكيمياء p. 164. I.  
 الحماسة p. 126. II.; 140. I.  
 الحميس rectius الحميس p. 87. II.  
 حيوة الحيوان الكبرى p. 78. I.; 103. I.
- خ
- خاتمة p. 104. II.  
 الخيمصى على التهنيد p. 110. II.  
 خريدة العجائب وفريدة الغرائب p. 73. II.  
 خريدة القصر وخريدة العصر p. 107. II.  
 خطبة المنزوحين p. 129. I.  
 الخلافات p. 55. II.  
 الخميس في احوال نفس نفيس p. 87. II.  
 خواص من الاقربادينا ومنافع غير واحد p. 81. II.
- د
- دير يامين p. 60. II.  
 الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد } p. 52. I.  
 المعين على اضمورى من علوم الدين }  
 الدر المندخب في تاريخ ملكة حلب p. 93. II.  
 - المننقى p. 156. II.  
 - المنصور في عجائب اوجود p. 75. I.  
 - انقبس ولل انبىس p. 131. II.  
 الدرر الفاخرات في انجمل بربع المقننرات في } p. 70. II.  
 جميع الاقنار والحيات }  
 درة الغواص p. 158. II.  
 اندرة المنخبة في الادوية احريرة p. 80. II.  
 - المنيرة في منظره الجسر والجزيرة p. 137. I.  
 دفتر الكتب في جمع الارجر p. 109. II.  
 p. 61. II.; 140. II.  
 دكده ناتسما }  
 دلائل الخيرات وشوارق الانوار في ذكر انسلوة } p. 46. I.  
 على اندى فختار }  
 ديوان ابي الحسن عمارة بن ابي الحسن p. 152. I.  
 - ابن الحيات p. 151. I.  
 - ابن المعتز p. 146. I.  
 - ابن مخرجك باشا p. 158. II.



- ديوان الادب p. 119. II. روض الأختيار المنتخب من ربيع الأثرار p. 124. I.; 136. II.
- الأرجاني p. 151. I. الروض العاطر في نزهة الخاضر p. 161. I.
- امرئ القيس ابن الحجر الكندي p. 144. II. روضة المناظر في علم الاوابيل والاواخر p. 85. I.
- بها الدين أبي الفضل p. 153. I. ربحان الألباب وربيعان الشباب في مراتب الاداب p. 125. I.
- شمس الدين محمد انصاخي } p. 158. I. ز
- الديوان النبوي s. } p. 158. I. زاد المسافر في علاج الادواء p. 79. I.
- الشهاب الخفاجي p. 158. I. زبدة الامتال p. 143. II.
- شهاب الدين أحمد اعلييف p. 143. II. زهر الرياض p. 146. I.
- الصباية p. 127. II. الزهر الغائب في وصف من تنزه عن الذنوب والقبائح p. 165. II.
- انصفي الخلي p. 155. I. س
- طيمان ابن عمرو الكلابي p. 146. I. سباحة العشقاق p. 165. I.
- علي وفا p. 156. II. سراج الملوك والخلفا ومنهاج الولاة والامرا p. 109. I.
- عمر بن الفارض p. 152. II. سقط الزند p. 149. II. sq.
- كمال الدين أبي الحسن ابن النبيه p. 152. I. سكردان مولانا السلطان p. 95. I. sq.; 127. II.
- المننبي p. 147. II. sq. سيرة الامير عنتر بن شداد p. 165. II.
- محمد بن وفا p. 156. II. ش
- الهذيلي p. 141. II. ذكر بلاد افريقية وحدودها وما سميت افريقية
- ذ p. 77. I. - العابدين p. 165. II.
- عقد الملك السعيد على بنت الامير } p. 101. I.
- سيف الدين قلاوون اللفي } p. 102. II.
- الملوك الادريسية p. 102. II.
- ذيل على خريدة الغصن وخريدة الغصن p. 107. II.
- لب اللباب p. 106. I.
- ر
- ربيع الاثرار p. 124. I.
- الرسالة في اسرار الادم ولحنت عليه p. 46. I.
- رسالة في السكنين p. 138. I.
- في العمل بالربيع الموسوم بالمقنطرات p. 70. II.; 71. I.
- الرسالة في المدخل الى علم جمل من واجب أمور الديانة p. 52. I.
- الرسالة القلمية p. 137. II. (bis)
- رسالة المسائل الشيبانية p. 79. I.
- مفاخرة السيف والقلم p. 138. I.
- في العمل بالربيع الحبيب p. 70. I.; 71. I.
- الميقاتة p. 70. I.
- الرسالة الخوية p. 118. II.
- الشافعية p. 113. II.
- شرح السلم للناظم p. 110. II.
- القاضي زكريا p. 110. I.
- الشرح الكبير p. 118. II.
- شرح مراح الأرواح p. 116. I. et II.
- الشمسية p. 110. I.; 113. I.
- الشواهد الكبرى والصغرى p. 114. II.
- ص
- الصحيح p. 117. I.; 118. I.; 119. II.
- صفحة الادب وديوان العرب p. 141. I.
- الصبيد والجوارح p. 146. I.
- ص
- صوء النسقط p. 149. II.
- ض
- في الطب النبوي p. 82. II.
- طبقات اشافعية p. 82. II.; 88. II.
- طبقات الشعرا p. 146. I.

- ع  
 مجازة القرأ للراغب في تاريخ أم القرى p. 92. II.  
 العرر والعرر في علم الاخلاق لابن الكندي p. 56. I.  
 عرر الفصائل الواضحة وعرر النقائص الفاضحة s.  
 العررى p. 116. I.  
 العقد الثمين في تاريخ البلد الامين p. 92. II.  
 عقد العقائد وضيا الفوائد p. 132. I.  
 عقود الجان في علم المعاني والبيبان p. 120. II.  
 العقيدة p. 52. II.  
 عماد البلاغة p. 122. I.  
 عمدة اهل التوفيق في شرح عقيدة اهل التوحيد p. 52. II.  
 عنوان المرقصات والمطربات p. 125. II.  
 عيون الانبياء في طبقات الاطباء p. 108. II.
- غ  
 غزوة تكريت لعلى بن ابي طالب p. 165. II.  
 غيبت الادب الندى انساجم في شرح لامية النجم p. 150. II.
- ف  
 فتح البصائر لعبد القادر p. 47. II.; 59. I.  
 فتوح بهنسا p. 91. II.  
 فتوحات عراق للواقدي p. 91. I.  
 فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد p. 114. II.  
 فصول التماثيل في تباشير السورور p. 164. I.  
 فضائل حرز الاقسام وخواصه p. 46. II.  
 الفوائد الضيائية p. 112. II.  
 - العلية في تأييد الفوائد الضيائية p. 112. II.  
 فوائد في معرفة العجل بنصف دائرة المعدل p. 70. I.
- ق  
 القاموس p. 118. I.  
 قانون نامه p. 111. I.  
 القران p. 35-44; 166.  
 القرطاس الصغير p. 102. I.  
 قرة الناظر ونزعة الخاطر p. 133. I. sq.  
 قصة بشر العابد مع هند p. 139. I.  
 - الجمجمة مع سيدنا عيسى p. 139. I.  
 - حبقار الحكيم الفارسي p. 139. II.  
 - قصر الذهب p. 165. I.  
 - ليلي العامرية مع عشيقته قيس بن الملوح p. 161. I.  
 - مدينة المحاسن p. 139. I.
- القصيدا الدانية p. 124. II.  
 قصيدة الدمياطي p. 165. I.  
 القصيدة الزينية p. 123. II.  
 قصيدة عمرى بن اعاص p. 93. II.  
 القصيدة المنفرجة p. 142. II.; 165. I.  
 القصيدة الموسوية p. 156. II.  
 - الهمزية p. 46. II.  
 قصيدة يقول العبد p. 142. II.  
 القصائد الوترية p. 153. II.  
 القطب على الشمسية p. 110. II.
- ك  
 كاتسما p. 61. II.; 140. II.  
 كتاب الكافية p. 111. II.; 112. I. sq.  
 كتاب ايسقلايس p. 64. I.  
 - الابل p. 78. II.  
 - الأربعين في أصول الدين p. 51. I.  
 - الاشارة في علم العبارة p. 162. II.  
 - الاشتقاق p. 105. I.  
 - الاشربة واختلاف الناس فيب p. 163. II.  
 - الاعاني p. 106. I.  
 - اقليدس p. 63. II.  
 - بدائع البدائه p. 123. II.  
 - برو ساعة p. 78. II.  
 - بناء الامثلة p. 116. I.  
 - الجبال والامكنة والمياه p. 83. II.  
 - حاوى المختصرات في العجل بربع المقننرات p. 69. I.  
 - الحكم والنعم p. 131. I.  
 - الخطبة p. 58. I.  
 - الرياضات p. 166. II.  
 - الشاء p. 78. II.  
 - الصرغ p. 115. II.  
 - التلب p. 80. II.  
 - عمل العطريرات p. 79. I.  
 - فضائل مصر p. 96. I.  
 - كشف رمز الحروف p. 103. I.  
 - الكواكب الثابتة s. كتاب انصور اسمائية p. 68. I.  
 - المدهش p. 56. I.  
 - المرجل p. 57. I.  
 - المعارف p. 81. I.  
 - المقصور والمحدود p. 147. I.

- المصباح في اللغة s. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير p. 119. II.
- المصاف والمنسوب p. 122. II.
- المطلب في العجل بالربع الحبيب p. 69. II.
- المطلع p. 110. I.
- المطلع على مسائل المنقح p. 53. I.; 73. II.
- المطول p. 119. II.
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص p. 120. I.
- معجم البلدان p. 75. II.
- معادن العلوم ومرسل الهموم p. 51. II.
- المغرب p. 119. II.
- المعلقات النسيح p. 142. I.
- المغرب في حلى اهل المغرب p. 126. I.
- المغنى p. 121. I.
- مفاخرة السيف والنقل p. 129. II.; 138. I.
- مفاكية الاخوان p. 146. I.
- مفتاح العلوم p. 119. I.
- المفصل p. 110. II.
- المقاصد الخفية في شرح شواهد شروح الالفية p. 114. II.
- مقامات الهمداني p. 134. I.
- المقدمة الجرمية p. 115. I.
- المقصود p. 116. I.
- المقصورة p. 129. II.; 159.
- مقطعات من مراثي p. 145. I.
- المقنع في علم ابي مقرع p. 53. I.; 73. I.
- المقياس p. 103. I.
- ملحة الاعراب p. 115. I.; 129. II. (bis)
- الملخص في علم الهيئة p. 68. I.
- المنع في شرح المقنع p. 53. I.; 73. II.
- منبهات على الاستعداد ليوم المعاد p. 166. I.
- المنتخب الصغير من الديوان الكبير p. 156. II.
- المنفرجة p. 165. I.
- منهاج البيان فيما يستعمله الانسان p. 79. II.; 80. I.
- منهج السالك الى القبة ابن مالك p. 114. I.
- منير القلوب p. 58. I.
- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار p. 95. II.
- كتاب المنظومة في الخلفات والعيون p. 55. II.
- الوصفين الظرفيين في مفاخرة الزميين الشرفيين p. 137. I.
- كشف الخلال في وصف الخلال p. 162. I.
- الظنون عن أسماء الكتب والفنون - - p. 109. II.
- كفاية الفنون في العجل بالربع المقطوع p. 70. I.
- الكلم النوايح p. 137. II.
- الكنس للجواري في الملاح من الجواري p. 131. II. sq.
- كنه المراد في بيان بانث سعاد p. 145. I.
- الكنواكب والصور p. 67. II.
- ل
- لامية المعجم p. 150. II.; 151. II.
- لب اللباب في تحرير الانساب p. 105. II.
- لنائف اخبار الأول فيمن تصرف في مصر من ارباب الدول p. 99. II.
- لوعة الشاكي ودمعة الباكي p. 161. I. sq.
- م
- مأية عامل p. 110. I.; 111. II.
- كلمة لعلى بن ابي طالب - p. 123. I.
- مبارق الارعار في شرح مشارق الانوار p. 49. II.
- المثنوي p. 70. I.
- المجمل p. 119. II.
- محصنة الابرار p. 125. II.
- المختار من نوادر الأخبار p. 138. II.
- المختصر p. 54. I.; 120. I.
- مختصر تاريخ الخلفاء p. 89. II.
- Annales Islamici Abilfedae اختصر في احوال البشر p. 84. I.
- مراج الارواح p. 116. I.; 166. II.
- مراة الزمان p. 57. II.; 83. II.
- المشرد المعين على الضروري من علوم الدين p. 52. I.
- مروج الذهب p. 82. I.
- مزامير داوود p. 61. I.
- المسامرات p. 138. II.
- مشارق الانوار في صلاح الاخبار p. 50. I.
- المشرق في حلى اهل المشرق p. 126. I.
- مصابيح السنة s. الحمابيح p. 48. I.
- مصارع العشاق p. 160. I.
- المصباح p. 111. I. sq.
- نتيجة الافكار في اعمال الليل والنهار p. 72. I.
- نخبة الزهر في عجائب البر والدحر p. 74. II.
- نزهة الالباب فيما لا يوجد في كتاب p. 161. II.
- ن

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| نزعة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين | p. 99. I.           |
| نزعة النفوس ومضحك العيوس                               | p. 133. II.         |
| النصيحة الرضية الى الطريفة الحمديّة                    | p. 58. I.           |
| نصيحة الملوك للفراني                                   | p. 151. I.          |
| نفسحة الرجحانة ورشحة طلاء الخانه                       | p. 108. I.          |
| نهاییة الأرب في فنون الادب                             | p. 87. I.; 126. II. |
| نوايح                                                  | p. 137. II.         |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| عديّة العبد القاصر الى الملك الناصر        | p. 96. II. |
| الهياكل السبعة                             | p. 47. II. |
| الوجيز                                     | p. 119. I. |
| ورد حضرة سلطان المشايخ السيد جيبى الشرواني | p. 47. I.  |
| وصية ابي حنيفة النعمان بن ثابت لابي يوسف   | p. 138. I. |
| وفيات الاعيان وأبناء ابنا الزمان           | p. 89. I.  |

## III.

## INDEX

nominum gentilium et geographicorum, quae in hoc catalogo  
occurrunt.

|           |                                                                      |                     |           |                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------|
| ا         | الابنوسى                                                             | p. 89. II.          | انقروى    | p. 39. I.                                |
|           | الاخنائى                                                             | p. 153. I.          | اوسينندى  | p. 60. II.                               |
|           | الأدكالى                                                             | p. 153. II.         | الأوشى    | p. 142. II.                              |
|           | الأرجانى                                                             | p. 151. II.         | الأينالى  | p. 130. I.                               |
|           | الأردى                                                               | p. 105. I.; 147. I. | ب         |                                          |
|           | الازرقى                                                              | p. 92. II.          | البابلى   | p. 88. II.                               |
| الازهرى   | p. 93. I.; 108. II.; 109. II.; 119. II.; 137. I.; 138. II.; 154. II. |                     | البانوى   | p. 128. II.                              |
|           | الاسحاقى                                                             | p. 99. II.          | البختيرى  | p. 141. II.                              |
|           | الاسقرانى                                                            | p. 44. II.          | البخارى   | p. 49. I.                                |
| الاشمونى  | p. 106. I.; 114. I.                                                  |                     | البدرى    | p. 119. II.                              |
| الاصبهانى | 83. I.; 106. I.; 166. I.                                             |                     | البدرائى  | p. 138. II.                              |
| الاصمعى   | p. 78. II.                                                           |                     | البرسلى   | p. 68. II.                               |
| افريقية   | p. 77. I.                                                            |                     | البرنوسى  | p. 46. II.                               |
| الانفى    | p. 101. I.                                                           |                     | البرنوسى  | p. 130. I.; 142. II.                     |
| الاماسى   | p. 124. I.                                                           |                     | البيستامى | p. 154. II.                              |
| الاموى    | p. 88. II.                                                           |                     | البشغارى  | p. 133. I.                               |
| الانبارى  | p. 89. I.                                                            |                     | البحصرى   | p. 88. II.                               |
| الاندلوسى | p. 52. I.; 73. I.; 113. II.                                          |                     | البعليكى  | p. 64. I.                                |
|           |                                                                      |                     | البغدادى  | p. 76. I.: de orthographia nominis بغداد |
|           |                                                                      |                     |           | p. 129. I.                               |

|           |                                         |                      |                             |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| البغوي    | p. 48. I.; derivatum ex                 | بغ v. بعشور          | ibd.                        |
|           |                                         | البقاي               | p. 160. I.                  |
|           |                                         | البكري               | p. 73. II.; 101. II.        |
|           |                                         | البلدخي              | p. 70. I.                   |
|           |                                         | البلنسي              | p. 77. II.                  |
|           |                                         | بهنسا                | p. 91. II.                  |
|           |                                         | البوتياجي            | p. 119. II.                 |
| البوصيري  | p. 93. I.; 142. II.; 154. I.            |                      |                             |
|           |                                         | البيضاوي             | p. 44. I. et II.            |
|           |                                         | البيهقي              | p. 48. I.                   |
| ت         |                                         |                      |                             |
| التمبريزي | p. 126. II.; 141. I.; 142. I.; 149. sq. |                      |                             |
|           |                                         | التحجاني             | p. 160. II.                 |
|           |                                         | التركماني            | p. 88. II.                  |
|           |                                         | الترمذي              | p. 49. I.                   |
|           |                                         | التزغوري             | p. 45. II.                  |
|           |                                         | التفتازاني           | p. 119. I.; 120. I.         |
|           |                                         | التكوني              | p. 112. II.                 |
|           |                                         | التلماوي             | p. 152. II.                 |
|           |                                         | تلمسان               | p. 77. I.; 95. I.; 132. II. |
|           |                                         | التنوخني             | p. 126. II.                 |
|           |                                         | التبغاشي s. انتبغاشي | p. 162. I.                  |
| ث         |                                         |                      |                             |
|           |                                         | الثعالبي             | p. 122. I.; II.             |
| ج         |                                         |                      |                             |
|           |                                         | الجبريني             | p. 93. II.                  |
| الجرجاني  | p. 110. I.; 111. II.; 113. I.           |                      |                             |
|           |                                         | الجزوي               | p. 46. I., II.; 47. I.      |
|           |                                         | جزيرة الاندلس        | p. 77. II.                  |
|           |                                         | الجعفي               | p. 49. I.                   |
|           |                                         | الجغبيني             | p. 68. I.                   |
|           |                                         | الجناي               | p. 86. II.                  |
|           |                                         | الجيني               | p. 121. II.                 |
| الجوايني  | p. 105. II.; 126. II.                   |                      |                             |
|           |                                         | الجوخني              | p. 36. I.                   |
|           |                                         | الجوزي               | p. 83. II.                  |
| الجوهري   | p. 117. I.; 119. II.                    |                      |                             |
|           |                                         | الجباني              | p. 113. II.                 |
|           |                                         | الجيلاني             | p. 47. II.                  |

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| ح       |                                                      |
|         | حاجة p. 77. I.                                       |
|         | الحراني p. 63. II.; 89. II.                          |
| الحريري | p. 115. I.; 126. I.; 129. II.; 134. I. sq.; 158. II. |
|         | الحسي p. 92. I.                                      |
|         | الحضرمي p. 84. II.                                   |
| الحلي   | p. 89. I.; 121. II.; 143. I.                         |
|         | الحلبي p. 115. I.                                    |
|         | الحموي p. 76. I.; 121. I. sq.                        |
|         | الحميدى p. 104. II.                                  |
| خ       |                                                      |
|         | الخطبي p. 89. II.                                    |
|         | الخفاجي p. 131. I.; 158. I.                          |
|         | الخوارزمي p. 55. I.                                  |
|         | الخولاني p. 156. I.                                  |
| د       |                                                      |
|         | الدماصي p. 156. II.                                  |
|         | الدميسي p. 80. I.                                    |
|         | الدمشقي p. 88. II.; 113. II.                         |
|         | الدمياطى p. 165. I.                                  |
|         | الدميري p. 78. I.; 103. I.                           |
|         | الدواني p. 137. II.                                  |
|         | الدياربيكري p. 87. II.                               |
|         | دينور p. 67. II.                                     |
| ذ       |                                                      |
|         | الذهبي p. 88. I. sq.                                 |
| ر       |                                                      |
| الرازي  | p. 67. II.; 78. II.; 80. I.                          |
|         | الرافعي p. 119. I.                                   |
|         | الرشدي p. 71. I.                                     |
|         | الرفاعي p. 59. II.                                   |
|         | الرملة p. 91. I.                                     |
|         | الروزي p. 141. I.                                    |
|         | الروضنة p. 137. I.                                   |
|         | الرومي p. 76. I.                                     |
| ز       |                                                      |
|         | الزرنامة p. 68. I.                                   |
|         | الزرنبيدي p. 89. II.                                 |

الزرندي p. 137. I.

الزوخشتری p. 44. I.; 83. II.; 110. II.; 119. II.;  
124. I.; 137. II.

الزواوي p. 161. I.

## س

السالمي p. 163. I.

سالوسي p. 53. I.

السيكي p. 82. II.; 142. II.

السيستاني p. 49.

السيدياقوسية p. 118. I.

السيكاي p. 119. I.

السيكري p. 141. II.; 146. I.

السكندري p. 59. II.

السلمي p. 131. II.

السيناطي p. 70. I.

السنيسي p. 143. I.

السنوسي p. 52. II.

السيهرودي p. 154. II.

السوداني p. 114. I.

السوسي p. 53. I.

السولاني p. 108. II.

السيرافي p. 147. I.

السيوضي p. 90. I.; 94. II.; 97. I.; 105. II.; 120. II.;  
129. I.; 137. II.; 145. I.

## ش

الشاذلي p. 46. II.; 59. II.; 165. I.

الشافعي p. 55. II.; 130. I.; 131. II.

الشاوي p. 161. I.

الشيرواي p. 110. II.

الشرواني p. 45. I.; 47. I.

الشاطبي s. انشطبي p. 45. II.; 86. I.

الشمي p. 114. I.

الشيبياني p. 55. II.

## ص

الصكرائي p. 88. I.

الصدريقي p. 101. II.

الصغاني p. 50. I.

الصفدي p. 150. I.; 151. II.

الصمادي p. 152. I.

الصنيجي p. 115. I.

صوفيا p. 51. I.

الصولي p. 146. II.

## ض

الضبي p. 103. II. sq.

## ط

الطائي p. 113. II.

الطبرنوشي p. 109. I.

الطغراي p. 150. II.; 151. II.

الطنطري p. 142. II.

الطوسي p. 131. II.

## ع

العالمي p. 88. I.

العبدري p. 77. II.

العدائي p. 144. I.

العدويّة p. 47. I.

العزمي p. 99. I.

العشماوي p. 109. II.

العطوي p. 107. I.

العكبري p. 110. II.

العكي p. 144. I.

العلمي p. 58. II.

العبري p. 120. II.

العبيي p. 114. II.

## غ

الغزنوي p. 73. I.; 131. I.; 159. I.

الغزالي p. 51. I.; 119. I.; 151. I.

## ف

الفارابي p. 119. II.

الفارسي p. 80. II.; 88. II.

الغزالي p. 88. II.; 136. I.

الغاسي p. 52. I.; 85. II.; 92. I.

فربيث p. 76. I.

فرخشا p. 76. I.

الفرغاني p. 142. II.

الفلاحي p. 129. II.

الفندورجي p. 149. II.

الفهري p. 109. I.

الغبيروزآبادي p. 118. I.; 129. I.

الغبيومي p. 118. II.

- ق
- القادري p. 98. I.  
 القدسي p. 39. I.  
 القدوري p. 54. II.  
 القراطيسي p. 107. I.  
 قرة كوزبيك p. 50. I.  
 القرفشي p. 73. II.; 109. I.  
 القراطيجي p. 159. I.  
 القراطي p. 130. II.  
 القزويني p. 113. I.; 118. II.; 119. I.  
 القسطنوني p. 84. I.  
 القسنطيني p. 157. I.  
 القشيري p. 49. I.  
 القظامي p. 107. II.  
 القظي p. 93. I.  
 القفيرواني p. 52. I.  
 القفيسي p. 73. I.
- ك
- الكتبي p. 72. II.  
 الكروي p. 166. II.  
 الكلسوليوي p. 143. II.  
 الكندي p. 96. I. sq.; 126. II.  
 الكيلاني p. 59. I.
- ل
- اللادقي p. 72. I.  
 اللخمي p. 147. I.; 153. I.  
 اللطيفي p. 165. I.  
 اللمتوني p. 161. I.  
 اللوزعي p. 164. I.
- م
- المارديني p. 48. I.; 69. II.; 70. I.  
 المالقي p. 131. I.  
 المحاسبي p. 153. I.  
 المحلي p. 48. II.  
 المخزومي p. 151. II.  
 المدني p. 144. I.  
 المرزوقي p. 141. I.  
 المرغتي p. 53. I.; 73. I.
- المسعودي p. 82. I.  
 المنطري p. 111. I. sq.; 118. II.; 119. II.  
 المعري p. 126. II.; 149. I. sq.  
 المغربي p. 68. I.; 72. II.; 86. I.  
 المقدسي p. 99. I.  
 المقرئ p. 85. II. sq.; 91. II.; 118. II.; 138. II.  
 المقرئزي p. 95. II.  
 مكا p. 76. II.  
 المكي p. 92. I.; 144. I.  
 المنوفي p. 99. II.  
 المهدي p. 153. I.  
 الميبداني p. 107. I.
- ن
- الناصري p. 90. II.  
 النستراوي p. 157. I.  
 النسفي p. 55. I.  
 النغزري p. 145. II.  
 النغزراوي p. 161. I.  
 النهدي p. 88. II.  
 النواجي p. 164. II.  
 النويري p. 87. I.; 126. II.  
 النيسابوري p. 147. II.
- هـ
- الهبطي p. 52. II.  
 الهذيلي p. 141. II.  
 الهمداني p. 126. I.; 134. I.
- و
- الواحدي p. 147.; 148.  
 الواطي p. 121. I.  
 الواقدي p. 91. I.  
 الورواي p. 161. I.  
 الوردي p. 73. II.  
 الوفاي p. 106. II.  
 الوفوي p. 106. II.
- ي
- اليشبيكي p. 161. II.